

for Fran with  
lots of ♥  
from latya  
Mumbai 03.01.2015

دل کو اظہارِ سخن انوارِ فتحِ الباب  
یاں صریدِ خامہ پیر از اصطفا کدر نہیں  
غالب

# تفہیمِ غالب

قدیم و جدید شعریات کی روشنی میں غالب کے منتخب اشعار کی شرح

شمس الرحمن فاروقی



غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی

غور تقص و کمال الفاظ ضروری ست  
میرزا عبدالقادر بیدل

Wonder-exciting vigour, intensesness and peculiarity of thought, using at will the almost boundless stores of a capacious memory, and exercised on subjects, where we have no right to expect it-this is the wit of Donne!

S.T. COLERIDGE

Understanding it is not a preparation for reading the poem. It is itself the poem.

L.A. RICHARDS

(© جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ)

Tafheem-e-Ghalib  
By :  
Shamsur Rahman Faruqi

(Third Edition)

ISBN : 81-8172-017-2

پہلی اشاعت : ۱۹۸۹ء  
دوسری اشاعت : ۲۰۰۵ء  
تیسری اشاعت : ۲۰۱۳ء  
قیمت : ۳۰۰ روپے  
مطبوعہ : اصیلا پرنٹنگ پریس، نئی دہلی



غالب انسٹیٹیوٹ،  
ایوان غالب مارگ، نئی دہلی-۲  
www.ghalibinstitute.org-- E-mail: ghalib@vsnl.net

## نثار احمد فاروقی کی یاد میں

یوسف حسنی و ای عالم چو چاہ  
 یوسف آمد رن درزن دو دست  
 در رن زن دست بیرون روز چاہ  
 چشم حس اسب است و نور حق سوار  
 چشم اسب از چشم شہ رہبر بود  
 نور حق بر نور حس را کب شود

وین رن صبر است بر امر الہ  
 از رن غافل مشو بے کہ شد دست  
 تا بہ بینی بارگاہ بادشاہ  
 بے سوار این اسب خود ناید بکار  
 چشم او بے چشم شہ مضطر بود  
 واں گبے جاں سوے حق راغب شود

(مولانا سہ روم، مشوی شریف، دفتر دوم)

## فہرست

۹	صدیق الرحمن قدوائی	حرف آغاز
۱۱	محمد شفیع قریشی	پیش لفظ
۱۳	شمس الرحمن فاروقی	دیباچہ
۲۱	شمس الرحمن فاروقی	دیباچہ طبع ثانی

## حرف آغاز

ہمیں بڑی مسرت ہے کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کتاب ”تفہیم غالب“ کا یہ نیا ایڈیشن شائع ہو رہا ہے۔ فاروقی صاحب کا علمی دنیا میں جو مرتبہ ہے اس کے پیش نظر ان کی سب ہی تحریروں کو ہر جگہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے انہوں نے ہمارے کلاسیکل ادب کے مختلف پہلوؤں پر خاص طور پر توجہ دی ہے اور اس سلسلہ میں ادبی مطالعے کے ان وسائل سے بھی استفادہ کیا ہے جو مغربی ادب کے ذریعے فراہم ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کا یہ مطالعہ ہمارے ادبی ورثے کی قدر و قیمت میں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اضافہ بھی کرتا ہے اور مزید مطالعے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔

غالب ہمارے ان شاعروں میں ہیں جن کے کلام کی متعدد تشریحات و تعبیرات ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ فن کی عظمت اور بقا کا سبب یہی ہے کہ وہ مختلف زمانوں میں اور مختلف لوگوں کے سامنے خود کو طرح طرح سے افشا کرتا ہے اور پھر بھی اس میں مزید دریافت کی گنجائش رہ جاتی ہیں اور دریافت کا یہ عمل پیچیدہ ہونے کے علاوہ لطف اندوز ہونے میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اعلیٰ شاعری خاموش اور تنہا لمحوں میں افراد کے ذہنوں



پر گویا کہ اترتی ہے۔ اس میں اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص مختلف کیفیتوں میں ایک ہی فن پارہ کو مختلف طریقوں پر سمجھے اور محسوس کرے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ہی ہماری شعریات کے بنیادی عناصر اور تصورات سے واقف ہونا بھی لازم ہے۔ جو کبھی ہمارے ہاں عام ذہنی تربیت کا حصہ تھے مگر اب جن سے آشنائی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ غالب جیسے شاعر کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کے کلام کی تفہیم کے سلسلے میں ان عقیدوں کو دیکھا جائے۔ فاروقی صاحب نے غالب کے اشعار کو سمجھنے اور سمجھانے کے سلسلے میں اس پہلو کو جتنی اہمیت دی ہے وہ آج کے قارئین کے لئے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے دیباچہ میں نہایت خوبی کے ساتھ اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دیا ہے۔

فاروقی صاحب غالب کی شاعری اور اس کی تفہیم کے مسائل پر مستقل غور کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ موجودہ ایڈیشن میں انہوں نے متعدد ترمیمات و اضافے کیے ہیں۔ جن کی بدولت پہلے ایڈیشن کے مقابلے میں اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اہل نظر اس نئے ایڈیشن کا خیر مقدم کریں گے اور غالب کی شاعری سے متعلق اس کے بعد کچھ نئے سوالات بھی اٹھیں گے۔

صدیق الرحمن قدوائی

## پیش لفظ

غالب، عہد غالب اور متعلقات غالب پر تحقیق و تنقید، ترتیب و تدوین اور اشاعت سے متعلق کام غالب انسٹی ٹیوٹ نئی دہلی کے بنیادی فرائض میں شامل ہے، یہ فرائض انسٹی ٹیوٹ اپنے زمانہ قیام سے آج تک پابندی کے ساتھ انجام دیتا آرہا ہے، انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے غالب سے متعلق مذکورہ موضوعات پر اب تک کافی کتابیں شائع ہو کر خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں، ہر سال کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت جاری رہتا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ نے گزشتہ چند سال سے ہندوستان کی مختلف زبانوں میں دیوان غالب کے ترجموں کے کام پر بھی توجہ دی ہے خوشی کی بات ہے کہ کشمیری زبان میں کلام غالب کے ترجمے کا اجرا ہو چکا ہے اور ان دنوں ہندی، مراٹھی اور گجراتی کے تراجم کا کام جاری ہے۔

انسٹی ٹیوٹ نے کچھ برسوں پہلے کلام غالب کی نئی شرح لکھنے کا ایک پروجیکٹ بنایا تھا اور ملک کے مشہور غالب شناس، صاحب طرز نقاد، انشا پرداز، محقق و شاعر اور کلام غالب پر ایک خاص نظر رکھنے والے جناب شمس الرحمن فاروقی سے فرمائش کی گئی تھی کہ وہ اس خدمت کو انجام دیں موصوف نے یہ کام سنبھالنے کے بعد بڑے انہماک اور گہری لگن کے ساتھ اسے پورا کیا، دراصل وہ غالب صدی ۱۹۶۹ء سے قبل غالب کے اشعار کی تشریح کا سلسلہ 'شب خون' اپریل ۱۹۶۸ء سے شروع کر چکے تھے جسے ستمبر ۱۹۸۸ء تک انھوں نے جاری رکھا، اس طرح 'تفہیم غالب' کا یہ کام بیس برس تک ہوتا رہا، فاروقی صاحب نے

تفہیم غالب میں تمام اشعار غالب کو شامل نہیں کیا اور صرف ان اشعار کو موضوع گفتگو بنایا جن میں کسی بھی اعتبار سے بحث و مباحثے کی گنجائش سمجھی گئی ان کا قول ہے کہ ”اظہار خیال کے لیے وہی اشعار منتخب ہوں جن میں کوئی ایسا نکتہ ہو جو عام شرح سے نظر انداز ہو گیا ہو یا جن کی شرح میں کوئی ایسی بات کہنا ممکن ہو جو متداول شرح سے ہٹ کر ہو“ گویا کہ تفہیم غالب میں نہایت منتخب اشعار کو شامل کیا گیا ہے، شب خون میں اشعار کی شرح جس طرح ہوتی رہی اس کی باضابطہ اشاعت کے وقت فاروقی صاحب نے اس میں ضروری حذف و اضافے سے کام لیا ہے اس کی زبان کو آسان بنانے کی طرف توجہ دی ہے اور کئی اعتبار سے اس کی تحریروں کو بنایا اور سنوارا ہے۔ فاروقی صاحب کی مشرق و مغرب کی ادبیات پر گہری نظر ہے اور تفہیم غالب کی تصنیف کے وقت انھوں نے اپنے اردو قاری اور انگریزی کے مطالعے سے گہرا استفادہ کیا ہے۔

یوں تو کلام غالب کے شارحین کی ایک طویل فہرست ہے لیکن غیر اہم شارحین کو نظر انداز کرتے ہوئے فاروقی صاحب نے مشاہیر میں سے صرف بیس کو استفادے کے لیے اپنے پیش نظر رکھا ہے، ان میں سے بھی جن سے ضروری سمجھا ہے اتفاق کیا ہے اور جن سے ضروری نہیں سمجھا اختلاف کیا ہے، اسی طرح مشرق و مغرب کے ادب میں سے جس بات کو مبارک و مستحسن سمجھا ہے مانا ہے اور جس کو نہیں سمجھا، اسے نظر انداز کر دیا ہے، ان کی نظر میں مشرقی و مغربی ادبیات میں سے نہ تو تمام تر پسندیدہ ہے اور نہ سب کچھ ناپسندیدہ ان کے ان نظریات کی جھلک تفہیم غالب میں صاف طور پر نظر آتی ہے۔

تفہیم غالب میں ۱۳۸ اشعار کی تشریح نہایت تفصیلی اور مکمل بحث کے ساتھ کی گئی ہے اور ایک ایک بات کو بڑے بھرپور وزن اور دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ فاروقی صاحب نے پورے دیوان غالب کی چھان پھٹک کر کے جن اشعار کو زیادہ قابل تشریح سمجھا انھیں شرح میں پیش کر دیا ہے اور باقی کا کام آگے کے لیے چھوڑ دیا ہے، غرض یہ کہ تفہیم غالب غالب کے منتخب اشعار کی شرح کے اعتبار سے کلام غالب کا ایک ایسا آئینہ کار بنا سکتا ہے جس میں ہر بات مانا اور سمجھا جاسکتی ہے اور اس کی روشنی میں جہاں اسے کلام غالب پر ایک متوازن تنقید کا نام دے سکتے ہیں تو وہاں غالبیات میں یہ ایک اچھوتی اور نئی تصنیف کہی جاسکتی ہے۔

فاروقی صاحب اردو دوستوں اور خاص طور پر غالب پرستوں کے شکر بے کے مستحق ہیں کہ انھوں نے تفہیم غالب کو ایک خاصے کا سامان بنا کر پیش کیا اور کلام غالب کی تفہیم کی نئی راہیں کھولیں، امید ہے کہ پرستاران غالب اس سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہوں گے۔

محمد شفیع قریشی

لہذا یہی بہتر ہے کہ اس وقت تک کے غور و فکر کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔  
باقی پھر بھی سہی۔

کتابی صورت میں پیش کرنے کی غرض سے میں نے تمام تلمیحات کو دوبارہ لکھا ہے، اس معنی میں کہ ان میں اضافہ کیا ہے، بعض باتیں حذف کر دی ہیں، بعض باتوں کو زیادہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے، بعض پہلوؤں پر تاکید بڑھادی ہے، بعض پر کچھ کم کر دی ہے، زبان کو بھی آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی اس وقت جو تحریریں آپ کے سامنے ہیں وہ 'شب خون' میں شائع ہونے والی تحریروں سے جگہ جگہ لفظاً اور کئی جگہ معناً مختلف ہیں۔

## دیباچہ

مطالعات غالب کی تاریخ میں ۱۹۶۸ء اور ۱۹۶۹ء خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ۱۹۶۹ء میں غالب کی صد سالہ برسی دنیا بھر میں جگہ جگہ منائی گئی، لیکن غالب صدی تقریبات اور تصنیفات کا سلسلہ ۱۹۶۸ء ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ ۱۹۶۸ء کے شروع میں مجھے خیال آیا کہ 'شب خون' الہ آباد کی طرف سے غالب کو خراج عقیدت یوں پیش کیا جائے کہ اس کے ہر شارے میں غالب کے کسی شعر پر گفتگو کی جائے اور شرط یہ رکھی کہ اظہار خیال کے لیے وہی شعر منتخب ہوں جن میں کوئی ایسا نکتہ ہو جو عام شارح سے نظر انداز ہو گیا ہو، یا جن کی شرح میں کوئی ایسی بات کہنا ممکن ہو جو متداول شارح سے ہٹ کر ہو۔ چنانچہ 'شب خون' کے شمارہ نمبر ۲۳ بابت ماہ اپریل ۱۹۶۸ء سے 'تفہیم غالب' کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ کچھ اس قدر مقبول ہوا کہ غالب صدی تقریبات کے اختتام پذیر ہونے کے بعد بھی قائم رہا۔ اس سلسلے کی آخری تفہیم 'شب خون' شمارہ ۱۵۱ بابت ماہ ستمبر، نومبر ۱۹۸۸ء میں شائع ہوئی۔ گویا 'تفہیم غالب' کے نام سے جو کتاب اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کی مدت تصنیف بیس سال سے کچھ اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں وہ سب اشعار آگئے ہیں جن کی شرح میں متداول شارحین سے اختلاف ممکن ہے۔ اگر میں دوبارہ ردیف الف سے شروع کروں تو اغلب ہے کہ جتنے شعر اس کتاب میں شامل ہیں، اتنے ہی اور نکلیں گے جن پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بار پورے دیوان کو دیکھ جانے کے بعد اور تمام اشعار پر تادیر غور کرنے کے بعد جن اشعار پر نظر ٹھہری، ان پر اکتفا اس لیے کر رہا ہوں کہ ممکن ہے تیسری بار پڑھنے پر اور بھی اشعار نظر آجائیں۔

ادب کا ہر طالب علم اپنے پیش روؤں سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا ہے۔ لیکن بعض باتوں میں میرا ان کا اختلاف اور فرق بھی بہت شدید ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ غالب کے تمام شارح مغربی ادب سے مرعوب تھے، لیکن مغربی اصول نقد سے ان کی واقفیت واجبی تھی۔ جو کچھ مغربی ادب وہ جانتے تھے اس کی روشنی میں ان کو غالب کے یہاں بعض کم زوریاں نظر آتی تھیں اور غالب کی بعض خوبیاں انہیں عیب معلوم ہوتی تھیں۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں مغربی ادب سے واقف ہوں لیکن اس سے مرعوب نہیں ہوں۔ لہذا غالب کے بارے میں میرا رویہ پُرانے شارحوں کے رویے سے مختلف ہے۔ دوسری بات یہ کہ مشرقی شعریات، یعنی وہ شعریات جس کی ہمارے کلاسیکی شعرا نے شعوری یا غیر شعوری طور پر پابندی کی ہے، وہ میری نظر میں بہت محترم اور مستحسن ہے۔ تیسری بات یہ کہ میں اس نظریے کا شدت سے قائل ہوں کہ کسی شاعری کی فہم اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جب ہم اس شعریات سے واقف ہوں جس کی روشنی میں وہ شاعری خلق کی گئی ہے اور جس کی رو سے وہ بامعنی ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ میں سب سے پہلے اس بات سے سروکار رکھتا ہوں کہ مشرقی شعریات کی رو سے کسی شعر میں کیا خوبیاں ہیں، پھر یہ دیکھتا ہوں کہ مغربی شعریات کی رو سے اور کیا کہا جانا ممکن ہے؟ میں یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ مغربی ادب میں تفہیم شعر کے جو طریق کار متداول ہیں، اگر وہ ہمارے لیے بھی کارآمد ہو سکیں تو ان کا استعمال آزادی سے کیا جانا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ مشرقی اور مغربی ادب کے بارے میں بہت ساری معلومات بوجہ گذشتہ شارحین کی

دسترس میں نہ تھی۔ میں چونکہ ان سب کے بعد ہوں، اس لیے بقول غالب:  
از باز پسین نکتہ گزاراں ہشتم

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شعر کے وہی معنی بیان کرنا چاہیے جو شاعر کے عندیے میں ہوں۔ یہ فلسفہ شرح یعنی Hermeneutics کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل مغرب میں اس پر بہت بحث ہو رہی ہے اور اس پر حرف آخر شاید کبھی نہ کہا جاسکے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مشرقی شعریات میں شاعر کے عندیے کو کوئی خاص اہمیت نہیں حاصل ہے اور مغربی مفکروں کا بھی ایک بڑا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ہر وہ معنی جو شعر کے الفاظ سے برآمد ہو سکیں، وہ صحیح ہیں۔ میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ شعر کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کے باریک ترین معنی تلاش کریں اور جتنے کثیر معنی شعر میں ممکن ہوں، ان کو دریافت کریں۔ بڑے شعر کی خوبی یہ ہے کہ وہ مختلف زمانوں اور مختلف تناظر میں بھی با معنی رہتا ہے۔ ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس میں معنی کے امکانات کی کثرت ہو۔

کلام غالب کے اوّلین شارح تو غالب خود ہیں، اس معنی میں کہ انھوں نے اپنے خطوط میں کئی شعروں کی شرح کی ہے اور اس معنی میں بھی کہ ان کے بہت سے اردو فارسی شعر ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ غالب کے سب سے پہلے باقاعدہ شارح خواجہ امان کے بیٹے خواجہ قمر الدین رافق ہیں۔ لیکن ان کی شرح منظر عام پر نہ آسکی۔ پھر درگا پرشاد نادر کے شاگرد حلم دہلوی نے اپنی ایک کتاب میں غالب کے ۷۴ اشعار کی شرح کی ہے۔ اس کتاب کا مفصل تعارف نثار احمد فاروقی نے اپنی گراں قدر تصنیف 'تلاش غالب' میں درج کیا ہے۔ ان ہی کی عنایت سے یہ کتاب مجھے بھی دیکھنے کو ملی۔ چونکہ یہ کتاب بھی بہت کم لوگوں کی نظر میں رہی ہے، لہذا تفہیم غالب کا باقاعدہ رواج حالی کی دو کتابوں ('مقدمہ شعر و شاعری' اور 'یادگار غالب') سے شروع ہوتا ہے۔ غالب کا کوئی بھی شارح حالی سے استفادہ کیے بغیر اپنے کام کو مکمل نہیں کہہ سکتا۔ حالی کے زمانے سے اب تک غالب کی کتنی شرحیں یا غالب کے منتخب اشعار کی شرح پر مبنی کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ وقتاً فوقتاً جن تصنیفات سے میں

۱۔ بعض وجوہ کی بنا پر میں اس کتاب کو درگا پرشاد نادر دہلوی کی تصنیف نہیں سمجھتا۔ تفصیل یہاں غیر ضروری ہے۔

استفادہ کرتا رہا ہوں ان کی تفصیل (اشاعت کی اوّلین تاریخ کے اعتبار سے) حسب ذیل ہے۔ جو اڈیشن میرے مطالعے میں رہا ہے، اس کی بھی صراحت کر دی گئی ہے:

- (۱) تصنیف حلم دہلوی (زمانہ تصنیف و اشاعت ۱۸۸۰ء کے بعد)۔
- (۲) خواجہ الطاف حسین حالی: مقدمہ شعر و شاعری (الہ آباد ۱۹۵۳ء، اوّلین اشاعت ۱۸۹۳ء)۔
- (۳) خواجہ الطاف حسین حالی: یادگار غالب (لاہور ۱۹۳۰ء، اوّلین اشاعت ۱۸۹۳ء)۔
- (۴) مولانا احمد حسن شوکت میرٹھی: حل کلیات اردو مرزا غالب دہلوی (میرٹھہ ۱۸۹۹ء)۔
- (۵) علامہ سید علی حیدر نظم طباطبائی: شرح دیوان اردوے غالب (حیدرآباد، ۱۹۰۰ء)۔
- (۶) مولانا سید فضل الحسن حسرت موہانی: دیوان غالب مع شرح (دہلی، تاریخ ندرت، اوّلین اشاعت ۱۹۱۱ء)۔
- (۷) عبدالرحمن بجنوری: مقدمہ دیوان غالب، مشمولہ رسالہ حمید یہ (بھوپال ۱۹۲۱ء)۔
- (۸) علامہ محمد احمد بیخود موہانی: شرح دیوان غالب (لکھنؤ ۱۹۷۰ء، زمانہ تصنیف ۱۹۲۳ء)۔
- (۹) علامہ سہا مجددی: مطالب الغالب (لاہور ۱۹۳۱ء، طبع سوم)۔
- (۱۰) حضرت بیخود دہلوی: مرآة الغالب (دہلی ۱۹۳۵ء، اشاعت اوّل ۱۹۳۳ء)۔
- (۱۱) آغا محمد باقر: بیان غالب (امر تسر ۱۹۳۹ء)۔
- (۱۲) پنڈت جوش ملیحانی: دیوان غالب مع شرح (دہلی ۱۹۵۸ء، اشاعت اوّل ۱۹۵۱ء)۔
- (۱۳) نواب جعفر علی خاں اثر لکھنوی: مطالعہ غالب (لکھنؤ ۱۹۵۷ء، طبع دوم)۔
- (۱۴) شہاب الدین مصطفیٰ: ترجمان غالب (حیدرآباد ۱۹۵۶ء)۔
- (۱۵) یوسف سلیم چشتی: شرح دیوان غالب (دہلی ۱۹۸۳ء، اوّلین اشاعت ۱۹۵۸ء)۔
- (۱۶) نیاز فتح پوری: مشکلات غالب (لکھنؤ ۱۹۷۲ء)۔
- (۱۷) مسعود حسن رضوی ادیب: شرح طباطبائی اور تنقید کلام غالب (لکھنؤ ۱۹۷۳ء)۔
- (۱۸) تیر مسعود: تعبیر غالب (لکھنؤ ۱۹۷۳ء)۔
- (۱۹) مولانا غلام رسول مہر: نوائے سروش (لاہور، تاریخ ندرت)۔

(۲۰) منظور احسن عباسی: مراد غالب (لاہور ۱۹۷۵ء)۔

ان کے علاوہ سینکڑوں مضامین اور کتابیں تو ہیں ہی، جن میں کلام غالب پر گفتگو کی گئی ہے۔ ان کی تفصیل غیر ضروری جان کر نظر انداز کرتا ہوں۔

میں نے اس کتاب میں جگہ جگہ طباطبائی سے اختلاف کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں طباطبائی کا احترام نہیں کرتا۔ اپنی تمام کمیوں کے باوجود طباطبائی کی شرح غیر معمولی کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ ہر اس شخص کے لیے ناگزیر ہے جسے غالب یا کلاسیکی اردو شعریات سے دل چسپی ہے۔ بیخود موہانی کی شرح بھی تقریباً اتنی ہی اہم ہے اور طباطبائی کی افراط و تفریط کے لیے اچھے توازن کا بھی کام کرتی ہے۔ بیخود دہلوی اور سہا مجددی بھی انتہائی قابل قدر شارح ہیں۔ حسرت موہانی نے بہت کم اشعار کی شرح کی ہے اور بہت اختصار سے بھی کام لیا ہے، ورنہ ان کی نکتہ سنجی میں کلام نہیں۔ طالب علموں کے لیے آغا باقر سب سے بہتر ہیں، ان کے بعد جوش ملیحانی۔ آغا باقر نے مختلف شارحین کی رائے کو محنت سے یک جا کر دیا ہے۔ اس طرح ان کی شرح بہت سی شروح کے مطالعے سے تقریباً بے نیاز کر دیتی ہے۔ بیخود موہانی کی شرح ان کے زمانے میں شائع نہ ہوئی تھی، ورنہ اس کے اقتباسات سے باقر کی کتاب اور بھی کارآمد ہو جاتی۔

اشعار کا متن عام طور پر نسخہ عرشی (اشاعت اول، انجمن ترقی اردو علی گڑھ ۱۹۵۸ء اشاعت دوم، انجمن ترقی اردو دہلی ۱۹۸۲ء) کے مطابق ہے۔ شرح کے لیے اشعار بھی کم و بیش اسی ترتیب سے اٹھائے گئے تھے جس ترتیب سے مولانا عرشی مرحوم نے درج کیے تھے۔ کتابی شکل میں جمع کرتے وقت میں نے اشعار کی ترتیب متداول دیوان کے مطابق کر دی ہے۔ جناب کالی داس گپتا رضانے اپنے معرکہ آرا ایڈیشن دیوان غالب کامل (بہمنی ۱۹۸۸ء) میں تمام اشعار زمانہ تصنیف کے اعتبار سے جمع کیے ہیں۔ میں نے ان کی بیش قیمت تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کتاب میں شرح کردہ ہر شعر کے سامنے اس کا زمانہ تصنیف لکھ دیا ہے۔ لیکن میں نے دو جگہ جناب رضانے سے اختلاف بھی کیا ہے۔ شعر نمبر ۱۱۹ کا زمانہ تصنیف انھوں نے نہ معلوم کس بنا پر ۱۸۱۶ء لکھا ہے، جب کہ ۱۸۱۶ء کے ماخذ میں وہ شعر نہیں ہے۔ چوں کہ یہ شعر پہلی بار نسخہ حمید یہ میں نظر آتا ہے اس لیے میں نے اس کا زمانہ ۱۸۲۱ء متعین کیا ہے۔ شعر نمبر ۱۳۰ کی تاریخ میں نے

۱۸۲۱ء کے بعد لیکن ۱۸۲۶ء سے قبل متعین کی ہے، کیونکہ یہ شعر پہلی بار نسخہ شیرانی میں ملتا ہے۔ اس نسخے کا زمانہ کتابت مولانا عرشی نے ۱۸۲۶ء قرار دیا ہے۔ چونکہ یہ شعر نسخہ عرشی زادہ (۱۸۱۶ء) میں نہیں ہے، اس لیے اسے ۱۸۱۶ء تا ۱۸۲۱ء (تاریخ نسخہ حمید یہ) کے زمانے کا بھی نہیں کہہ سکتے۔ لہذا اس شعر کا زمانہ تحریر ۱۸۲۱ء کے بعد اور ۱۸۲۶ء سے قبل ٹھہرتا ہے۔

’شب خون‘ میں اشاعت کے وقت میں نے ہر شعر کی تقطیع بھی بیان کی تھی۔ جس زمانے میں تفہیم شروع ہوئی تھی، اس وقت عروسی اطلاعات عام نہ تھیں۔ اب جب کہ غالب کی بحروں پر صغیرالنسا بیگم صاحبہ اور عنوان چشتی کی مفصل تحریریں سامنے آچکی ہیں، میں نے اشعار کا وزن و بحر درج کرنا غیر ضروری سمجھ کر کتاب سے اسے حذف کر دیا ہے۔

شعر نمبر ۱۰۳ کی تفہیم عابد سہیل کے ماہنامہ ’کتاب‘ لکھنؤ، بابت ۱۹۶۹ء میں شائع ہوئی تھی۔ میرے پاس اس کی نقل نہ تھی۔ اس کی فراہمی کے لیے میں ظفر احمد صدیقی کا ممنون ہوں۔ بعض اشعار کی شرح میں تیر مسعود سے زبانی بحث مباحثہ میرے بہت کام آیا۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔

ادب کے طالب علم کے لیے لغات عصاے راہِ سخن سے کم نہیں۔ پرانے شارحوں میں یہ بہت بڑی کمزوری تھی کہ وہ لغت نہ دیکھتے تھے۔ طباطبائی کو اگر لغت دیکھنے کی عادت ہوتی تو وہ غالب پر بہت سے اعتراضات کرنے سے محفوظ رہتے۔ بیخود موہانی نے طباطبائی کے اکثر اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ بیخود کو اگر لغت دیکھنے کی عادت ہوتی تو ان کے اکثر جوابات اور زیادہ مسکت اور مستند ہو سکتے تھے۔ میں اپنے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مستند لغات کی رہنمائی کے بغیر سرزمینِ غالب میں قدم رکھنا میرے لیے ممکن نہ ہوتا۔ جن لغات کا حوالہ اس کتاب میں آیا ہے، ان کا اندراج اشاریے میں ہے۔ بہت سے لغات کا حوالہ ممکن نہیں ہو سکا ہے، لیکن میں ان سب کے احسان سے گراں بار ہوں۔ اشعار کی قرأت کے سلسلے میں یہ نسخہ عرشی کے علاوہ نسخہ عرشی زادہ اور نسخہ شیرانی (یعنی ۱۸۱۶ء اور ۱۸۲۶ء کے مخطوطوں کے عکسی ایڈیشن) نسخہ حمید یہ اور دیوان غالب ۱۸۲۱ء (عکسی ایڈیشن از کالی داس گپتا رضانے) بہت کام آئے۔ میں ان تمام محققین کا

احسان مند ہوں۔

میں غالب انسٹی ٹیوٹ کے اربابِ حل و عقد، بالخصوص جناب رشید حسن خاں کا شکر گزار ہوں کہ ان کی توجہ سے یہ کتاب موجودہ شکل میں معرض وجود میں آسکی۔ میں جناب ایوب تاباں، ڈائریکٹر انسٹی ٹیوٹ ہذا، جناب شاہد مابلی اور ڈاکٹر کامل قریشی کا بھی ممنون ہوں۔ 'شب خون' کے ان گنت پڑھنے والے خاص شکرے کے مستحق ہیں کہ اگر وہ ان تہیہات کا پر جوش استقبال نہ کرتے اور مجھ سے اکثر مباحثہ و اختلاف نہ کرتے تو میں اس سلسلے کو اتنی طویل مدت تک شاید جاری نہ رکھ سکتا۔

شمس الرحمن فاروقی

عظیم آباد

نومبر ۱۹۸۸

## دیباچہ طبع ثانی

یہ میرے لیے تعجب اور مسرت کی بات تھی کہ تفہیم غالب کی پہلی اشاعت بہت جلد ختم ہوگئی۔ غالب انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے فرمائشیں آتی رہیں کہ اس کا دوسرا ایڈیشن تیار کرو، لیکن مجھے فرصت نہ ملتی تھی۔ اس دوران یہ بھی اطلاعیں ملیں کہ سرحد کے دونوں جانب اس کے جعلی ایڈیشن دستیاب ہیں۔ اب تو اور بھی ضروری محسوس ہوا کہ تفہیم غالب کا نیا اور صحیح شدہ ایڈیشن جلد بنالیا جائے۔ لیکن بات پھر بھی ملتتی رہی۔ میں غالب انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر برادر مابلی اور اس کے سکرٹری پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی کا ممنون ہوں کہ ان کے اصرار اور یاد دہانیوں نے مجھے یہ کام مکمل کرنے پر مجبور کر ہی دیا۔ عزیز ذاکر رحیل صدیقی نے کتاب کو بڑی توجہ کے ساتھ از اول تا آخر پڑھا اور اغلاط کتابت کی نشان دہی کی۔ ایک آدھ جگہ انھوں نے عبارت کو ذرا اور واضح کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ میں نے رحیل صدیقی کی تصحیحات کو کتاب میں شامل کیا، پھر میں نے بھی کتاب کو ایک بار سرسری پڑھ ڈالا۔ اس خواندگی کے دوران کتابت کے کچھ مزید سہو مجھے دکھائی دیے تو میں نے ان کی درستی کر دی۔ کتاب کو از سر نو کمپیوٹر پر لکھوایا گیا ہے (پچھلی اشاعت کا تب کی مرہون منت تھی)۔ رحیل صدیقی نے کمپیوٹر کتابت کو بہ توجہ تمام پڑھا اور اغلاط رفع کیے۔ کتاب کا اشاریہ بھی انھوں نے از سر نو مرتب کیا۔ میں ان کا ممنون ہوں۔

جدید ایڈیشن میں بارہ شعروں کی تفہیم کا اضافہ کر کے اشعار کی تعداد ڈیڑھ سو کر دی گئی ہے۔ بعض تہیہات میں مطالب کا اضافہ کر دیا گیا ہے لیکن کوئی تبدیلی ایسی نہیں ہے

جو گزشتہ ایڈیشن کی کسی بات کو منسوخ کرتی ہو۔ کلام غالب سے میری محبت جو ساٹھ باٹھ سال پیشتر شروع ہوئی تھی، اب بھی ویسی ہی ہے اور کلام غالب کی عہد بہ عہد وسیع تر ہوتی ہوئی معنویتوں کو بھی دیکھتے ہوئے میرا خیال اب بھی یہی ہے کہ غالب نہ صرف یہ کہ دنیا کے عظیم ترین شعرا میں ہیں بلکہ معنی آفرین کلام لکھنے میں، یعنی ایسا کلام لکھنے میں جس میں معنی کے امکانات کی کثرت ہو، دنیا کے بہت کم شعرا ان کے مقابل ٹھہر سکتے ہیں۔

گزشتہ برسوں میں کئی کتابیں منظر عام پر آئیں جو تنہیم غالب سے متعلق ہیں۔ افسوس کہ جناب پرتو روہیلہ کی کتاب 'مشکلات غالب' کے سوا مجھے کوئی کتاب ایسی نہ ملی جس سے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا۔ میں بہر حال ان مصنفین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری تمہیمات غالب کو اپنے مطالعات میں شریک رکھا۔ گزشتہ اشاعت میں کوئی انتساب نہ تھا۔ اس وقت نثار احمد فاروقی حیات تھے۔ وہ میرے عزیز دوست ہونے کے علاوہ ہمارے وقت کے سب سے بڑے علمائے ادب اور غالب شناسوں میں ممتاز تھے۔ افسوس کہ اب وہ ہم میں نہیں ہیں۔ یہ اوراق بے وقت ان کی یاد کو ایک دوست کا خراج تحسین ہیں۔

شمس الرحمن فاروقی

الہ آباد، ۸ جولائی ۲۰۰۵ء

مضامین شعری را کما ہو حقہ می فہم و بہ ججج نکات و لطائف پے می برد و این فضیلتے است کہ مخصوص بعض المل سخن است اگر طبع سخن شناس داری بہ این نکتہ می رسی چه خوش فکر اگر چه کم یاب است اما خوش فہم کم یاب تر است خوشا حال شخصے کہ از ہر دو شربے یافتہ و حطے ربودہ۔

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ: (در ترجمہ غالب)  
گلشن بے خار و بلی اردو اخبار پریس ۱۸۴۳ء  
صفحہ ۲۰۴

مولانا (فضل حق خیر آبادی) کے شاگردوں میں سے ایک شخص نے ناصر علی سرہندی کے کسی شعر کے معنی مرزا صاحب سے جا کر پوچھے۔ انہوں نے کچھ معنی بیان کیے۔ اس نے وہاں سے آکر مولانا سے کہا: آپ مرزا صاحب کی سخن فہمی اور سخن سنجی کی اس قدر تعریف کیا کرتے ہیں، آج انہوں نے ایک شعر کے معنی بالکل غلط بیان کیے اور پھر وہ شعر پڑھا اور جو کچھ مرزا نے اس کے معنی کہے تھے، بیان کیے۔ مولانا نے فرمایا، پھر ان معنوں میں کیا برائی ہے؟ اس نے کہا برائی تو کچھ ہو یا نہ ہو، مگر ناصر علی کا یہ مقصود نہیں ہے۔ مولانا نے کہا اگر ناصر علی نے وہ معنی مراد نہیں لیے جو مرزا نے سمجھے ہیں تو اس نے سخت غلطی کی۔

خواجہ الطاف حسین حالی: یادگار غالب  
لاہور، شیخ مبارک علی اینڈ سنز ۱۹۳۰ء  
صفحہ ۱۸۰

(۱)

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا  
کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس بات کی وضاحت اب غالباً ضروری نہ ہو کہ اس شعر کے بارے میں طباطبائی کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے کہ ”مصنف کا یہ کہنا کہ ایران میں رسم ہے کہ دادخواہ کاغذ کے کپڑے پہن کر حاکم کے سامنے جاتا ہے، میں نے یہ ذکر نہ کہیں دیکھا نہ سنا“۔ کاغذی پیرہن پہن کر دادخواہی کے لیے جانا مشہور قدیم ایرانی رسم ہے اور کمال السطیل کا یہ شعر اس کے وجود کی دلیل کے لیے کافی ہے:

کاغذیں جامہ بہ پوشید و بدرگاہ آمد  
زادۂ خاطر من تا بہ دہی داد مرا

اس رسم سے ملتی جلتی رسم کا سراغ قدیم روم میں بھی ملتا ہے۔ قدیم رومانی رواج کی رو سے دادخواہ یا امید دار لوگ حاکم کے پاس سفید لباس پہن کر جایا کرتے تھے چنانچہ انگریزی کا لفظ Candidatus بہ معنی ”امیدوار“ اسی رسم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انگریزی میں Candid کے معنی ”صاف“ کے ہیں۔ اصل لاطینی میں Candid کے معنی تھے ”سفید اور Candidatus کے معنی ”سفید لباس پہننے والا، یعنی امیدوار“۔

غالب نے اس شعر کی تشریح میں لکھا ہے ”نقش کس کی شوخی تحریر کا فریادی ہے کہ جو صورت تصویر ہے، اس کا پیرہن کاغذی ہے۔ یعنی ہستی اگرچہ مثل تصاویر اعتبار محض ہو، موجب رنج و آزار ہے“۔ شارحین غالب نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ شعر انسان کے ضعیف البیان ہونے کے خلاف احتجاج ہے، لیکن طباطبائی اس سے متفق نہیں ہیں اور

کہتے ہیں کہ شعر میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے ہستی اعتباری سے نفرت ظاہر ہو۔ حالاں کہ معاملہ ہستی اعتباری سے نفرت کا نہیں، بلکہ صرف اس بات کا ہے کہ کاغذ کا لباس دلالت کرتا ہے فریاد اور دادخواہی پر، اور فریاد و دادخواہی غالباً اس بات کی ہے کہ مصور نے ازراہ شوخی تصویر کو ناپائیدار بنایا ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی پیدا کیا گیا ہے کہ تصویر خالق سے جدا ہو کر صفحہ قرطاس میں محبوس ہو جانے کی شکایت کر رہی ہے۔

شعر کے الفاظ ایک اور بھی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور خود غالب کی شرح اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پہلے مصرعے کا کلیدی فقرہ ”کس کی“ ہے۔ یعنی ابھی یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کی شوخی تحریر کے خلاف نقش فریادی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، یہ شعر ہستی کی بے ثباتی یا زندگی کے موجب رنج و آزار ہونے کے بارے میں تو ہے، لیکن اس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ کون سی قوت ہے جس کے جبر و اقتدار کے ہاتھوں ہر چیز مجبور ہے؟ مصرع اولیٰ کا ”کس کی“ استعجابیہ سے زیادہ استفہامیہ ہے۔ ممکن ہے کہ اگر ”کس کی شوخی تحریر“ کا صحیح جواب مل جائے تو پیکر تصویر کی دادخواہی ہو سکے۔ ”نقش“ دراصل انسان ہے، جو صورت تصویر بے زبان ہے اور زبان بے زبانی سے یہ فریاد کر رہا ہے کہ ہمیں کس نے جتلائے آزار کیا؟ اس نکتے پر بھی غور کیجئے کہ نقش بے زبان ہوتا ہے اور یہ بے زبانی ہی اس کے فریادی ہونے کی دلیل ہے۔ اس طرح کا قول مجال غالب کو بہت عزیز تھا۔

مراعات النظر (نقش، تحریر، کاغذی، پیرہن، پیکر، تصویر) کے علاوہ غالب نے اس شعر میں تجنیس صوتی کا بھی خوب اہتمام کیا ہے۔ فریادی، کس کی، شوخی، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر۔ مصرع ثانی میں ”ہر“ پر خاص تاکید ہے جو پیکر تصویر کے دورے مہملہ سے نکلا کر مصرع میں شدت اور اصرار کے عنصر کا اضافہ کرتی ہے۔

مصرع اولیٰ کا اسلوب انشائیہ یعنی استفہامی ہے۔ استفہام غالب کا خاص انداز ہے، ممکن ہے انھوں نے استفہام اور اس طرح کے دوسرے انشائیہ اسالیب کا فن میر سے سیکھا ہو۔ لیکن دیوان کا پہلا شعر، جس کا مضمون حمد پر مبنی ہونا چاہیے تھا، تنظیم دو جہاں کو معرض سوال میں لاتا ہے۔ یہ شوخی یا آزادہ روی یا عالی دماغی، غالب کی مخصوص ادا ہے۔ میر بھی خالق کائنات کے نظم و نسق کو معرض سوال میں لائے ہیں، مثلاً دیوان اول



ہی میں کہتے ہیں:

کوئی ہو محرم شوخی ترا تو میں پوچھوں

کہ بزم عیش جہاں کیا سمجھ کے برہم کی

لفظ 'شوخی' کو دیکھ کر گمان گزرتا ہے کہ تیر کا یہ شعر غالب کے ذہن میں رہا ہوگا۔ لیکن خالق کائنات کی شوخی کا مضمون اور اس پر طرہ یہ کہ اس شوخی کو موضوع سوال بنانا اور ایسے شعر کو سر دیوان رکھنا، یہ شوخی غالب سے ہی ممکن تھی۔

واضح رہے کہ بیان دو طرح کے ہوتے ہیں (۱) خبریہ (۲) انشائیہ۔ خبریہ بیان وہ ہے جس کے اوپر جھوٹ یا سچ کا حکم لگ سکے۔ انشائیہ بیان وہ ہے جس پر جھوٹ یا سچ کا حکم نہ لگ سکے۔ مثلاً یہ بیان خبریہ ہے: "میں انسان ہوں"۔ ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ بیان جھوٹ ہے یا سچ۔ مندرجہ ذیل بیانات انشائیہ ہیں: "کیا میں انسان ہوں؟"، "انسان بنو؟"، "کاش وہ انسان ہوتا"۔ ظاہر ہے کہ ان بیانات کے اوپر جھوٹ یا سچ کا حکم نہیں لگ سکتا۔ چون کہ انشائیہ بیان میں معنی کے امکانات کی کثرت ہوتی ہے اس لیے انشائیہ بیان کو خبریہ بیان پر ترجیح دیتے ہیں۔

(۲)

آشفگی نے نقش سویدا کیا درست

ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دود تھا

(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

حسرت موہانی کا بیان ہے کہ "سویدا کو داغ سے اور آشفگی کو دود سے تشبیہ دی ہے۔" یعنی حسرت کے خیال میں 'سویدا' سے مراد صوفیانہ اصطلاح والا سیاہ نقطہ نہیں جو دل میں ہوتا ہے اور جس کے ذریعے انوار الہی دل پر مرکب ہوتے ہیں۔ اس شرح میں کوئی کلام نہیں، کلام اس بات میں ہے کہ بقول حسرت آشفگی اور پریشاں خاطر کی دھوئیں سے دل میں داغ سویدا کی صورت قائم ہوئی ہے۔ کم و بیش یہی شرح طباطبائی، بیخود موہانی اور بعض دوسروں نے بیان کی ہے۔ بیخود موہانی نے 'سویدا' کے اصطلاحی معنی لیے ہیں، لیکن شعر کا مفہوم ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ آہوں کے دھوئیں نے دل میں داغ پیدا کر دیا۔

شوکت میرٹھی اور آغا باقر کا خیال ہے کہ 'آشفگی' سے مراد دھواں نہیں بلکہ محض پریشاں خاطر کی ہے۔ طباطبائی نے حسب معمول نکتہ چینی کی ہے کہ 'آشفگی' کے معنی 'پریشانی' نہیں ہوتے اور غالب نے اس لفظ کو غلط معنی میں استعمال کر کے تعہید معنوی پیدا کر دی ہے۔ بیخود موہانی نے بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ 'آشفگی' کو 'پریشانی' کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لہذا غالب نے کوئی غلطی نہیں کی۔ بہر حال اصل سوال یہ ہے کہ 'آشفگی' اپنے لغوی معنی (پریشانی) میں استعمال ہوا ہے کہ دھوئیں کے لیے استعارے کے طور پر؟ اگر 'آشفگی' کو دھوئیں کا استعارہ فرض کیا جائے تو وہ معنی برآمد ہوتے ہیں جو عام شراح نے بیان کیے ہیں کہ جس طرح دھوئیں سے داغ پڑ جاتا ہے، اسی طرح

آشفٹگی نے داغ سویدا کو دل میں پیدا کیا۔ یہ آشفٹگی جنون کی پیدا کردہ ہو سکتی ہے۔ آشفٹگی اور دوڑ میں مناسبت معنوی ہے، لہذا ہم فرض کر سکتے ہیں کہ آشفٹگی نے دھوئیں کا سا عمل کیا۔ اگر آشفٹگی اور پریشاں خاطر ہی نہ ہوتی تو داغ سویدا کا وجود بھی نہ ہوتا۔

اس شرح میں پریشانی یہ ہے کہ اصطلاحی معنی والا سویدا تو دل میں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ فرض نہیں کر سکتے کہ یہ آشفٹگی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ بیخود موبانی کے علاوہ کسی اور شارح کو اس قباحت کا احساس نہیں۔ بیخود نے کمال ذہانت سے کام لیتے ہوئے توجیہ کی ہے کہ داغ سویدا تھا تو پہلے ہی سے، لیکن عاشق یہ گمان کرتا ہے کہ یہ دراصل اس کی آشفٹگی (پریشاں خاطر ہی، آہ و زاری) کے باعث پیدا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ محض ذہانت ہے، شعر کی صحیح تفہیم نہیں، کیوں کہ خود شعر میں اس قسم کا کوئی اشارہ نہیں ہے جس کی بنا پر ہم فرض کر سکیں کہ منتظم کو یہ غلط فہمی یا خوش گمانی ہے کہ داغ سویدا دراصل میری آشفٹگی سے پیدا ہوا ہے۔

اگر سویدا کو لغوی معنی میں لیا جائے، یعنی یہ فرض کیا جائے کہ اس سے مراد محض ایک سیاہ داغ (یعنی نقش، بمعنی Impression) ہے تو کوئی ہرج نہیں۔ ایسی صورت میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ درست کیا کے معنی ہوں گے ٹھیک کیا یا مکمل کیا۔ لہذا یہ فرض کرنا پڑے گا کہ سیاہ داغ دل میں پہلے سے موجود تھا۔ کہا جاسکتا ہے کہ یہ داغ دراصل عشق کا داغ تھا، اور اب آشفٹگی نے اس کی تکمیل کی ہے۔ اب مشکل یہ آپڑتی ہے کہ اگر آشفٹگی نے داغ کو محض ٹھیک ٹھاک کیا ہے یا اس کی تکمیل ہی کی ہے تو دوسرے مصرعے میں یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں کہ داغ کا سرمایہ (یعنی داغ کا سبب، اس کے ہونے کا ذریعہ، اس کی پوری جج پونجی) دھواں ہے کیوں کہ اگر داغ پہلے سے موجود تھا تو دوڑ کو اس کا سرمایہ نہیں کہہ سکتے۔

تیس سال سے اوپر کا عرصہ ہوا جب میں نے اس شعر کی تفہیم کی تھی تو درست کیا کے معنی 'مٹا دیا'، 'دور کر دیا' تجویز کیے تھے۔ شوکت میرٹھی اور آغا باقر نے یہی معنی لیے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ شوکت نے سمجھنا تان کر پورے شعر کا مفہوم وہی بیان کیا ہے جو میں اوپر درج کر چکا ہوں۔ شوکت کہتے ہیں: "آشفٹگی عشق الہی نے میرے دل کا نقش سویدا

درست کر دیا، یعنی دنیا کی محبت کا جو داغ لگا ہوا تھا وہ مٹ گیا۔ یعنی شوکت کے خیال میں سویدا وہ تاریکی ہے جو دل میں حب غیر سے پیدا ہو گئی تھی اور آشفٹگی برابر ہے عشق الہی کے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں مفروضات کی کوئی گنجائش شعر میں نہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ شوکت کے نزدیک درست کیا کے معنی ہیں 'مٹا دیا'۔ وہ درست ہونا اور ٹھیک ہونا دونوں کو دور ہو جانا، مٹ جانا کے معنی میں لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ "نہ..... تاریکی..... زائل ہوتی نہ میرا نقش سویدا ٹھیک ہوتا۔" باقر کا خیال ہے کہ دل کے داغ سے دھواں نکلتا رہتا تھا۔ جب سارا دھواں نکل گیا تو داغ بھی مٹ گیا۔ یہ تشریح اس لیے غلط ہے کہ دل کے داغ سے دھواں نکلتے رہنے کا کوئی اشارہ شعر میں نہیں ہے اور نہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دھواں نکل گیا اور داغ غائب ہو گیا۔

ان تمام قباحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ معنی تجویز کیے تھے کہ آشفٹگی یعنی پریشاں خاطر ہی نے دل سے عشق کا داغ (نقش سویدا) ہی مٹا ڈالا۔ ظاہر ہوا کہ عشق کے داغ کی حیثیت محض دھوئیں کے داغ کی تھی جو رگڑنے اور مانجنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس شرح پر بہت لمبی بحثیں ہوئیں۔ کچھ مخالفانہ اور کچھ موافقانہ۔ خصوصاً قمر مسعود نے انتہائی عالمانہ انداز میں میری شرح سے اختلاف کیا۔ ان کے اختلاف کی خاص بنیاد اسی بات پر تھی کہ درست کرنا کے معنی 'مٹانا'، صاف کرنا نہیں ہوتے۔ میں نے کہا تھا کہ اردو میں غلطی کو درست کرنا سے اس کو بنانا، ٹھیک کرنا یا مٹا کر صاف کرنا یا کسی شے سے عیب نکال کر اسے سچا بنا کر لیتے ہیں۔ قمر مسعود صاحب کا کہنا تھا کہ بنانا، ٹھیک کرنا یا سچانا سے مٹانے اور صاف کرنے کے معنی نہیں نکلتے۔

ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ شوکت نے ٹھیک کرنا اور مٹانا کو ہم معنی استعمال کیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اردو یا فارسی کے کسی لفظ میں درست کرنا یا درست کرنا کے معنی صراحتاً 'مٹانا' یا 'صاف کرنا' نہیں درج ہیں۔ لیکن غالب کے سارے شعر کا قرینہ اسی بات پر ہے کہ درست کرنا کو 'مٹانا' یا 'صاف کرنا' کے معنی میں لیا جائے دو مستحضر شارح یعنی شوکت میرٹھی اور آغا باقر بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ قمر مسعود کی اپنی تشریح بہت لطیف ہے۔ ان کے مطابق پہلے مصرعے کا مفہوم یہ ہے کہ آشفٹگی نے دل میں نقش سویدا

کی تشکیل و تکمیل کی۔ دوسرا مصرع اس بیان پر ایک طرح کی دلیل قائم کرتا ہے کہ چونکہ 'آشفقتی' بمنزلہ دھواں ہے، اس لیے ظاہر ہوا کہ ہر داغ کا سبب دھواں ہوتا ہے۔ اس شرح کی لطافت میں کوئی کلام نہیں، لیکن اس میں بھی وہی مشکل ہے جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں۔ اگر 'آشفقتی' نے داغ کی محض تزئین و تکمیل کی ہے تو 'دود' (آشفقتی) کو داغ کا سرمایہ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اگر داغ پہلے سے موجود تھا تو دود کو اس کا سرمایہ قرار دینا درست نہ ہوگا۔

اس بحث کی روشنی میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ غالب نے 'درست کیا' کو 'مٹا دیا' صاف کر دیا' کے ہی معنی میں استعمال کیا ہے۔ دوسرے مصرعے کا لہجہ تحقیری اور طنزیہ ہے، کہ داغ دیکھنے میں تو بہت پکا لگتا ہے لیکن دراصل اس کا سرمایہ محض دھواں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس میں کوئی پائیداری نہیں۔ جب کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا سرمایہ فلاں چیز ہے اور وہ چیز جو سرمایہ ٹھہرائی جا رہی ہے، کم حقیقت ہوتی ہے (جیسے دود) تو تحقیر اور طنز کا پہلو ہمیشہ درآتا ہے۔ لہذا یہ شعر صرف یہی نہیں کہتا کہ 'آشفقتی' نے نقش سویدا کو درست کر دیا (مٹا ڈالا)۔ کیوں کہ یہ مفہوم مصرع ثانی میں 'داغ' کا سرمایہ کے پورے امکانات کا احاطہ نہیں کرتا۔ غالب کی مراد یہ ہے کہ عشق کا داغ یا آہوں کے دھوئیں کا داغ ایک معمولی سی چیز ہے جسے کوئی استقلال یا ثبات نہیں۔ دھوئیں کے داغ اور آہوں کے دھوئیں میں جو رشتہ ہے اس پر غور کیا جائے تو شعر کے معنی واضح ہو جاتے ہیں کہ جس چیز کی اصل دھواں ہو اس کو ثبات کہاں؟ دھواں خود ہی ایسی چیز ہے جو تیزی سے منتشر اور زائل ہو جاتی ہے، پھر اس کے داغ کی کیا حقیقت؟

شعر کا کمال یہ ہے کہ 'آشفقتی' اور 'دود' میں مناسبت معنوی ہے، اس کے باوجود غالب کہہ رہے ہیں کہ 'آشفقتی' نے داغ کو مٹا ڈالا۔ داغ تو پیدا ہی دھوئیں سے ہوا تھا، جس کو 'آشفقتی' سے استعارہ کرتے ہیں۔ یہاں غالب اسی 'آشفقتی' کو داغ کے زائل ہونے کا سبب بتا رہے ہیں۔ اس قسم کا استعاراتی قول محال غالب کی خاص ادا ہے۔

مضمون کے اعتبار سے یہ شعر غالب کی اس تلخ واقعیت کا اظہار کرتا ہے، جس کی سرحدیں کبھی کبھی کلیت سے مل جاتی ہیں۔ میں شعر زیر بحث کو اس طرح کے اشعار کے

زمرے میں رکھتا ہوں:

غم زمانہ نے جھاڑی نشاط عشق کی مستی  
وگر نہ ہم بھی اٹھاتے تھے لذت الم آگے  
دفاعے دلبراں ہے اتفاقی ورنہ اے ہم  
اثر فریاد دل ہائے حزیں کا کس نے دیکھا ہے  
پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن  
دست مرہون حنا رخسار رہن غازہ تھا

طباطبائی اور بیخود ہلوی نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ زمانہ گزشتہ میں وصال و ہجر وغیرہ کے جو مزے لوٹے تھے، اب وہ ”ولوے اور جوش کا زمانہ“ ختم ہو جانے کے بعد خواب جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شرح اپنی جگہ پر چاہے کتنی ہی اچھی ہو لیکن الفاظ شعر کا ساتھ نہیں دیتی۔ شعر میں تو صاف کہا گیا ہے کہ کچھ معاملات تھے اور وہ خواب میں پیش آئے تھے، نہ کہ وہ معاملات اصل زندگی میں پیش آئے تھے اور اب خواب کے سے معلوم ہوتے ہیں، بلکہ اب تو یہ عالم ہے آنکھ کھل گئی ہے اور زیاں ہے نہ سود ہے۔ نیاز فتحپوری کو بھی ’زیاں تھا نہ سود تھا‘ نے پریشانی میں ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مضمون چاہے عشق مجازی پر مبنی ہو یا عشق حقیقی پر ’زیاں تھا نہ سود تھا‘ کے معنی میں الجھن باقی رہتی ہے۔

غلام رسول تہر فرماتے ہیں ”نفع اور نقصان یا سود و زیاں کی جو بات چیت ہو رہی تھی، وہ تو خواب و خیال کی حیثیت رکھتی تھی۔ عالم بیداری میں تو کوئی معاملہ ہی پیش نہ آیا، لہذا سود و زیاں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔“ لیکن شعر میں تو ہے کہ آنکھ کھلنے پر زیاں تھا نہ سود تھا، عالم بیداری کے معاملات کا کوئی قصہ ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو معاملات عالم خواب میں تھے ان کے نہ رہنے کی بنا پر کچھ تو زیاں یا نفع کا احساس باقی رہا ہوگا۔ مثلاً دل میں لطف ہی رہا ہوگا کہ آج معشوق سے خواب میں خوب باتیں ہوئیں یا افسوس رہا ہوگا کہ خواب سے بیدار ہونا پڑا۔

اب شعر پر دوبارہ غور کریں۔ میں سود ہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم سے معاملہ کر رہا ہوں۔ کیا معاملہ کر رہا ہوں؟ یہ مجھے اب یاد نہیں رہا۔ کیا شرائط زیر بحث آئیں، کیا وعدے کیے گئے اور کیا ضمانتیں دی گئیں، کون کون سی پابندیاں عائد کی گئیں، اب کچھ یاد نہیں۔ یہ صورت حال بالکل حقیقی ہے۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، لیکن آنکھ کھلنے پر اکثر بس اتنا یاد رہتا ہے کہ فلاں بات ہوئی تھی، تفصیلات یاد نہیں آتیں۔ بھولے ہوئے خواب کی نسبت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے معاملہ خواب میں جو کچھ بازارگانی کی تھی وہ سب ختم ہوگئی، اب نہ زیاں ہے نہ سود ہے۔

لیکن معاملہ تو خیال نے کیا تھا، میں نے نہیں، تو پھر خیال سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ مشکل یہ کہتا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ چون کہ میں سو رہا تھا، اس لیے جو کچھ عالم خواب میں پیش آیا اس کا قائل میں نہیں ہوں۔ اس کا قائل میرا خیال تھا۔ لہذا ظاہر

(۳)

تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ  
جب آنکھ کھل گئی تو زیاں تھا نہ سود تھا  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

پرتو روہیلہ نے اس شعر کی شرح میں اچھی بات کہی ہے کہ ”مضمون کی ساری عمارت لفظ ’معاملہ‘ پر ہے، جس کے معنی لین دین، سود، کے ہیں اور اس کا مصدر معاملہ کردن ہے۔“ مصدر کی بات کوئی الجال الگ رکھیے، یہ نکتہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ شعر میں لفظ ’معاملہ‘ کے معنی لین دین، سود، بازارگانی ہیں۔ لیکن بات اس سے پوری طرح حل نہیں ہوتی۔ اس کے پہلے کہ ہم یہ پوچھیں کہ جو معاملہ ہو رہا تھا اس کی تفصیل یا نوعیت کیا تھی، یہ پوچھنا ضروری ہے کہ جب آنکھ کھل گئی اور معاملہ ختم ہو گیا تو پھر زیاں اور سود دونوں ہی سے کس طرح ہاتھ دھونا پڑا؟ اگر فائدہ باقی نہ رہا تو نقصان تو باقی ہی رہا ہوگا، کچھ نہیں تو یہ نقصان تو ہوا ہی کہ خواب میں معشوق کے دو بدو تھے، اس کے سامنے تھے، اب سامنا باقی نہ رہا۔

آغا باقر نے نفسیات خواب کے عالم سے شرح لکھی ہے۔ ہر چند کہ غالب کے زمانے میں یہ علم بہت ترقی یافتہ نہ تھا، لیکن بیسویں صدی کی پیش آمد غالب کے یہاں کئی جگہ ہے، لہذا یہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفسیات خواب کے مسائل جو غالب کے بہت بعد مغرب میں بیان ہوئے، ان کی ایک جھلک اس شعر میں ملتی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ باقر کے اس قول کی تصدیق ممکن نہیں کہ ”اس تمام خوابی کشمکش سے کوئی فائدہ اور نقصان مرتب نہیں ہوتا۔“ اور نہ ہی شعر میں بظاہر کوئی بات ایسی ہے جو ثابت کرے کہ آنکھ کھل جانے کے بعد جو کیفیت تھی وہ لامحالہ فائدہ یا نقصان سے ماورا تھی۔

ہے کہ یہاں 'خیال' کے فلسفیانہ معنی مراد ہیں، یعنی وہ قوت جو حس مشترک کے ذریعے حاصل کی ہوئی صورتوں کو محفوظ رکھتی ہے، اس وقت جب کہ وہ صورتیں موجود نہ ہوں۔ ان معنی کی رو سے 'خیال' ایک قوت ہے اور وہ صاحب خیال کے ارادے یا مرضی کی پابند نہیں، بلکہ حافظہ اور تخیل اور صورت گری کو کام میں لا کر غائب چیزوں کو محفوظ کرتی رہتی ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیال جو خواب میں معشوق سے معاملہ کر رہا تھا، دراصل ناموجود چیزوں کو موجود کر رہا تھا۔ جب تک خواب چلتا رہا وہ چیزیں موجود رہیں۔ خواب ختم ہوا یعنی آنکھ کھل گئی تو وہ اشیاء ناپودہ ہو گئیں۔

اس طرح شعر میں دو باتیں اہم ہیں: اول تو یہ کہ معاملات کا قائل خیال تھا، اور دوسری بات یہ کہ متکلم کو یاد نہیں ہے کہ وہ معاملات کیا تھے۔ 'زیاں تھا نہ سو تھا' کا مفہوم یہی ہے کہ مجھے اس خواب کی تفصیلات ہی یاد نہیں رہ گئیں اور شاید یہ فطری بھی تھا، کیوں کہ معاملات کرنے والی قوت 'خیال' تھی، میں نہ تھا۔ اس طرح یہ شعر انسانی اعمال کے رائیگاں ہونے کا مضمون بیان کرتا ہے، لیکن لہجہ اس قدر ظہیرا ہوا اور متین ہے کہ کہیں جذباتیت کا شائبہ نہیں۔ غضب کا شعر کہا ہے۔

(۴)

زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب  
تیر بھی سینہ بیل سے پر افشاں نکلا  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

یہ غزل رمل مثنیٰ کے مشہور وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فاعلن میں لکھی گئی ہے۔ متذکرہ بالا وزن میں عروض و ضرب (عروض = پہلے مصرعے کا آخری رکن، ضرب = دوسرے مصرعے کا آخری رکن) فاعلن بہ سکون عین کے بجائے فعلن بہ تحریک عین بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں بحر رمل مثنیٰ مخبون محذوف کہلائے گی۔ اردو شعرا نے رمل مثنیٰ کی ان دونوں شکلوں کو بکثرت استعمال کیا ہے۔ یہ بحر ترقی پسند شعرا کو بہت زیادہ محبوب رہی ہے۔ چنانچہ سرسری اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ ترقی پسند شعرا کی کم و بیش پچاس فیصدی تخلیقات انھیں اوزان میں ہیں۔

اس شعر کے معنی بیان کرتے ہوئے غالب نے لکھا ہے: ”یہ ایک بات میں نے اپنی طبیعت سے نئی نکالی ہے..... یعنی زخم تیر کی تو ہیں یہ سبب ایک رختہ ہونے کے اور نکوار کے زخم کی تحسین یہ سبب ایک طاق سا کھل جانے کے..... تیر تنگی دل کی داد کیا دیتا، وہ تو خود شوق مقام سے گھبرا کر پریشان اور سراسیمہ کھل گیا۔“ یعنی غالب زخم تیر کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کیوں کہ اس کی وجہ سے بڑا شکاف نہیں پیدا ہوتا۔ زخم اگر وسیع اور عریض ہوتا تو تنگی دل ختم ہو جاتی، یعنی تنگی دل کا انصاف ہوتا۔ تیر بے چارہ یہ کام کہاں کر سکتا تھا؟ دل کی تنگی کو وسیع کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔

بیچو دو دہلوی نے عجیب معنی نکالے ہیں کہ نشانہ باز کی غلطی سے دل کے بجائے سینے میں زخم لگا۔ زخم تو لگا، لیکن اسے لگنا چاہیے تھا دل میں کہ تنگی دل کی کچھ داہلتی۔ اس کے

بجائے سینہ شکار ہو گیا۔ یہاں تک تو بات بنتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سینے میں زخم لگنے کے باعث دل نے فرط رشک سے جان دے دی۔ یہ مفہوم شعر کے کسی لفظ سے نہیں نکلتا، لہذا تشریح ناکام ٹھہرتی ہے۔ دوسرے شارحین کہتے ہیں کہ 'دل تنگ' کے معنی 'رنجیدہ' ہیں۔ ایک ستم تو یہ تھا کہ رنجیدہ دل پر زخم لگا، یعنی تیر نے دل کی رنجیدگی کا کچھ لحاظ نہیں کیا۔ اس پر طرہ یہ کہ تیر بھی سینے سے نکلا تو پھڑ پھڑاتا ہوا۔ گویا دل میں فراخ زخم بنانے کے بعد وہ سینے کو بھی فگار کر گیا۔ اس معنی میں قباحیت یہ ہے کہ سینے کو غیر ضروری طور پر دل سے الگ فرض کیا گیا ہے۔ دل تو سینے ہی میں ہوتا ہے، اس لیے دل کو زخمی کرنے کے بعد تیر جب باہر نکلے گا تو سینے ہی تو سے نکلے گا۔ علاوہ بریں 'سینہ' بمعنی 'دل' بھی استعمال ہوتا ہے۔ کل کہہ کر جو مراد لینا استعارے کی ایک صورت ہے۔ لہذا دل کو سینے سے الگ فرض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شعر اس کے بغیر بھی با معنی ہے، جیسا کہ غالب کی اپنی تشریح سے واضح ہوتا ہے۔

ایک پہلو الیتہ ایسا ہے جس پر کسی شارح کی نظر غالباً نہیں گئی ہے۔ 'تنگی دل' پر غور کیجیے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زخم لگنے کے پہلے بھی دل تنگ ہی تھا اور زخم عشق سے توقع تھی کہ وہ تنگی دل کو زائل کر دے گا۔ لیکن دل میں تنگی اس قدر شدید تھی کہ تیر محبت کا زخم بھی کارگر نہ ہو سکا۔ دل کی تنگی کا یہ عالم تھا کہ تیر کو نکلنے کا راستہ نہ مل رہا تھا، وہ کسی طرح اپنے پر جھاڑتا ہوا پھڑ پھڑاتا نکل گیا، جس طرح کوئی پرندہ کسی تنگ مقام سے نکلتا ہے۔ لہذا مفہوم یہ نکلا کہ متکلم کا دل کاروبار جہاں اور طرز تپاک اہل دنیا سے اس قدر تنگ اور محروم تھا کہ عشق کا زخم بھی اسے فراخ نہ کر سکا۔ اس طرح 'تنگی دل' استعارہ بھی ہے اور اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ تیر اور غالب کا خاص انداز ہے۔ اس مفہوم کی روشنی میں یہ شعر غالب کی اس بنیادی یا اس انگیزی اور محرومی کی تصویر ہے کہ زخم عشق، جسے حاصل ہستی کہا جاتا ہے، وہ بھی دراصل فضول ہے، بے اثر اور بے حقیقت ہے۔

(۵)

ہو اے سیر گل آئینہ بے مہری قاتل  
کہ انداز بخوں غلطیدن نکل پسند آیا  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر میں کوئی پیچیدگی بظاہر نہیں ہے اور شارحین اس کے معنی پر کم و بیش متفق ہیں۔ بیخود دہلوی نے ایک نیا نکتہ پیدا کیا ہے کہ معشوق کو تازہ و تر پھولوں کی سیر مطلوب نہیں، بلکہ مرجھائے ہوئے، زمین پر گرے ہوئے اور ہوا کے بہاؤ کی وجہ سے ادھر ادھر بکھرتے ہوئے پھولوں اور پنکھڑیوں کی سیر مطلوب ہے کہ یہ پڑ مردہ و افسردہ پھول ہی زخموں کے خاک و خون میں تھرنے کی علامت قرار دیے جاسکتے ہیں۔ لیکن شعر کے الفاظ اس شرح کی تائید نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ اس شرح کو قبول کریں تو ایک بہت عمدہ نکتہ ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، یعنی یہ کہ مناظر فطرت بھی معشوق پر عاشق ہیں، یا عاشق ہو جاتے ہیں اور پھول اس لیے سرخ ہیں کہ وہ معشوق کی تیغ حسن یا تیغ ادا، یا تیغ تغافل سے زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سرخ پھول خود ہی علامت ہیں زخمی عاشقوں کی لہذا یہ قید بیکار ہے کہ زخموں سے مراد صرف وہ پھول ہیں جو مرجھا کر زمین پر گر پڑے ہیں۔ ایک نکتہ جس کی طرف شارحین کی نظر نہیں گئی ہے، الیتہ قابل ذکر ہے کہ صرف پھولوں یا باغ کی دیگر اشیا کو معشوق کے زخم خوردگان میں شمار کرنا کافی نہیں۔ معشوق جب سیر باغ کو نکلے گا تو راہ میں بھی لوگ اسے دیکھیں گے اور جب اسے لوگ دیکھیں گے تو زخمی بھی ہوں گے اور زخمی ہوں گے تو خاک و خون میں بھی غلٹا ہوں گے۔ لہذا معشوق اگر سیر گل کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو یہ محض بہانہ ہے باہر نکلنے کا کہ باہر نکلوں گا تو لوگ میرے جلوے سے زخمی ہو کر خاک میں تھریں گے، خون میں نہائیں گے اور یہ منظر بہت

دلچسپ اور قابل دید ہوگا۔

یہ معنی اس لیے ممکن ہو سکے ہیں کہ شعر میں 'اندازِ سخنِ غلطیدنِ بکل' کا ذکر ہے، یہ مخصوصاً نہیں کہا ہے کہ پھول معشوق کی تیغ کے زخمی ہیں اور معشوق ان کے نظارہ زخمیاری کا لطف اٹھانا چاہتا ہے۔ اس کے برخلاف شعر میں 'بکل' کا ذکر ہے، یعنی کوئی بھی شخص یا ذات جسے معشوق نے براہِ راست بکل کیا ہو یا جو معشوق کی وجہ سے بکل ہو گیا ہو۔

(۶)

مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب  
نا توانی سے حریف دم عیسیٰ نہ ہوا  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

شوکت میرٹھی لکھتے ہیں: "اس شعر میں (عیسیٰ سے) مراد معشوق ہے نہ کہ مسیح علیہ السلام۔ لیکن شعر میں ایسا کوئی قرینہ ہے نہیں۔ روسمیاتی اعتبار سے معشوق کو مسیحا ضرور کہتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہی معنی ہوں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نفس مسیح یا نفس عیسیٰ کے سامنے یا اس کے باعث، موت آجانے کا مضمون نیا نہیں ہے۔ درد کا نہایت زبردست شعر ہے:

اپنی قسمت کے ہاتھوں داغ ہوں میں  
نفس عیسوی چراغ ہوں میں  
نفس عیسوی جان بخش ہے، لیکن کبھی کبھی قاتل بھی ہو سکتا ہے، اس کی ایسی دلیل مہیا کی ہے کہ میر درد کے اعجازِ سخن کوئی پرایمان لائے ہی بنتی ہے۔ امیر خسرو کا بھی نہایت عمدہ قطعہ ہے:

از گفتن مدح دل ببرد  
شعر ارچہ تر و فصیح باشد  
گرد ز نفس چراغ مردہ  
گر خود نفس مسیح باشد

ان اشعار کے سامنے غالب کا شعر کمزور معلوم ہوتا ہے اور مضمون بھی پیش پا افتادہ ہے، یعنی عاشق کی نا توانی اور لاغری۔ لیکن طباطبائی نے اچھا نکتہ پیدا کیا ہے کہ "شاعر حرکت لب عیسیٰ کو صدمے کی حرکت سے مقدم سمجھتا ہے"۔ یعنی لب بٹے ہی تھے کہ کام تمام

ہو گیا، یعنی لیوں کے ہلنے میں بھی ایک دھماکے کی کیفیت تھی اور اس کے صدے اور دھک سے جی نکل گیا۔

پرتو روہیلہ نے کہا ہے کہ اس شعر میں ”مبالغہ اغراق کی حدوں کو پہنچا ہوا ہے“ لیکن انہوں نے یہ بات ملحوظ نہ رکھی کہ یہ شعر عاشق کی بنیادی نارسائی کا مضمون پیش کرتا ہے کہ حالات اگر سازگار بھی ہوں تو عاشق کا کام نہیں بنتا اور ایسے مضمون کے لیے جتنا بھی مبالغہ کریں کم ہے۔ ملک تقی کا زندہ جاوید شعر مبالغے ہی پر قائم ہے:

رقم کہ خار از پاکشم منزل نہاں شد از نظر  
یک لحظہ غافل غشتم و صد سالہ را ہم دور شد

ملک تقی کے شعر میں شدید المیاتی کیفیت ہے اور انسان کی تقدیر اور مجبوری کا بیان بے حدود لگتا ہے۔ غالب کا شعر بہر حال اس سے کم رتبہ ہے، لیکن اسے صرف مبالغہ کہہ کر اس کی قدر کم نہیں کی جاسکتی۔

آخری بات جو اس شعر کے بارے میں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ زیر بحث شعر جس غزل کا مقطع ہے، اس کا مطلع ہے:

دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا

ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا

کئی طالب علموں نے سوال اٹھایا ہے کہ جب مطلع کے قوافی ”تسلی/معنی“ ہیں تو اس غزل کے بعض دیگر قافیے ”تقویٰ/عیسیٰ“ کس طرح پڑھے جائیں گے؟ کیا انہیں ان کے عام تلفظ کے اعتبار سے الف مقصورہ کے ساتھ ”تقوا/عیسا“ پڑھا جائے گا؟ اگر ہاں، تو ایسی صورت میں قافیے کا کیا حشر ہوگا؟ اور اگر انہیں یاے معروف کے ساتھ ”تقویٰ/عیسیٰ“ پڑھا جائے تو اصل تلفظ کا کیا ہوگا؟

افسوس ناک بات یہ ہے کہ عام طور پر شارحین اس مسئلے پر نہ صرف خاموش رہے ہیں بلکہ انہوں نے الفاظ زیر بحث کی کتابت بھی اس طرح کرائی ہے کہ ان پر الف مقصورہ صاف نظر آتا ہے، گویا وہ قافیے کو نظر انداز کر کے ”تقوا/عیسا“ ہی تلفظ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے تو انہیں اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ غالب نے قافیے کی غلطی کی ہے۔ لیکن یہ بھی کسی شارح نے نہیں کیا۔ بعض اہم شارحین، جن کے یہاں ”تقویٰ/

عیسیٰ“ مع الف مقصورہ لکھا ہے، حسب ذیل ہیں:

آغا باقر، بیخود دہلوی، بیخود موہانی، حسرت موہانی، سہا مجددی، شوکت میرٹھی، غلام رسول مہر، نیاز چھوری۔

دیوان غالب کے جدید مرتبین میں مولانا عرشی غالباً پہلے ہیں جنہوں نے ”تقویٰ/عیسیٰ“ لکھنے کا اہتمام کیا۔ پھر حامد علی خاں اور کالی داس گپتا رضانے ان کی تقلید کی۔ لیکن ان بزرگوں نے معاملے کی وضاحت نہ کی، لہذا ان اڈیشنوں کے پڑھنے والوں کے دل میں شک باقی رہا۔ خدا نغم طباطبائی کے درجات بلند کرے کہ شارحین میں وہ تنہا ہیں جنہوں نے اس غزل میں قافیے کے تلفظ کی اہمیت کو سمجھا۔ انہوں نے لکھا:

”قافیہ تقویٰ میں مصنف نے فارسی والوں کا اتباع کیا ہے کہ وہ لوگ عربی کے جس جس کلمہ میں ی دیکھتے ہیں اس کو کبھی الف سے اور کبھی ی کے ساتھ لظم کرتے ہیں۔ تمنی و تمنا و تجلی و تجلی و تسلی و تسلی و ہیولی و ہیولی و دینی و دنیا بکثرت ان کے کلام میں موجود ہے۔“

طباطبائی نے اپنی بات ذرا مبہم رکھی اور مثالیں ایسے الفاظ کی دیں جو اردو میں ایک ہی طرح بولے جاتے ہیں، یعنی یا تو صرف یاے معروف کے ساتھ یا صرف الف کے ساتھ۔ پھر انہوں نے ”عیسیٰ“ پر کلام نہ کیا۔ لیکن اصول بہر حال انہوں نے بیان کر دیا کہ الف مقصورہ والے عربی لفظوں کو فارسی میں یاے معروف سے بھی برتا گیا ہے اور الف مقصورہ سے بھی اور غالب نے یہاں فارسی کی تقلید کی ہے۔ لہذا اس غزل میں قافیے ”تقویٰ/عیسیٰ“ پڑھے جائیں گے۔



(۷)

سائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا  
 وہ اک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا  
 (زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۶ء، قبل ۱۸۲۸ء)

سطحی نظر سے دیکھا جائے تو طباطبائی کا خیال بالکل درست ہے کہ اس شعر میں کوئی  
 معنوی خوبی نہیں، صرف حسن بیان اور بدیع کا معاملہ ہے۔ (یہ بات اور ہے کہ حسن بیان  
 دراصل حسن معنی ہی ہوتا ہے، لیکن اس بحث کا یہاں موقع نہیں) اس شعر میں حسن بیان اور  
 بدیع بھی معمولی درجے کے نہیں ہیں۔ بہشت کی تحقیر اسی کے مناسب لفظ یعنی 'گلدستہ' سے  
 کرنا اور پھر اس طرح کرنا کہ تحقیر کی تحقیر ہے اور وہی چیز باعث زینت بھی ٹھہرے  
 (گلدستے کو طاق پر سجاتے ہیں) کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ یہ اعلا درجے کے طباطبائی Wit  
 ہے جس پر اچھے سے اچھے شاعر بھی انگشت بدنداں ہو جائیں۔ پھر دیکھیے کہ 'بے خودی' کے  
 ساتھ 'طاق نسیاں' کا استعمال رعایت در رعایت کی انوکھی شکل پیدا کرتا ہے۔ جب خود کو  
 بھلا دیا ہے تو جنت جیسے معمولی گلدستے کو کیوں نہ بھلا دیں گے؟

حسرت موبانی نے ایک خفیف معنوی پہلو یہ پیدا کیا ہے کہ بے خودی کا عالم  
 ہمارے لیے اس قدر خوش گوار ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم نے جنت کو بھی فراموش کر دیا  
 ہے۔

حسرت کی توجیہ اگرچہ ہلکی ہے لیکن طباطبائی کے اس خیال کو رد کرنے کے لیے کافی  
 ہے کہ شعر میں معنوی پہلو نہیں ہے۔ لیکن ذرا سے غور کے بعد شعر سے ایک لطیف تر معنی پیدا  
 ہوتے ہیں جو تمام شراح سے مخفی رہے ہیں۔ عام اصول ہے کہ ہم جس چیز کو بھول جاتے  
 ہیں وہ ہمارے لیے معدوم ہو جاتی ہے۔ بھلائی ہوئی چیز کا وجود نہیں رہتا۔ شعر کے اصل

معنی یہ ہیں کہ زاہد جس جنت کی تعریف میں رطب اللسان ہے وہ ہمارے لیے وجود ہی  
 نہیں رکھتی۔ ہم جنت، جہنم جیسے سطحی تصورات سے آزاد ہیں۔ ہمارے استغراق فی الحقیقت  
 کا یہ عالم ہے کہ ہم ہزاو جزا سے ماورا ہو گئے ہیں۔  
 یہ بھی ملحوظ رہے کہ 'طاق نسیاں' استعارہ ہے، اس کو لغوی معنی میں استعمال کر کے  
 غالب نے استعارہ معکوس پیدا کیا ہے۔ یہ بھی تیر اور غالب کا خاص انداز ہے۔

(۸)

کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے  
 کرے جو پرتو خورشید عالم شبنمستاں کا  
 (زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۶ء، قبل ۱۸۲۸ء)

اس شعر کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرتو خورشید شبنمستاں کا کیا عالم کرتا ہے؟ اس سلسلے  
 میں جو مختلف نکات سہا مجددی، باقر، آسی وغیرہ نے بیان کیے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر  
 درست ہیں۔ (۱) جس طرح شبنم آفتاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، اسی طرح آئینے بھی  
 جلوہ محبوب کے سامنے پانی ہو کر بہ گئے۔ (اس توجیہ میں یہ نکتہ بھی ہے جس کی طرف  
 شاعرین کی نگاہ نہیں گئی ہے کہ شبنم بھاپ بن کر اڑتی ہے۔ آئینہ پہلے پانی بنا [پکھلا] پھر  
 بھاپ بنا (غائب ہو گیا)۔ آئینہ اور پانی میں مناسبت معنوی بھی ہے۔ (۲) شبنم جگمگا اٹھتی  
 ہے، آئینے بھی جگمگا اٹھے۔ (۳) شبنم ماند پڑ جاتی ہے۔ آئینے بھی ماند پڑ گئے۔  
 صرف دو نکتے ایسے ہیں جن کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی ہے۔ ایک تو لفظی، یعنی  
 'نقشہ اور عالم' کی رعایت اور دوسرا معنوی، یعنی یہ کہ شبنم کا ہر قطرہ آفتاب کو منعکس کرتا ہے  
 اور اس طرح خود آفتاب بن جاتا ہے۔ جلوہ محبوب ہر آئینے میں اس طرح منعکس ہوا کہ  
 وحدت میں کثرت کا رنگ نظر آنے لگا۔ جس طرح ہر قطرہ شبنم آفتاب بن جاتا ہے اسی  
 طرح ہر آئینے میں محبوب کے صفات پیدا ہو گئے۔

دو تین چھوٹے چھوٹے غور طلب نکات اور بھی ہیں۔ سارے شعر میں روشنی سے  
 متعلق الفاظ ہیں: آئینہ، جلوہ، پرتو، خورشید، شبنمستاں۔ لفظ 'جلوہ' خاص طور پر توجہ کے لائق  
 ہے۔ 'جلوہ' محض 'ظہور' نہیں بلکہ 'روشن ظہور' کو کہتے ہیں اور جلوے کی ایک صفت یہ بھی ہے  
 کہ وہ دیر تک ایک حال پر ٹھہرتا نہیں۔ یہ سب باتیں معشوق کے حسن اور آفتاب میں

مماثلت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ معمولی شاعر ہوتا تو 'جلوہ' کی جگہ کسی اور لفظ مثلاً 'صورت'  
 یا 'طلعت' سے کام چلا لیتا۔ پھر دیکھیے کہ شعر کی نشست الفاظ ایسی ہے کہ 'جلوے' کی جگہ  
 'پرتو' اور 'پرتو' کی جگہ 'جلوہ' رکھ دیں تو معنی میں کوئی قباحت نہیں:

کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے پرتو نے  
 کرے جو جلوہ خورشید عالم شبنمستاں کا

لیکن معشوق کے لیے 'جلوہ' اور خورشید کے لیے 'پرتو' زیادہ مناسب ہے، کیوں کہ معشوق  
 آئینہ خانے میں آیا ہے (جلوہ فگن ہے) اور خورشید دور سے اپنا پرتو ڈال رہا ہے۔ آئینہ  
 خانہ پر یہ بھی خیال آیا کہ 'خانہ' اور 'نقشہ' میں رعایت ہے، کیوں کہ 'خانہ' بمعنی 'گھر' ہے اور  
 گھر کی تعمیر نقشے کے مطابق ہوتی ہے۔ غضب کا شعر کہا ہے۔

(۹)

رنگ شکستہ صبح بہار نظارہ ہے  
یہ وقت ہے کھلنے گل ہائے ناز کا  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۱ء، قبل ۱۸۲۸ء)

اس شعر میں دو ابہام ہیں۔ اول تو یہ کہ کس کا رنگ شکستہ ہے؟ اور دوم یہ کہ صبح بہار نظارہ سے کیا مراد ہے؟ حسرت موہانی نے بہار نظارہ کو وصل کے معنی میں لے کر ایک نیا پہلو پیدا کیا ہے کہ وصل کے بعد معشوق اور بھی حسین نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ صبح وصل ہی وہ خاص وقت ہے جب معشوق گرم ناز ہوتا ہے۔ اس میں مشکل یہ ہے کہ رنگ شکستہ اور گرم ناز ہونے میں کوئی خاص ربط نہیں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ سرگرم ناز ہونے کا مناسب وقت شب وصال ہے نہ کہ صبح وصال۔ شاید اسی لیے زیادہ تر شارمین نے رنگ شکستہ سے عاشق کے چہرے کا رنگ اڑنا مراد لیا ہے۔ یعنی نظارے کی بہار کی صبح (یا اس کا آغاز) اس وقت ہوتا ہے جب عاشق کا سامنا معشوق سے ہوتا ہے۔ محبوب کے سامنے آکر عاشق کا رنگ دُور شوق و اضطراب سے فق ہو جاتا ہے۔ جس طرح صبح کو چمن میں پھول کھلتے ہیں، اسی طرح اڑا ہوا (صبح کی طرح سفید) رنگ صبح بہار نظارہ ہے، یعنی آغاز بہار نظارہ ہے اور گل ہائے ناز کے کھلنے سے عبارت ہے۔ اس شرح میں قباحت یہ ہے کہ واقعات کی ترتیب غلط ہوگئی ہے۔ ظاہر ہے کہ معشوق کا سامنا ہوتا ہے تب ہی رنگ عاشق شکستہ ہوتا ہے۔ لہذا رنگ عاشق کے شکستہ ہونے کو مقدم مان کر یہ کہنا غلط ہے کہ جب رنگ شکستہ ہوتا ہے تو صبح بہار نظارہ ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے صبح نظارہ ہوتی، پھر رنگ فق ہوتا۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ گل ہائے ناز کے کھلنے کا وقت کون سا ہے؟ اس وقت، جب عاشق کا رنگ اڑ جائے؟ یہ بات کچھ بنتی نہیں۔ پھر کیا ضروری ہے کہ معشوق

کے سامنے آکر عاشق کا رنگ اُری جائے۔ رنگ رُخ کا اڑنا تو اندرونی کا ہش اور قلبی تشویش و تردد کو ظاہر کرتا ہے۔ معشوق کے سامنے آکر تو عاشق کا رنگ اور چمک اٹھنا چاہیے نہ کہ اڑ جانا۔

اگر رنگ شکستہ سے معشوق کے چہرے کا رنگ اڑنا مراد لیں تو سب مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ معشوق کا رنگ شکستہ اس لیے ہے کہ وہ خود کسی پر عاشق ہو گیا ہے۔ خود عشق کے آزار میں مبتلا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنے معشوق سے ملنے کے لیے باہر آئے گا یا بے پردہ ہوگا۔ اس طرح اس کے اپنے عشاق کے لیے بہار نظارہ کی صبح ہو جائے گی یعنی وہ اس کو دیکھ سکیں گے اور چوں کہ اب خود اس کا دل درد مند ہے، اس لیے وہ اپنے عاشقوں کے لیے گل ہائے ناز کو کھلتے کرے گا، یعنی انھیں اپنے ناز و انداز بخوبی دکھائے گا۔ معشوق کا خود عاشق بن جانا اور اس طرح اس کا رنگ شکستہ ہو جانا، غالب نے اور جگہ بھی لکھا ہے:

ہو کے عاشق وہ پری رُخ اور نازک بن گیا  
رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے  
یہ غزل بھی اسی زمانے کی ہے جس زمانے میں شعر زیر بحث تصنیف ہوا۔

(۱۰)

شب خمار شوق ساقی رستخیز اندازہ تھا  
تا محیط بادہ صورت خانہ خمیازہ تھا  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

’خماز‘ کے کئی معنی ہیں، لیکن دو معنی یہاں مفید مطلب ہیں (۱) نشہ (۲) نشے کے اترنے کے بعد، یا نشہ اترتے وقت جو اعضا شکنی اور سستی ہوتی ہے اور جو شراب پینے سے ہی دور ہوتی ہے۔ لہذا ’خماز‘ کے معنی ہوئے ’نشے کا اُتار، شراب کی طلب‘۔ اگرچہ باقر کے بقول سعید نے اس شعر کو مہمل قرار دیا ہے، لیکن دوسرے شارحین نے اس کے معنی بالکل وضاحت سے بیان کیے ہیں۔ رات کو ساقی کے انتظار کا خمار (یعنی طلب) اس شدت سے تھا اور اس درجہ قیامت خیز تھا کہ ساغر میں بھری ہوئی شراب کے نشان تک انگڑائیوں کا تصویر خانہ بن گیا تھا۔ شراب کے جوش کو انگڑائی سے تشبیہ دی ہے۔ بے خود دہلوی نے لکھا ہے کہ انگڑائی میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھ جاتے ہیں اور رستخیز (قیامت) میں مردے ہاتھ اٹھائے ہوئے قبروں سے برآمد ہوں گے۔ اس طرح کی رعایت معنوی غالب کی مخصوص ادا ہے۔

میرا خیال ہے کہ شعر میں دو نکتے اور ہیں۔ اول یہ کہ ’شوق ساقی‘ کے معنی ’ساقی کا انتظار‘ کے علاوہ ’ساقی کا ذوق و شوق‘ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوں گے کہ ساقی کے انتظار میں نہیں بلکہ ساقی کے ذوق و شوق کے اُتار میں قیامت میں تھکن اور بے لطفی کی کیفیت تھی۔ یعنی ساقی کا ذوق و شوق نشے کی طرح تند و تیز تھا۔ رات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تخفیف ہوئی اور خمار کی صورت پیدا ہوئی۔ اس خمار میں وہی سستی اور بے لطفی تھی جو شراب کے خمار میں ہوتی ہے۔ بلکہ یہ خمار اس قدر شدید بے لطفی کا حامل تھا

کہ ساغر میں جوش کرتی ہوئی شراب بھی جو عطا ایام تک اچھل رہی تھی، انگڑائی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یعنی شراب کا جوش کرنا ذوق شراب نوشی کو بڑھانے کے بجائے کم کر رہا تھا۔ یا یہ کہ پینے والوں کو اس قدر سستی اور بے لطفی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ جوش کرتی ہوئی شراب کو بھی خمار والی انگڑائی سمجھ رہے تھے۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ انگڑائی اور رستخیز کی مناسبت کی طرف بیخود دہلوی نے اشارہ کیا ہے، لیکن شراب کے اُبال، یعنی جوش میں آکر اُٹھنے اور قیامت، جس کے لیے ’رستخیز‘ کا معنی خیز لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان میں بھی ایک لطیف مناسبت ہے۔ یعنی شراب کا جوش کرنا، اس کا اُٹھنا اور بلند ہونا ہے۔ ’قیامت‘ کے لیے بھی ’اٹھنا‘ استعمال کرتے ہیں اور قیامت میں لوگ بھی اُٹھتے اور اپنے مرقدوں سے باہر آتے ہیں۔ طباطبائی نے ’محیط بادہ‘ کو ’خط ایام‘ کے بجائے ’دریائے عے‘ کے معنی میں لیا ہے۔ یہ معنی بھی ممکن ہیں اور خود غالب کا شعر اس پر دال ہے:

بقدر ظرف ہے ساقی خمار تشنہ کامی بھی  
جو تو دریائے عے ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا

سمندر میں چوں کہ موجیں اُٹھتی ہی ہیں، اس لیے ’خمیازہ‘ (جس میں ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں) اس کے اعتبار سے بہت مناسب ہے۔ عے خانے میں شراب اس کثرت سے تھی گویا دریائے عے بہ رہا ہو۔ اور اس دریا کی موجیں (یعنی شراب کا جوش میں آنا) انگڑائی کا منظر پیش کر رہی تھی۔

(۱۱)  
 سب کو مقبول ہے دعویٰ تری یکتائی کا  
 روبرو کوئی بت آئینہ سیما نہ ہوا  
 (زمانہ تحریر: ۱۸۵۳ء)

اس شعر کی متداول تشریحات میں ایک عیب ہے۔ کہنے والوں نے یوں کہا ہے کہ تمام معشوقوں کو یہ بات تسلیم ہے کہ تو یکتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی بت آئینہ سیما تیرے روبرو نہ ہو سکا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ بات کیا تھی؟ بت آئینہ سیما اگر معشوق کے روبرو آئیں گے تو معشوق کو ان میں اپنا جلوہ نظر آئے گا، اس طرح یکتائی باقی نہ رہے گی، دوئی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن پھر بتان آئینہ سیما معشوق کے روبرو آ کیوں نہیں جاتے؟ ایسا دعویٰ تو کوئی دعویٰ نہیں جو صرف اس وجہ سے ثابت ہو کہ اسے امتحان میں نہیں لایا گیا۔ جس لمحہ بت آئینہ سیما معشوق کے سامنے ہوں گے یکتائی کا بھرم کھل جائے گا۔ کیا تمام دوسرے معشوق ازراہ تکلف اور براہ مروت معشوق کا سامنا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو دعویٰ یکتائی کی کوئی حقیقت نہیں۔

اگر مصرع ثانی میں بت آئینہ سیما کو ندائیہ فرض کریں اور اُنے کو مقدر سمجھیں تو بھی بات نہیں بنتی، کیوں کہ اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ صاحب ایسی بھی کیا یکتائی ہے جو محض اس لیے قائم ہے کہ لوگ ازراہ مروت آپ کے سامنے نہیں آتے؟ اصل نکتہ یہ ہے کہ مصرع ثانی میں اُنے مقدر تو ہے، لیکن معنی وہ نہیں ہیں جو اوروں نے بیان کیے ہیں۔ اس شعر کا مطالعہ غالب ہی کے مندرجہ ذیل شعر کی روشنی میں کیا جانا چاہیے:

اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا  
 جو دوئی کی یو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا

یکتائی کا دعویٰ اس طرح ثابت ہے کہ معشوق آئینہ سیما ہے۔ جو بھی اس کے روبرو ہوتا ہے، معشوق کے چہرے میں اپنا ہی جلوہ دیکھتا ہے۔ خود معشوق کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی یکتائی کا راز یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے دو چار نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کے روبرو نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر یکتائی کیا ہوگی کہ ہر شخص اس کے سامنے ایک سے دو، دو سے چار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی ہستی واحد ہی رہتی ہے۔

دیکھنے والے کو معشوق کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اس سلسلے میں دکن کے مشہور بزرگ حضرت مسکین شاہ صاحب کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک مرید نے ان کو لکھا کہ مجھے آپ میں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ اور لوگوں نے تو اس کو گستاخی سمجھا لیکن آپ بہت مسرور ہوئے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ ہم اس کے لیے آئینے کی طرح ہیں۔ وہ خود کو ہمارے اندر منعکس دیکھتا ہے، یہ اس کے صفائے قلب کی دلیل ہے۔

ذوق کا یہ شعر مضمون کے اس پہلو کو واضح کرتا ہے کہ بت آئینہ رو کے چہرے میں عاشق کا چہرہ منعکس ہو جاتا ہے۔ ذوق نے حیرانی کا پہلو لیا ہے اور غالب نے یکتائی کا: ہیں آئینے میں صورت تصویر آئینہ آئینہ رو کے سامنے حیرانیوں میں ہم

اسد ہم وہ جنوں جولان گداے بے سرو پا ہیں  
 کہ ہے سر پنچہ مڑگاں آہو پشت خار اپنا  
 (زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

(۱۲)

یہ شعر لفاظی پر مبنی ہے، جس میں چند در چند رعایتوں نے نئی شان پیدا کر دی ہے۔ آہنگ بھی بہت پر شکوہ اور مضمون کے مناسب ہے۔ طباطبائی نے 'اسد' اور 'آہو' کی لطیف رعایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ 'سر پنچہ'، 'مڑگاں'، 'جولان'، 'پشت خار'، 'گدا'، 'بے سرو پا' یہ سب الفاظ چند در چند رعایتوں کے ذریعے آپس میں منسلک ہیں۔ 'سر پنچہ' اور 'بے سرو پا' میں دوہری رعایت بھی ہے اور اس شعر میں غالب کا محبوب فن، یعنی قول محال بھی اپنی پوری کیفیت کے ساتھ جلوہ گر ہے۔

شعر کا ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ میں وہ گداے بے سرو ساماں ہوں کہ میرے پاس پشت خار بھی نہیں اور وحشت کا یہ عالم ہے کہ آہو سے بھی آگے نکل گیا ہوں اور آہو کی مڑگاں سر پنچہ کی شکل میں میرے لیے پشت خار کا کام کرتی ہے۔ اس میں ایک قول محال یوں ہے کہ ایک طرف تو جنوں جولانی میں یہ تیزی ہے کہ آہو سے بھی آگے نکل گئے ہیں اور دوسری طرف بے سرو سامانی کا یہ عالم ہے کہ 'سرو پا' بھی نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے جب سرو پا نہیں ہیں تو دوڑیں گے کس طرح؟ دوسری طرف قول محال یہ ہے کہ جب سرو پا نہیں تو وجود بھی نہیں۔ اور جب وجود نہیں تو وہ آہو بھی خیالی ہے جس کی مڑگاں سے پیٹھ کھجانے کا کام لیتے ہیں۔ پھر 'سر پنچہ' میں مزید لطف ہے کہ اپنا سر نہیں تو مڑگاں آہو کا 'سر' پنچہ تو موجود ہے۔ اسی 'سر پنچہ' کی مناسبت سے 'پشت خار' بھی قابل لحاظ ہے۔

بعض اور مناسبتیں ملاحظہ ہوں: 'اسد' (یعنی شیر) اور 'سر پنچہ'۔ 'جولان' کے معنی زنجیر

بھی ہیں۔ لہذا جنوں کو ایک زنجیر بھی فرض کر سکتے ہیں جس میں بندھے ہوئے ہم کھنچے چلے جا رہے ہیں۔

اس شعر کے کئی الفاظ میں مناسبت ضلع کے باعث پیدا ہوئی ہے۔ ضلع کے معنی ہیں 'پہلو'۔ زبان کی اصطلاح میں ضلع سے مراد ہے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کا آپس میں معنوی ربط ہو لیکن وہ ربط کلام کے معنی پر کوئی دلالت نہ کرتا ہو مثلاً "اب کے برس پانی بہت گھٹا"۔ یہاں برس (برستا) پانی اور گھٹا میں مناسبت ہے۔ لیکن یہ مناسبت کلام کے اصل معنی پر دلالت نہیں کرتی ضلع کا استعمال چوں کہ کلام میں ایک نئی طرح کا تناؤ پیدا کرتا ہے، اسی لیے ضلع ہمیشہ کلام میں حسن اور لطف پیدا کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 'اسد' اور 'پنچہ' میں ضلع کا ربط ہے کیوں کہ پنچہ شیر کا بھی ہوتا ہے۔

گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگی جا کا  
گہر میں محو ہوا اضطراب دریا کا

(۱۳)

(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

جس بحر میں یہ شعر کہا گیا ہے وہ اردو کی متداول بحروں میں سب سے کم مقبول ہے۔ ہمارے زمانے میں اس کا استعمال کچھ اور بھی کم ہو رہا ہے۔ غالب نے اس بحر کی ایک اور شکل دو غزلوں میں استعمال کی ہے۔ ان میں عروض اور ضرب مخبون ہیں، یعنی فیلاتن کے وزن پر ہیں:

(۱) حذر کرو مرے دل سے کہ اس میں آگ دہی ہے

(۲) عجب نشاط سے جلا دے چلے ہیں ہم آگے

فارسی میں یہ شکل (یعنی عروض و ضرب مخبون) نسبتاً زیادہ ملتی ہے۔ لیکن اردو میں شاذ ہے۔ زیر بحث شعر کی تشریح میں اکثر لوگوں کو مغالطے ہوئے ہیں۔ حسرت نے یوں کہا ہے کہ گہر، دل کی مثال ہے اور شوق، مثال دریا ہے۔ دل اگرچہ وسیع ہے، لیکن شوق وسیع تر ہے۔ تنگی مقام کی وجہ سے شوق، دل کے اندر سرد پڑ گیا۔ یعنی دریا کا اضطراب گہر میں سما گیا۔ اس تشریح پر بنیادی اعتراض یہ ہے کہ شوق کا سرد پڑنا شعر سے کہیں متبادر نہیں ہوتا بلکہ مصرع اولیٰ تو شوق کے تلاطم اور شور کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اسی لیے 'گلہ' کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر شوق سرد پڑ گیا ہوتا تو گلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری قیاحت یہ ہے کہ دل اور گہر میں کوئی مماثلت نہیں اور یہاں تو دل کو وسیع کہا جا رہا ہے، لہذا مماثلت بالکل غائب ہے۔ مصرع اولیٰ میں 'دل میں بھی' کا فقرہ اس بات کا اشارہ ہے کہ

باوجود وسعت مقام کے، شوق کو دل میں تنگی جا کی شکایت ہے۔ دل کی وسعت ہماری شاعری کا کلیہ ہے۔ تیسرا کلا جواب شعر ہے:

گہر دل کا بہت چھوٹا پر جاے تعجب ہے  
عالم کو تمام اس میں کس طرح ہے گنجائی

شاہ نیاز بریلوی وجد کرتے ہیں:

سینے میں قلم کو لے قطرے کا قطرہ رہا  
آف رے سائی تری اورے سمندر کے چور

لہذا مصرع اولیٰ میں کہا گیا ہے کہ دل اگرچہ بے حد وسیع ہے، لیکن شوق کو دل میں بھی جگہ کی تنگی کا شکوہ ہے۔

بعض شارحین نے گہر کی آب اور دریا کے پانی کی رعایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ موتی کے جھل مل کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ دریا کے پانی سے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ رعایت بھی درست، لیکن ان نکات سے شعر کے معنی واضح نہیں ہوتے۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سواتی کی بارش دریا کی سطح میں اضطراب پیدا کر دیتی ہے اور جب گہر بننے والی بوند سیپ کے منہ میں پہنچ جاتی ہے تو پانی تھم جاتا ہے، گویا دریا کا اضطراب گہر میں سما جاتا ہے۔ یہ معنی خوب ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ دریا کی سطح تو ہر طرح کی بارش سے متلاطم ہو جاتی ہے، اس کے لیے سواتی کی قید نہیں اور نہ ہر بارش سے گہر بنتا ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ جب بوند سیپ میں پہنچ جاتی ہے تو دریا کا اضطراب تھم جاتا ہے، لہذا یہ معنی دور از کار ہیں۔

اگر مصرع ثانی کو استفہام انکاری قرار دیا جائے تو معنی فوراً واضح ہو جاتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوں گے کہ دل اگرچہ وسیع ہے، لیکن شوق وسیع تر ہے۔ اس لیے شوق کو دل میں بھی تنگی جا کی شکایت ہوتی ہے۔ مثال یہ ہے کہ گہر میں آب ہوتی ہے اور دریا میں بھی پانی (آب) ہوتا ہے۔ لیکن بھلا کہیں ممکن ہے کہ دریا کا اضطراب (یعنی اس کی موج) گہر میں سما جائے؟ گہر میں ہزار آب سہی، لیکن وہ دریا کے آب سے کم ہوتی ہے۔ گہر کی آب ٹھہرے ہوئے پانی سے مشابہ ہے۔ غنی کا زبردست شعر ہے:

آب بود معنی روشن غنی  
خوب اگر بستہ شود گوہر است

لیکن گوہر میں یہ وسعت کہاں کہ پورے دریا کے تلاطم کو اپنے اندر محو کر لے؟ دل میں ہزار وسعت سہی، لیکن وہ شوق کی وسعت سے کم ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دریا گوہر میں محو ہو جائے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ شوق دل میں سما جائے۔

(۱۴)

پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا  
دل جگر تھنہ فریاد آیا  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

اس شعر میں کوئی بار کی نہیں، لیکن بعض لوگوں کو ”جگر تھنہ“ کی ترکیب پر کچھ تردد ہوا ہے۔ کسی صاحب نے علامہ کالی داس گپتارضا کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے کہ ”جگر تھنہ“ کوئی مستند ترکیب نہیں، کیوں کہ کسی فارسی لغت میں اس کا اندراج نہیں ملتا۔ علامہ کالی داس گپتارضا محتاط اور ذی علم محقق تھے، توقع نہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کہی ہو۔ بہر حال واقعہ یہ ہے کہ ”جگر تھنہ“ بمعنی ”مشتاق“ کا اندراج مولوی محمد لادکی ”موید القضا“ میں موجود ہے۔ یہ لغت ۱۵۱۹ء میں مرتب ہوا اور فارسی کے مستند لغات میں اس کا شمار ہے۔ پس یہ دعویٰ کہ ”جگر تھنہ“ کسی فارسی لغت میں نہیں ملتا، غلط ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ”جگر تھنہ“ کوئی انوکھی ترکیب نہیں، یہ ”تھنہ جگر“ کی تقلیب ہے اور ”تھنہ جگر“ کے معنی ”لغت نامہ دہخدا“ میں حسب ذیل ہیں: ”کسے کہ اشتیاق چیزے داشتہ باشد“۔ علاوہ ازیں ”برہان قاطع“ میں ”تھنہ جگر“ کو ”کنایہ از اشتیاق“ بتایا گیا ہے، پھر ”تھنہ دل“ کا اندراج کر کے لکھا ہے کہ ”بمعنی تھنہ جگر است کہ کنایہ از اشتیاق باشد“۔

مندرجہ بالا بحث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ غالب کے شعر میں ”جگر تھنہ“ بالکل صحیح ہے اس میں نہ کوئی پیچیدگی ہے نہ جدت نہ بدعت۔



(۱۵)

ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا  
آپ آتے تھے مگر کوئی عنان گیر بھی تھا  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۴۷ء)

اس شعر میں بظاہر کوئی اشکال نہیں۔ سب شارحین متفق ہیں کہ یہ رشک کے مضمون کا شعر ہے۔ بیخود دہلوی کہتے ہیں: آپ دیر کر کے آئے۔ اس توقف کی کوئی وجہ ضرور ہوگی، شاید غیر آپ کو یہاں آنے سے روک رہا تھا۔ بیخود موبانی کا بیان ہے: آپ کو آنے میں دیر ہوئی تو اس کی کچھ وجہ تو ہوگی۔ شاید آپ کو رقیب نے روکا۔ طباطبائی نے ایک بات اور کہی ہے کہ رقیب کے روکنے کے علاوہ شاید اپنی زینت و آرائش میں مصروفیت کی بنا پر بھی معشوق کو دیر ہوئی۔

شوکت میرٹھی نے البتہ نئی بات کہی ہے۔ شوکت کہتے ہیں: ”آپ بے شک آتے تھے مگر عنان گیر کون تھا؟ یہ سب حیلے حوالے ہیں۔ (عنان گیر کے معنی یہاں روکنے والے کے ہیں نہ کہ باگ پکڑ کر لے جانے والے کے، ورنہ معنی خط ہوں گے)۔“

شوکت میرٹھی نے نکتہ تو خوب نکالا، لیکن انہوں نے اس کے امکانات کو پوری طرح واضح نہ کیا۔ ان کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شعر زیر بحث میں ”عنان گیر“ کے معنی ”روکنے والے“ کے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بات نظر انداز کر دی کہ ”عنان گیر“ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ”وہ شخص جو داد خواہی کی غرض سے کسی کی عنان پکڑے“۔ یعنی کسی صاحب اختیار شخص کی عنان پر ہاتھ ڈالنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے انصاف یا رحم کی طلب کی جائے۔ چنانچہ ”لغت نامہ دہخدا“ میں نظامی کا شعر درج ہے:

تظلم کناں سوے راہ آمد  
عنان گیر انصاف شاہ آمد

لہذا جو معنی اس شعر کے مروج ہیں (آپ تاخیر سے آئے تو کیا رقیب آپ کی راہ روکے ہوئے تھا؟) ان کے علاوہ یہ معنی بھی ہیں کہ آخر دیر میں آنے کا کیا سبب تھا؟ ایسا تو نہیں کہ سر راہ لوگوں نے عنان گیر ہو کر آپ کے جو رستم کے خلاف داد طلبی کی ہو؟ طوطا رہے کہ یہ داد طلبی بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ معشوق کے عام جو رستم کے خلاف داد طلبی اور ایک یہ کہ شاید عوام الناس اور خلق اللہ کو خود یہ بات بڑا ستم معلوم ہوئی تھی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، لہذا عام خلقت آپ کی عنان گیر ہو رہی تھی کہ آپ فلاں کے یہاں کیوں جا رہے ہیں اور کیا اس وجہ سے آپ کو دیر ہوئی؟

لیکن ابھی ایک معنی اور بھی ہیں جن کی طرف شوکت میرٹھی نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا۔ معشوق نے آنے میں تاخیر کی ہے، لیکن بالکل بے وجہ۔ عاشق کو انتظار میں مصروف رکھنا، انتظار کی گھڑیاں اس پر شاق گزرتے رہنے دینا، عاشق کے انتظار اور اسکی بے چینی اور بے صبری کا کچھ خیال نہ کرنا، اپنے جی میں جب آئے تب ہی چل دینا، وقت کی پابندی نہ کرنا، یہ سب غمزہ ہائے معشوقانہ ہیں۔ معشوق اگر دیر میں آیا ہے تو اس کے لیے کوئی وجہ، کوئی عذر درکار نہیں۔ وہ دیر کر کے آیا ہے تو بس یہی اس کی مرضی ہے۔ وہ کسی کے وقت، کسی عہد یا وعدے کا پابند نہیں۔

عام شارحین نے مصرع اولیٰ کو خیر یہ فرض کیا ہے۔ لیکن مندرجہ بالا معنی کی روشنی میں مصرع اولیٰ ہی نہیں، شعر کے دونوں مصرعے استفہامی اور استفہام انکاری ہو جاتے ہیں: آپ کو آنے میں تاخیر ہوئی تو بھلا باعث تاخیر کیا تھا؟ (یعنی کچھ نہیں تھا، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں)۔ بھلا کوئی آپ کا عنان گیر بھی تھا جو آپ کو دیر ہوئی؟ (یعنی کوئی نہیں تھا، کسی کی مجال نہ تھی جو آپ کی عنان پر ہاتھ ڈالتا۔ آپ اگر دیر سے آئے تو یہ بھی آپ کی ادا ہے اور کچھ نہیں۔

(۱۶)

حریف جوشش دریا نہیں خودداری ساحل  
جہاں ساقی ہو تو باطل ہے دعویٰ ہوشیاری کا  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۱۶ء)

ایک دل چسپ بات یہ ہے کہ غالب نے اسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا جو زیر  
بحث شعر کے بالکل مخالف مضمون پر مبنی ہے لیکن اس کے پیکر اور استعارے وہی ہیں جو زیر  
بحث شعر کے ہیں:

بقدر ظرف ہے ساقی خمار تشنہ کامی بھی  
جو تو دریا سے ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا

دونوں شعر نہایت عمدہ ہیں اور نوجوان غالب کی غیر معمولی قوت کلام اور وقادی خاطر کو  
ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن زیر بحث شعر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا  
اس وقت مقصود ہے۔

اردو میں ”خودداری“ کے معنی ہیں ”پاس عزت نفس، خود کو لیے دیے رہنا“ وغیرہ۔  
لیکن آغا باقر لکھتے ہیں: ”جب دریا طغیانی پر آتا ہے تو ساحل محفوظ نہیں رہ سکتا۔“ تقریباً  
یہی الفاظ بیخود دہلوی نے استعمال کیے ہیں۔ یعنی باقر اور بیخود کے خیال میں ”خودداری  
ساحل“ کے معنی ہیں ”ساحل کا محفوظ رہنا“۔ لیکن ”خودداری“ کے یہ معنی اردو میں ہیں نہ  
فارسی میں۔ نیاز فتحپوری فرماتے ہیں ”ساحل لاکھ خوددار ہو لیکن جب دریا جوش پر آتا ہے  
تو وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔“ یعنی نیاز صاحب کی نظر میں ”خودداری اپنے عام اردو  
معنی میں ہے اور اسے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ طباطبائی لکھتے ہیں کہ ”ساحل کی  
خودداری اور پاداری“ کا جوشش دریا کے سامنے ٹھہرنا غیر ممکن ہے۔ یعنی طباطبائی نے

”خودداری“ کے معنی ”پاداری“ یعنی ”استقامت“ لیے ہیں۔ اس لفظ کے یہ معنی بھی اردو  
فارسی میں نہیں ملتے۔

حالی نے یہی مفہوم زیادہ بہتر الفاظ میں لکھا ہے۔ حالی کہتے ہیں: ”ساحل اپنے  
تئیں لاکھ بچائے مگر جب دریا طغیانی پر آتا ہے تو ساحل محفوظ نہیں رہ سکتا، اسی طرح  
جہاں تو ساقی ہو وہاں ہوشیاری کا دعویٰ نہیں چل سکتا۔“ یہاں یہ نکتہ تو بہت دل چسپ  
(اگرچہ مخدوش) ہے کہ ”تو“ کو واؤ مجہول کے بجائے واؤ معروف سے فرض کیا جائے،  
یعنی اسے واحد حاضر خطاب پر قرار دیا جائے۔ لیکن ”خودداری“ کے معنی (ساحل اپنے تئیں  
لاکھ بچائے) اب بھی محتاج ثبوت رہتے ہیں۔

شاید ”خودداری“ کے معنی کے بارے میں ان پریشانیوں کے باعث بیخود موبہانی  
نے غیر شعوری پر شعر کے الفاظ میں تحریف کر دی اور غالب کے محولہ بالا پہلے شعر سے  
ایک بظاہر زیادہ مناسب لفظ اٹھا کر کام چلا لیا۔ بیخود موبہانی کے یہاں زیر بحث شعریوں  
درج ہے:

حریف جوشش دریا نہیں خمیازہ ساحل  
جہاں ساقی ہو تو باطل ہے دعویٰ ہوشیاری کا

اب یہ غور کیجیے کہ ”خودداری“ کے معنی ہیں کیا؟ فارسی میں (”لغت نامہ و جہدا“) اس لفظ  
کے معنی حسب ذیل ہیں:

کف نفس [یعنی اپنے نفس پر قابو رکھنا نفس پر پابندی رکھنا]، خودبستن  
داری، احتراں [ان کے معنی بھی وہی ہیں جو کف نفس کے ہیں]۔

صبر، شکیبائی، بردباری، تحمل، تحفظ۔

ان معنی کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غالب کے شعر میں لفظ ”خودداری“ مندرجہ بالا  
کسی بھی معنی میں نہیں برتا گیا ہے۔ بہت سے بہت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ”تحفظ“ کے معنی  
کسی حد تک مناسب حال ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ”تحفظ“ کسی شے کا ہوتا ہے، اور یہ کام  
کوئی شخص انجام دیتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں: ”کتوں نے گھر کا تحفظ کیا“ یا ”فوج کا کام  
ہے ملک کا تحفظ کرنا“ لہذا یہ کہنا بے معنی ہے کہ ”ساحل کا تحفظ حریف جوشش دریا نہ  
ہوسکا“۔ اگر یہ کہا جائے کہ ”جوشش دریا کے آگے ساحل اپنا تحفظ نہ کر سکا“ تو بات بن

سکتی تھی لیکن شعر میں صاف کہا گیا ہے کہ ساحل کی خودداری حریف جوش دریا نہ ہو سکی۔ جہاں تک سوال ”کف نفس“ وغیرہ کا ہے، ان الفاظ و تراکیب کے معنی ہیں ”برے کام، مثلاً بدکاری کرنے سے خود کو روک رکھنا“۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی غالب کے شعر کے لیے کارآمد نہیں ہیں اور نہ ”میر، کلیدیائی، محل“ وغیرہ ہی کچھ مفید مطلب ہیں۔

اس بحث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ غالب نے شعر زیر بحث میں ”خودداری“ کو ”پاس عزت نفس، غیرت، خود کو لیے دیے رہنا“ یا ”صحت مند غرور“ یا ”سبک سری کا تقیض“ یا یوں کہیے کہ انگریزی کے اعتبار سے Self-respect کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ یہ معنی فارسی میں نہیں ہیں لیکن اردو میں قدیم ہیں۔ ”اردو لغت، تاریخی اصول پر“ میں معنی لکھے ہیں، ”عزت نفس کا پاس“ اور ”ورد کا شعر سند میں دیا گیا ہے:

زاہد کو جتا دیجو بیخود ہیں یہ رنداں  
آتا ہے تو خودداری کو گھر میں ہی دھر آوے

لطف کی بات یہ ہے کہ بعض پرانے لغات میں یہ معنی نہیں ملتے۔ چنانچہ ڈکن فارسی میں اس کے وہی فارسی والے معنی لکھے ہیں، یعنی ”محل، خود کو روک رکھنا، قناعت کرنا“۔ بعض پرانے لغات، مثلاً شیکسپیر اور فیلن میں یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ پرانے لغات تو دور رہے ”آصفیہ“ میں تو یہ لفظ، یا ”خوددار“ بھی درج ہی نہیں ہے۔ ”نور اللغات“ میں یہ معنی نہیں ہیں بلکہ کچھ عجیب معنی درج ہیں، یعنی ”ضبط، خود کو حرکات لغو سے محفوظ رکھنا“۔ اردو میں ”پاس عزت، خود کو لیے دیے رہنا“ وغیرہ معنی بہر حال عام ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں: ”وہ بہت بھوکے تھے لیکن ان کی خودداری نے گوارا نہ کیا کہ غیر کی ضیافت قبول کریں۔“ یا ”میری خودداری نے مجھے وہاں جانے سے باز رکھا۔“

متاخرین کے اصول کے لحاظ سے فارسی/عربی لفظ کو مرکب کرنے کی دو شرطیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ فارسی/عربی لفظ کو وہی لفظ کے ساتھ مرکب نہ کیا جائے اور دوسری شرط اور بھی کڑی تھی، کہ اگر فارسی/عربی لفظ کے کوئی نئے معنی اردو والوں نے قائم کیے ہیں تو ان معنی کے ساتھ اس لفظ کو فارسی/عربی کے ساتھ مرکب نہیں کر سکتے، کیوں کہ اردو والوں کے دیے ہوئے نئے معنی کے اعتبار سے وہ لفظ اب عربی/فارسی نہ رہا۔ مثلاً ”خاطر“ عربی ہے اور ہمارے یہاں بمعنی ”تواضع، مدارات“ بھی مستعمل ہے، اگرچہ

فارسی/عربی میں یہ معنی نہیں ہیں۔ لہذا ”خاطر مہماں“ بمعنی ”مہمان کی تواضع، مہمان کی مدارات“ درست نہیں ہے۔ ”خاطر شکن“ بمعنی ”دل شکن“ البتہ درست ہے۔ میں ان اصولوں کو غلط اور زبان کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہوں، لیکن غالب بہر حال ان کی پابندی کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ شعر زیر بحث میں غالب نے ”خودداری“ کو مرکب کیا لیکن فارسی معنی کا لحاظ نہ رکھا۔ ہمارے حساب سے یہ درست سہی، لیکن خود غالب کے حساب سے یہ غلط تھا، لہذا قوی امکان اس بات کا ہے کہ غالب نے سہو اردو لفظ کو فارسی سمجھ لیا، یعنی انہوں نے بخیاں خود ”خودداری“ کو فارسی ہی معنی میں استعمال کیا۔

مندرجہ بالا کی روشنی میں شعر کے معنی حسب ذیل برآمد ہوتے ہیں: ساحل کو آغوش سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی ساحل ایک آغوش کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ یہ آغوش خالی ہے اور دریا چاہتا ہے کہ ساحل اسے اپنی آغوش میں لے لے۔ لیکن ساحل خوددار ہے (= غیرت مند ہے، خود کو لیے دیے رہتا ہے، آسانی سے کھلتا نہیں، سبک سر نہیں ہے)۔ لہذا دریا جوش پر آجاتا ہے اور اٹھ اٹھ کر ساحل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ساحل کی خودداری مانع آتی ہے، لیکن بھلا کب تک؟ جب دریا پورے جوش پر آجاتا ہے تو ساحل بھی خود پر قابو نہیں پاکستان اور پاس عزت و حمت کو چھوڑ کر خود ہی ٹوٹ ٹوٹ کر دریا میں ضم ہونے لگتا ہے۔ اس کی آغوش ہی نہیں، اس کی ہستی بھی دریا سے پڑ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح، جب ساقی سامنے ہو تو رندوں کا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے کہ ہم ہوش میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ساقی کو دیکھا نہیں کہ ساری خودداری، سارا پاس عزت ہوا ہو گیا اور رندوں نے مدہوش ہو کر خود کو ساقی کے سامنے ڈال دیا۔

(۱۷)

گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا  
بجر اگر بحر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۴۷ء، قبل ۱۸۴۹ء)

شعر کا مطلب بالکل صاف ہے۔ ویرانی میرے گھر کا مقدر تھی، سو وہ ہو کر رہتی۔  
سمندر ویران (یعنی بے آبادی) ہوتا ہے۔ جس خطہ زمین پر سمندر ہے، ویرانی اس کی  
تقدیر ہی کا تقاضا تھی۔ اگر وہاں سمندر نہ ہوتا تو بھی یہ تقاضا اس خطے کو ویران بنا دیتا۔  
شعر کا پہلا قابل ذکر نکتہ رونے اور سمندر میں مناسبت ہے۔ دونوں مصرعوں کو ایک  
ساتھ سامنے رکھیے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ کثرتِ گریہ کے باعث گھر، گھر نہیں رہ  
گیا ہے بلکہ ایک سمندر بن گیا ہے۔ بحر اگر بحر نہ ہوتا والا کلیہ صرف عمومی کلیہ نہیں ہے بلکہ  
خاص اس گھر پر بھی صادق آتا ہے جو کثرتِ گریہ کی وجہ سے ویران ہو چکا ہے۔ دوسرا  
سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ رونے اور ویرانی میں کیا تعلق ہے؟ بظاہر تو رونا اور نالہ و شیون  
ویرانی کے بجائے شور و غل پیدا کرتے ہیں۔ لیکن رونے اور ویرانی میں دو نازک ربط ہیں۔  
ایک تو یہ کہ مسلسل آہ و زاری کی آواز سے اکتا کر لوگوں نے گھر چھوڑ دیا ہے اور ویرانی کی  
کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ دوسرا اور زیادہ لطیف اشارہ یہ ہے کہ کثرتِ انگھاری نے سیلاب  
پیدا کر دیا ہے۔ سیلاب میں لوگ گھر سے نکل بھاگتے ہیں۔ سیلاب اس لیے بھی زیادہ  
موزوں ہے کہ اس کے بغیر گھر، سمندر میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ سیلاب کی لائی ہوئی ویرانی  
سے ایک اور نکتہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ دوسروں نے گھر خالی کر دیا ہے،  
محکم و ہیں موجود ہے اور ویرانی کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ اس میں تاب  
فرار نہیں یا اس وجہ سے کہ وہ غرقابی کو زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ یا پھر یہ کہ وہ اس گھر کے درو  
دیوار سے اس طرح وابستہ بلکہ ان میں اس طرح مقید ہے کہ اسے ان سے مقرر نہیں۔ اس

طرح پورے شعر میں دو پیکر بنتے ہیں۔ ایک تو اٹل تقدیر کے فرمانِ محکم کا پیکر، یعنی تقدیر  
کی زنجیر جو پانی کی بنی ہوئی ہے اور دوسرا کسی ایسے مجبور یا دیوانے کا پیکر، جو اپنی ہی دلائی  
ہوئی ویرانی کا پابند ہے۔

لیکن شعر کا لہجہ مایوسی یا رنجیدگی یا پچھتاوے کا نہیں بلکہ اس میں ایک طرح کا غرور  
ہے، اپنی حالت پر طمانیت اور مسرت ہے۔ یہ کیفیت تیر کے یہاں اکثر ملتی ہے کہ  
مضمون تو تباہی اور بربادی یا شکستگی کا ہے، لیکن لہجہ غرور اور حکمت کا ہے۔ بعض سامنے  
کے شعر ہیں:

شبِ ہجر میں کم تکلم کیا  
کہ ہمایاں پر ترم کیا

مجلس آفاق میں پروانہ ساں  
تیر بھی شام اپنی سحر کر گیا

کیا جانوں چشم تر کے ادھر دل پہ کیا ہوا  
کس کو خبر ہے تیر سمندر کے پار کی

کشتے کے تیرے خاک بھرے جسم زار پر  
خالی نہیں ہیں لطف سے لوہو کی دھاریاں

غالب نے تیر سے بہت کچھ حاصل کیا، خاص کر یہ لہجہ کہ ذکر تباہی کا ہو، لیکن انداز میں  
خوش طبعی یا تمکنت ہو۔

شعر کا آخری اہم نکتہ یہ ہے کہ مصرع ثانی ایک سائنسی حقیقت کا اظہار ہے۔ اس  
حقیقت تک غالب کا ذہن منطقی و استقر کے ذریعے نہیں بلکہ وجدانی اور وہی طور پر پہنچ  
گیا تھا۔ جدید علم الارض ایسے بہت سے صحراؤں سے واقف ہے جو پہلے سمندر تھے لیکن

بعد میں ریگستان بن گئے۔ خود ہمارا ریگستان تھا پہلے سمندر تھا۔ لہذا بحر اگر بحر نہ ہوتا تو نیاباں ہوتا محض تخیلی توجیہ نہیں بلکہ منطقی مشاہدہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ غالب اس سائنسی حقیقی سے واقف نہ تھے، ان کا علم وجدانی تھا۔ اس طرح کے اشعار کی زبردست لاشعوری قوت عرفان و مکاشفہ غالب کو دنیا کے عظیم ترین خلافتانہ ذہنوں کی صف میں کھڑا کرتی ہے۔

(۱۸)

نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا  
ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا گر تو کیا ہوتا  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۴۷ء، قبل ۱۸۴۹ء)

اس شعر کو اردو کے مشہور ترین اشعار میں رکھا جاسکتا ہے۔ اس غیر معمولی شہرت کی وجہ بے چارگی سے بھرپور اس سوال میں ڈھونڈی جاسکتی ہے جو دوسرے مصرعے میں اٹھایا گیا ہے۔ مصرع اولیٰ کا منطقی اسلوب بھی قابل لحاظ ہے۔ اس شعر کی شرح میں عام طور پر یہ دو نکتے پیدا کیے گئے ہیں۔ (۱) جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا۔ میں نہ ہوتا تو میں بھی الوہیت کا ایک حصہ ہوتا۔ (۲) جب کچھ نہ تھا، تب بھی خدا تھا۔ اگر کچھ بھی خلق نہ ہوتا تب بھی خدا کی ہستی موجود رہتی۔ میرے وجود نے خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔

لیکن شعر میں چند نکتے اور بھی ہیں۔ سب سے پہلی قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ شعر غالب کے ان شاذ و نادر اشعار میں سے ہے جن میں فارسی کی کوئی ترکیب استعمال نہیں ہوئی۔ یہی نہیں بلکہ پورے شعر میں صرف ایک فارسی الاصل لفظ (خدا) استعمال کیا گیا ہے اور وہ بھی اس قدر کثیر الاستعمال ہے کہ اس کے فارسی ہونے کا خیال بھی نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ شعر زندگی کی مجبوریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی انسان وجود میں آنے اور زندہ رہ کر اپنی تباہی کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے ہونے نہ ہونے سے کائنات کے نظام میں کوئی فرق نہ پڑا ہو، لیکن اس کو وجود میں آنا اور زندگی اور موت کو برداشت کرنا ہی ہے۔ زندگی اور اس کے مصائب سے کسی کو مفر نہیں۔ ”ڈبویا“ کا لفظ یہاں خاص طور پر توجہ طلب ہے۔

مندرجہ بالا نکتے کی روشنی میں شیکسپیر کا ڈراما کنگ لیریا یا آنا فطری ہے:

(۱۹)

تھا گریزاں مژہ یار سے دل تادم مرگ  
دفع پریکان قضا اس قدر آساں سمجھا  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

”پریکان قضا“ اور ”مژہ یار“ میں لطیف مناسبت معنوی ہے۔ اس شعر میں جو شوخی اور طباعی Wit ہے اس کی طرف غالباً کسی نے اشارہ نہیں کیا ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ دل موت کے لمحے تک موت سے گریزاں رہا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو زندگی بھر جینے کی دعا دی جائے! ظاہر ہے کہ جب دم مرگ آیا تو ہی قضا آئی۔ موت سے پہلے تو موت آنی نہیں تھی۔ جس لمحہ مژہ یار کا سامنا ہوا، موت آگئی یا جس وقت موت آنی تھی اس وقت مژہ یار کا سامنا ہو ہی گیا۔ سامنا ہی اس وقت ہونا تھا جب موت آنی تھی۔ لہذا گریزاں رہنا نہ رہنا برابر تھا۔

Men must endure  
Their going hence, even as their coming hither:  
Ripeness is all

(ایک پنجم، منظر دوم، سطر ۸ تا ۱۱)

فرق یہ ہے کہ شیکسپیر نے ”پختگی ہی سب کچھ ہے“ کہہ کر رجاہیت کی تھوڑی سی لاج رکھ لی ہے اور غالب کے شعر میں سراسر مجبوری اور توجہ بے چارگی ہے۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ خدا تو ہر صورت میں موجود رہتا۔ وجود میں آنے سے مجھ پر یہ ستم ٹوٹے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ میں کچھ بھی نہ ہوتا تو خدا جانے میری ناقدری کا کیا عالم ہوتا۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ اگر میں وجود میں نہ لایا گیا ہوتا تو کیا ہرج تھا؟

کچھ شارحین مصرع اولیٰ میں فاعل (یعنی میں) کو مقدر قرار دیتے ہیں اور نثریوں کرتے ہیں: ”میں کچھ نہ تھا تو خدا تھا۔ میں کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا“۔ اس میں بھی کوئی ہرج نہیں، لیکن دعویٰ بے دلیل رہ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ”کچھ“ کو ہی فاعل فرض کیا جائے۔ ایسی صورت، میں مصرع ازل کے اس پر اسرار اور لاتناہی منظر کی طرف اشارہ کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے جب کائنات کی ہر چیز خدا کے علم میں مخفی اور محفوظ تھی اور چاروں طرف خدا کے سوا کچھ نہ تھا۔ بہت خوب شعر ہے۔

(۲۰)

شب کہ وہ مجلس فروز خلوت ناموس تھا  
 رشہ ہر شمع خار کسوت فانوس تھا  
 (زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر کے معنی حسرت نے یوں بیان کیے ہیں: ”شب کو عصمت و عفت کی محفل خلوت میں محبوب جلوہ افروز تھا۔ اس وقت شمع کی یہ حالت تھی کہ اس کا ہر رشہ اس کے حق میں خار پیرا ہن ہو گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب کی خلوت ناموس میں (جہاں کسی کا گزر نہیں) شمع کی بھی بے قراری سے عجب حالت ہو گئی تھی“۔ آغا باقر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شمع کو احساسِ اجنبیت اس قدر شدید تھا کہ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ بیخود دہلوی کہتے ہیں کہ معشوق چوں کہ محفل خلوت میں بزم افروز تھا، اس لیے شمع اس کے سامنے خجالت سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ بیخود موبانی نے نئی بات پیدا کی ہے کہ فانوس کو معشوق سے ہم آغوشی کی آرزو تھی اس لیے شمع اس کے بدن میں خار بن کر کٹھک رہی تھی۔ فانوس چاہتا تھا کہ شمع میرے کنارے سے نکلے اور معشوق کو اپنی آغوش میں بھر لوں۔ بیخود موبانی کے بیان کی رو سے دوسرے مصرعے میں دو کردار ہیں، شمع اور فانوس۔ اور فانوس کو معشوق سے ہم آغوشی کی آرزو تھی۔ اس میں مشکل یہ ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ فانوس کو معشوق سے لگاؤ ہوتا ہے۔ نہ ہی معشوق اور فانوس میں کوئی ایسی مناسبت ہے (جیسی معشوق اور شمع میں ہے) جس کی بنا پر ہم فانوس اور معشوق میں کوئی خاص رشہ فرض کر سکیں۔

حسرت کی شرح میں کوئی وجہ اس بات کی نہیں دی گئی کہ شمع کا تار اسی کے حق میں خار پیرا ہن ہو گیا تھا۔ آغا باقر نے کوشش کی ہے کہ وجہ قائم کریں۔ لیکن شمع تو ہر محفل میں

اجتہتی ہوتی ہے، اس لیے اس بات کی تخصیص کیوں کہ وہ بزم محبوب میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی؟ بیخود دہلوی نے شمع کو خجالت پذیر بتایا ہے۔ لیکن شعر میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں۔ غالباً کسی شارح نے اس مسئلے پر غور نہیں کیا کہ جب تک فانوس کی کسوت (لباس) میں شمع کی شہتی (رشہ) کے خار بن کر چھینے کی کوئی دلیل نہ پیدا کی جائے، شرح نامکمل رہتی ہے۔ موجودہ صورت میں حسرت نے صرف ایک دعویٰ کیا ہے کہ شمع خار در پیرا ہن تھی، اور اس پیکر کو خلق کرنے میں محاورہ خار در پیرا ہن بودن (یعنی بے چین ہونا) سے غیر شعوری فائدہ اٹھایا گیا ہے۔

لباس فانوس میں رشہ شمع خار بن کر چبھتا ہے، اس کی دلیلیں حسب ذیل ہیں۔ شمع کی نو فانوس میں سے جھلکتی ہے اور فانوس کو سرخی مائل کر دیتی ہے۔ شمع کی گرمی سے فانوس گرم اور خشک ہو جاتا ہے۔ سرخی اور گرمی اور خشکی بے چینی کی علامتیں ہیں۔ فانوس جس میں سرخی اور حدت جھلک مار رہی ہے، اس کی یہ کیفیت رشہ شمع کے باعث ہے لہذا ثابت ہوا کہ رشہ شمع لباس فانوس میں خار کی طرح چبھ رہا ہے اور چوں کہ فانوس، شمع کا لباس ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ شمع خار در پیرا ہن ہے (یعنی بے چین ہے)۔

شمع کی بے چینی کی اصل وجہ مصرع اولیٰ کے فقرے ”مجلس فروز“ میں مضمر ہے۔ (۱) معشوق مجلس فروز تھا۔ مجلس فروزی شمع کی بھی صفت ہے۔ شمع اپنی چمک دمک کو ماند اور اپنی مجلس فروزی کو کم تر دیکھ کر رشک سے جل رہی تھی، لہذا بے چین تھی۔ (۲) لباس اس کے بدن پر یوں چبھ رہا تھا جیسے کانٹے چبھتے ہیں، وہ اسے اتار پھینکنا چاہتی تھی کہ محبوب کے سامنے خود کو بے لباس و عریاں کر دے اور محبوب بے پردہ اور شمع بے فانوس کے حسن کا دو بدو مقابلہ ہو سکے۔ (۳) جلوہ محبوب اور شمع کے درمیان فانوس تھا۔ فانوس کا اس طرح حائل ہونا اسے ناگوار تھا۔ وہ بے چین تھی کہ اسے اتار پھینکے تاکہ جلوہ محبوب کی زیارت بے محابا کر سکے۔

اس شرح کی روشنی میں شعر کا ہر مقدمہ دلیل سے مستحکم نظر آتا ہے اور اس کے سارے پیکر باہم دست و گریباں ثابت ہوتے ہیں۔ صرف لفظ ”ناموس“ بھر پور کام نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے نوجوان شاعر شاید قابل معافی ہے۔

غور کریں تو لفظ 'ناموس' کچھ اتنا بے کار بھی نہیں۔ منتخب اللغات میں ناموس کے ایک معنی 'صاحب راز' دیے ہیں۔ معشوق کی خلوت میں وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو کسی نہ کسی معنی میں اُس کے راز دار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناموس گھر کے اندر رہنے والی عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ معنی بھی کچھ اتنے نامناسب نہیں۔

(۲۱)

برروے شش جہت در آئینہ باز ہے  
یاں امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر کی تشریح میں عام طور پر یوں کی گئی ہیں: (۱) عارف کا دل (آئینہ) ہر شش جہات پر کھلا رہتا ہے اور ناقص و کامل، خوب و زشت، ہر طرح کی کیفیتوں کا عکس قبول کرتا ہے۔ (۲) زمانہ (آئینہ) اچھے اور برے ہر ایک کا عکس ظاہر کرتا ہے، کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کرتا۔ (۳) دنیا (آئینہ) عارف و عامی (کامل و ناقص) ہر ایک کے لیے جاے حیرانی ہے۔ کسی کو اس کے اسرار کی فہم نہیں۔ یہ ایک آئینہ خانہ ہے جہاں سب حیران ہیں۔ مولانا عرشی مرحوم نے غالب کا ایک فارسی شعر بھی اس ذیل میں نقل کیا ہے کہ:

ہر ذرہ محو جلوہ حسن یگانہ ایست  
گوئی طلسم شش جہت آئینہ خانہ ایست

میرا خیال ہے یہ تشریحات شعر کے مضامین کا پورا احاطہ نہیں کرتیں۔ شعر کا سب سے اہم لفظ 'یاں' ہے۔ اگر اس سے 'آئینہ خانہ' مراد لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئینہ خانے میں تو بہت سے آئینے ہوتے ہیں، پھر مصرع اولیٰ میں ایک ہی آئینے کا ذکر کیوں؟ علاوہ ازیں، اگر یہ مطلب صحیح ہے تو دوسرے مصرعے میں 'امتیاز نہیں رہا' کی جگہ 'امتیاز نہیں ہے' کا محل تھا کیوں کہ حیرانی کی کیفیت کوئی آج سے تو نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے ہے۔ اگر آئینے کو زمانے کا استعارہ کہا جائے تو بھی دوسرے مصرعے میں ماضی بے معنی ہوا جاتا ہے، کیوں کہ زمانہ تو ہمیشہ سے موجود ہے (یعنی جب سے دنیا ہے تب سے زمانہ ہے) اس کے لیے یہ کہنا کہ یہاں اب امتیاز ناقص و کامل موجود نہیں، اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ یہ



کیفیت پہلے نہیں تھی، اب پیدا ہوئی ہے۔

اگر آئینہ دل عارف ہے تو اس شعر میں نکتہ ہی کچھ نہیں رہا بلکہ ایک بے معنی سی بات ہے کہ در آئینہ ہر طرف کھلا ہوا ہے، لہذا ناقص و کامل میں امتیاز باقی نہیں۔ اس طرح تو دوسرا مصرع بالکل غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ در آئینہ کے ہر طرف باز ہونے اور ناقص و کامل میں امتیاز نہ رہ جانے میں کوئی ایسی نزاکت بھی نہیں، کیوں کہ آئینہ تو بہر حال ناقص و کامل میں امتیاز کرنے سے قاصر رہتا ہے، چاہے اس کا درشش جہت پر باز ہو یا ایک ہی سمت پر کھلا ہوا ہو۔ اور پھر 'یاں' کی کیا ضرورت ہے؟ پریشاں نظری، یا ہر چیز کا عکس قبول کرنے کی صفت تو ہر آئینے میں ہر جگہ ہوتی ہے۔ میر کا شعر ہے:

اپنی تو جہاں آنکھ لگی پھر وہیں دیکھو

آئینے کو لپکا ہے پریشاں نظری کا

آئینے کو صورتوں کی کثرت کو بیدل نے عیب قرار دیا ہے:

دل تیرہ گشت زمشق خیالات خوب وزشت

آئینہ را ہجوم صور کردے دماغ

عالم کا فارسی شعر (جو شروع میں نقل ہوا) زیر بحث شعر سے مشابہ ضرور ہے، لیکن ہم معنی نہیں۔ میرے خیال میں یہ شعر شاعر (یا محکم) کے ایک طویل ذہنی اور روحانی سفر کی مختصر داستان ہے۔ محکم کا دل مثل آئینہ ہے، جو یک سمتی یعنی محدود Unidirectionality میں گرفتار تھا۔ چون کہ آئینہ ایک ہی طرف صیقل ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک ہی سمت کی چیزوں کو منعکس کر سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس کے محدود اور قید مکان میں گرفتار ہونے کی۔ محکم کا ذہن بھی یک رخ آئینے کی طرح محدود تھا۔ آہستہ آہستہ آئینے کی توتہ انعکاس میں ترقی پیدا ہوئی جاتی ہے، یعنی آگہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ آئینہ دل کا دروازہ شش جہات کے لیے کھل جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، محکم کا ذہن (یا قلب) اپنے باطنی سفر کی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جو آگاہی کی تکمیل کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں ناقص و کامل کا امتیاز مٹ جاتا ہے اور وہ مکمل وحدت حاصل ہو جاتی ہے جو سطحی امتیازات سے ماورا ہوتی ہے۔ جب آئینہ یک سمتی تھا تو ناقص تھا۔ جب شش جہتی بنا تو کامل ہو گیا۔ ناقص و کامل میں یہاں

کوئی امتیاز باقی نہیں، کیوں کہ جو اس منزل پر پہنچ جائے وہ کامل ہے، اگرچہ اصلاً وہ ناقص تھا۔

آئینے کے لیے 'در' کا استعارہ عام ہے، لیکن آئینے کی رعایت سے 'رو' کا لفظ لانا (روے شش جہت) غالب کا خاص طرز ہے۔ معنوی ہو یا لفظی، رعایت غالب کو سوجھ جائے (اور اکثر ہی سوجھ جاتی ہے) تو وہ چوکتے نہیں۔ یہ ہر بڑے زبان شناس کا خاصہ ہے۔

(۲۳، ۲۲)

بشنے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب  
چشم کو چاہیے ہر رنگ میں وا ہو جانا

تاکہ تجھ پر کھلے اعجاز ہو اے صیقل  
دیکھ برسات میں سبز آئینے کا ہو جانا  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۱ء قبل ۱۸۲۶ء)

پہلے زمانے میں یہ رواج عام تھا کہ غزل کو قطعے پر ختم کرتے تھے اور اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے قطعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے پہلے شعر میں تخلص ڈال دیتے تھے۔ غالب تک آتے آتے یہ رواج بہت مقبول نہیں رہ گیا تھا، لیکن بالکل معدوم بھی نہ تھا۔ چنانچہ زیر بحث اشعار اسی قبیل کے ہیں۔ دیوان غالب کے جن مرتبین کو اس رواج کا علم نہیں تھا، انہوں نے تخلص والے شعر کو مقطع فرض کر کے آخر میں رکھا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے خوب صورت صدی اڈیشن میں بھی یہی کیا گیا ہے۔ مولانا عرشی مرحوم نے اپنے اڈیشن (۱۹۵۸ء) میں بالکل صحیح طریقہ اختیار کر کے تخلص والے شعر کو پہلے رکھا ہے اور دونوں شعروں کو قطعہ بند درج کیا ہے۔

پہلے شعر میں پہلا قابل غور نکتہ لفظ 'چشم' کا استعمال ہے۔ 'آنکھ' بھی مناسب اور موزوں ہوتا، لیکن غالب کی فارسیت نے 'چشم' کا لفظ غالباً غیر شعوری طور پر منتخب کیا۔ ویسے لفظ 'چشم' شعر کے مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ بھی ہے۔ دوسرے شعر میں سارا جھگڑا 'ہوا' کے مفہوم کا ہے۔ 'ہوا' بمعنی 'خواہش' ہے کہ بمعنی 'باد'؟ زیادہ تر شارحین نے 'ہوا' بمعنی 'خواہش' قرار دیا ہے اور شعر کی حسب ذیل تفسیر کی ہے: 'آئینہ استعارہ ہے عاشق

کا اور صیقل گر معشوق ہے۔ آئینہ صیقل (یعنی وصل معشوق) کی تمثیل کرتا ہے۔ لیکن صیقل اسی وقت ہوگا جب آئینہ زنگ آلود ہو۔ صیقل کی تمثیل اس قدر شدید ہے کہ برسات کے موسم میں آئینہ خود بخود سبز ہو جاتا ہے۔ اس طرح صیقل گر کا ہاتھ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ شدت تمثیل کا اعجاز ہے کہ آئینے کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔

آئینے کو معشوق کا بھی استعارہ فرض کیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ نکلے کہ معشوق کو تمناے وصل اس قدر ہے کہ وہ اپنی آئینہ بدنی کو ترک کر دیتا ہے اور زنگ کو راہ دیتا ہے، تاکہ صیقل گر کا ہاتھ اس پر پڑے اور اسے پھر سے روشن کر دے۔ آئینہ قلب کا بھی استعارہ ہو سکتا ہے، یعنی قلب انسان اپنے اندر کدورتیں بھر لیتا ہے تاکہ پھر اس پر توجہ الہی کی صیقل گری ہو سکے۔

ان تمام توجیہات میں دلیل یہی ہے کہ برسات میں آئینے پر زنگ لگ جاتا ہے اور وہ سبز ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی بات اعتراض کی بنیاد بھی بن جاتی ہے۔ کیوں کہ آئینہ صیقل کی تمثیل اس وقت کرے گا جب وہ زنگ آلود ہو۔ آئینہ جب زنگ آلود ہی نہیں تو پھر تمناے وصل کے کیا معنی؟ اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ چونکہ صیقل گر بمنزلہ معشوق یا مطلوب ہے اور صیقل گر آئینے پر اسی وقت متوجہ ہو جب آئینہ زنگ آلود ہو، اس لیے آئینہ شدت جذبہ کی وجہ سے خود کو زنگ آلود کر لیتا ہے۔ اس نازک خیالی کی داد دینا غیر ممکن ہے، خاص کر جب یہ ملحوظ رکھا جائے کہ بہت سے مسکئی راہب اور عابد محض شدت تصور کے ذریعے اپنے جسم پر مصلوب مسیح کے زخموں کے سے نشانات یا خود زخم پیدا کر لیتے ہیں۔ اصطلاح میں ان کو Stigmata کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ غالب اس حقیقت سے واقف نہ رہے ہوں گے، لیکن ان کا وجدانی علم (جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں) حیرت انگیز تھا (ملاحظہ ہو نمبر ۱۱)۔

'ہوا' بمعنی 'باد' لیا جائے، جیسا کہ بیخود دہلوی نے کیا ہے، تو ایک بہت لطیف نکتہ پیدا ہوتا ہے، اگرچہ بیخود نے اس نکتے کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ 'ہوا' بمعنی 'باد' میں لطافت یہ ہے کہ برسات کی ہوا روے زمین پر صیقل کرتی ہے۔ لیکن یہ صیقل سفید چمک یا جلا نہیں ہوتی۔ برسات کی صیقل وہ بیزی ہے جو چٹے چٹے پر نمودار ہوتی ہے اور بھوری، بے رنگ، بد صورت زمین کو بیزی سے بھر دیتی ہے۔ باد صیقل کی شدت اثر کا یہ عالم ہے کہ آئینے کا

فولادی جوہر بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا اور آئینہ بھی سبز ہو جاتا ہے۔ فولاد کے جوہر کو سبزے سے تشبیہ بھی غالب نے دی ہے:

جوہر تیغ بہ سرچشمہ دیگر معلوم  
میں ہوں وہ سبزہ کہ زہراب اکاتا ہے مجھے

(اس شعر پر بحث اپنے مقام پر ہوگی)۔ یاد صیقل کے معنی اس لیے بھی مناسب ہیں کہ پہلے شعر میں 'جلوہ گل' یعنی موسم بہار (= موسم برشکال) کا ذکر کیا گیا ہے۔

دونوں اشعار میں دور دورہ رعایتیں اور مناسبتیں ہیں، لیکن شارحین نے عام طور پر ان کا ذکر نہیں کیا ہے، کیوں کہ (بیخود موبانی کے علاوہ) باقی سب لوگ طباطبائی کے اس خیال کے پیرو ہیں کہ مناسبت اور رعایت کوئی قابل قدر شے نہیں۔ حقیقت بالکل برعکس ہے، کیوں کہ مناسبت اور رعایت سے شعر کے معنوی حسن میں اضافہ ہوتا ہے اور شعر بطور Verbal Artifact (صناعت لفظی) قائم ہوتا ہے۔ بہر حال اب رعایتوں پر غور کریں: جلوہ اور تماشا، گل اور رنگ، چشم اور رنگ، کھلے اور ہوا (کھلی ہوا، بند ہوا) رنگ اور سبزی آئینہ، چشم اور آئینہ، گل (سرخ پھول) اور سبز رنگ، چشم و اشک اور دیکھ، اور لطف بالائے لطف یہ کہ سبز آئینے کو دیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی ایسا آئینہ جس میں کچھ نظر نہیں آسکتا۔ اور آئینے میں دیکھنے کے بجائے آئینے کو دیکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ جلوہ گل اور برسات، تماشا اور سبز، ہوا اور سبز، چشم اور کھلے، وا ہو جانا اور کھلے، تماشا اور دیکھ۔ غرض ایک آئینہ خانہ ہے جس میں عقل گم ہے۔

(۲۴)

نہیں گر سرو برگ ادراک معنی  
تماشاے نیرنگ صورت سلامت  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۱ء قبل ۱۸۲۶ء)

غالب نے اس بحر میں بہت کم غزلیں کہی ہیں، لیکن سب کی سب لاجواب۔ زیر بحث زمین کے علاوہ:

(۱) جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں

(۲) لب خشک در خشکی مردگاں کا

فورا ذہن میں آتی ہیں۔

اس شعر کی اہمیت کئی وجوہ سے ہے۔ ایک ظاہری وجہ تو یہ ہے کہ غالب نے اس مضمون کو بار بار دہرایا ہے اور ہر بار کوئی نیا پہلو بیان کیا ہے:

گر بہ معنی نہ رہی جلوہ صورت چہ کم است  
خم زلف و شمن طرف کلا ہے دریاب

دل گزرگاہ خیال سے و ساغر ہی سہی  
گر نفس جاوہ سر منزل تقوی نہ ہوا

بڑا شاعر جن مضامین، استعاروں یا پیکروں کو بار بار برتا ہے وہ اس کی علامتی کائنات میں اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تکرار اس بے لطف یکسانیت اور تکرار مضامین سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی جو (مثلاً) ترقی پسند شاعری میں پائی جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ علامتی اظہار مختلف سیاق و سباق میں مختلف اہمیت اختیار کرتا چلتا ہے اور شاعر کا وجدانی تاکید

اشغال بھی بدلتے رہنے کے باعث معنی کی کثرت پیدا ہوتی جاتی ہے۔  
 زیر بحث شعر کے دو معانی بیک وقت بیان کیے گئے ہیں۔ دونوں صورتوں میں لفظ  
 'تماشا' کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ غالب کے یہاں 'تماشا' صوفیانہ اصطلاح بھی ہے اور  
 ان کی اپنی شاعرانہ اصطلاح بھی۔ شاعرانہ اصطلاح میں 'تماشا' کے معنی ہیں "دلچسپی اور رنگا  
 رنگی کے حامل وہ مناظر و مظاہر جو مادی دنیا میں جاری و ساری ہیں اور جو شاعر کی توجہ اپنی  
 طرف اس لیے کھینچتے ہیں کہ وہ دلکش اور غم و فکر رہا ہیں۔" اس طرح 'تماشا' مادی دنیا کی  
 خوب صورتی اور لذتوں کی علامت بن جاتا ہے۔ صوفیانہ اصطلاح میں 'تماشا' اس عرفانی  
 منظر کو کہتے ہیں جو چشم دل ہی سے نظر آسکتا ہے اور جسے دیکھنے کے لیے مادی آگہی کی  
 آنکھیں بند یا مسترد کرنی پڑتی ہیں۔

موجودہ شعر میں 'تماشا' مادی دنیا کی خوب صورت اشیا کی علامت ہے۔ لیکن اس  
 کے ساتھ نیرنگ (بمعنی فریب) کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ  
 کرتا ہے کہ عالم ظاہر کے موجودات اگرچہ خوب صورت ہیں، لیکن دھوکا اور مایا بھی ہیں۔  
 اگر حقائق کائنات کے باطنی معانی تک رسائی ممکن نہیں ہے تو نہ سہی، ظاہری مظاہر کم دلکش  
 نہیں ہیں بلکہ وہ اس قدر دلکش ہیں کہ فریب ہوتے ہوئے بھی 'تماشا' (بمعنی عرفان) کا  
 حکم رکھتے ہیں۔ ان مظاہر کا فریب یہی ہے کہ وہ فریب ہوتے ہوئے بھی حقیقت معلوم  
 ہوتے ہیں۔ معنی تک پہنچنا ہر شخص کے بس میں نہیں، لیکن صورت تک پہنچنا تو ہر شخص کے  
 بس میں ہوگا۔ اس طرح یہ شعر بیک وقت کائنات باطن کا اقرار، اس کے مشکل الحصول  
 ہونے پر دلالت اور مادی مظاہر کی وقعت اور Validity پر اصرار کرتا ہے۔

صوفیا کا مشہور نظریہ ہے کہ جزو سے کل کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی دوسری شکل  
 یہ بھی ہے کہ صورت Appearance سے معنی Reality کا عرفان ہو سکتا ہے۔ یعنی محبوب  
 حقیقی تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ انسان خود کو محبوب مجازی کے نیرنگ میں گرفتار  
 کرادے۔ انسان کی محبت (یعنی مادی مظاہر کی محبت) خدا کی محبت (یعنی باطنی حقائق کی  
 محبت) میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ مجازی محبت دل کو درد سے آشنا کرتی ہے اور دردمندی کے  
 بغیر عرفان حق ممکن نہیں۔

اسی نکتے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چونکہ کائنات میں ہر لحظہ فیضان وجود ہوتا رہتا

ہے، لہذا موجودات و ظواہر سے شغف بھی دراصل حقیقت کے عرفان کی ایک راہ ہے۔  
 ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چونکہ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهٖ، اس لیے انسانوں سے  
 عشق بھی خدا ہی سے عشق ہے۔

لفظ 'سلامت' میں ایک طنزیہ دلکشی ہے جو غالب کا خاص رنگ ہے۔ ظواہر کی صفت  
 یہ ہے کہ ان کو بقا اور سلامتی نہیں۔ یہاں ان کو سلامتی کی دعادی جارہی ہے یا یہ کہا جا رہا  
 ہے کہ معنی حاصل نہ ہونہ سہی، صورت تو سلامت ہے، ہم اسی سے کام چلا لیں گے۔  
 ان متضاد معنوں کو غالب نے ایک نغمے سے شعر میں سمودیا ہے۔ ریختہ اگر مرتبہ  
 اعجاز کو پہنچے تو اس کی صورت اور کیا ہو سکتی ہے؟

(۲۵)

آمد خط سے ہوا ہے سرد جو بازار دوست  
دو شمع کشتہ تھا شاید خط رخسار دوست  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۲ء)

یہ شعر واقعی عجیب ہے، کیوں کہ بظاہر اس میں محبوب کی بے وجہ اہانت کی گئی ہے۔ محبوب کے حسن پر یا اس کے طور طریق پر طنز کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، حسن کی چمک دمک کو غازہ سرفی کا مرہون منت دیکھنا بھی سمجھ میں آتا ہے (اگرچہ غالب کے سوا کسی نے شاید اس کی ہمت نہیں کی) یہ بھی تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ معشوق کے حسن کو عارضی کہا جائے لیکن اسے بد صورت بتانا اور یہ ظاہر کرنا کہ سبزہ آغاز ہوتے ہی محبوب کے چاہنے والے رفوچکر ہو گئے، ایک طرح کی بے ضرورت بدذوقی اور نامناسب توہین معلوم ہوتا ہے، لیکن اسے کیا کیجیے کہ شعر میں یہی کچھ کہا گیا ہے۔ معشوق کے چہرے پر سبزہ خط نمودار ہوتے ہی اس کے چاہنے والے اسے چھوڑ بیٹھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ معشوق کا رخسار مثل شمع تھا اور اس پر خط کی سیاہی اس دھوئیں کی طرح ہے جو شمع بجھنے پر بلند ہوتا ہے۔ گویا خط کا نمودار ہونا شمع رخسار کے بجھنے کی علامت ہے۔ یعنی جب حسن کم ہونے لگا تو سبزہ آغاز ہوا۔ یا جب سبزہ آغاز ہوا تو حسن کم ہونے لگا۔ اور جب حسن کم ہونے لگا تو عاشقوں نے بھی میدان چھوڑ دیا۔

خط کو سبزہ بھی کہتے ہیں۔ سبزہ سرد ہوتا ہے، اس اعتبار سے آمد خط اور بازار سرد میں رعایت پنہاں ہے۔ بازار سرد اور شمع کشتہ یعنی ٹھنڈی شمع میں رعایت ظاہر ہے۔ دوؤ اور 'خط' کی رعایت بھی سامنے کی ہے۔ لیکن ایک لطیف نکتہ اور بھی ہے۔ چہرے پر جب سبزہ نہیں ہوتا تو گویا اس پر کوئی ہجوم نہیں ہوتا۔ سبزہ آجانے پر سے چہرے پر بالوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، لیکن یہ ازدحام بازار حسن کی بھیڑ بھاڑ کو سرد کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس شعر میں

بھی غالب کا مخصوص قول محال کا انداز موجود ہے۔

یہ سب تو ہوا، لیکن دو سوالات باقی رہتے ہیں: اولاً یہ کہ معشوق کی بلاوجہ توہین کیوں؟ اگر طنز ہے تو خاصا بھونڈا اور نامناسب ہے۔ دوماً یہ کہ بازار سرد ہونے پر بھی غالب نے دوست کو دوست ہی کہا ہے۔ مناسب تو یہ تھا کہ کوئی ایسا لفظ استعمال ہوتا جس سے اس بات پر دلالت ہوتی کہ تخفیف حسن کے بعد معشوق اب معشوق نہیں رہ گیا۔ پھر 'دوست' کیوں کہا؟

ان دونوں سوالات کا حل یہ ہے کہ یہ شعر دوست کی توہین نہیں بلکہ جموٹے عاشقوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ معشوق پر طنز نہیں بلکہ جموٹے عشاق پر طنز ہے کہ وہ محض حسن ظاہر کے پرستار ہیں۔ جہاں سبزہ آغاز ہوا، شمع رخسار کی روشنی ماند پڑی، ان کا شوق بھی سرد پڑ گیا۔ لیکن حکلم تو سچا عاشق ہے۔ وہ معشوق کو ہر وقت دوست رکھتا اور دوست سمجھتا ہے۔ اغیار نے تو سبزہ آغاز ہوتے ہی اپنا راستہ ناپا، لیکن ہمارے لیے تو دوست ہر وقت دوست ہے۔ غالب کا اسی زمانے کا شعر ہے:

نہ ہوئی ہم سے رقم حیرت خط رخ یار  
صفحہ آئینہ جولاں کہ طوطی نہ ہوا

تھے کہ مصرعے میں سے حشو کو نہ چھانٹ سکتے۔ ایسا مصرع کہنا بہت آسان تھا جس میں لفظ 'میں' نہ ہوتا۔ مثلاً:

- (۱) شمع جب بجھتی ہے تو اس سے دھواں اٹھتا ہے
- (۲) شمع بجھتی ہے تو اُس وقت دھواں اٹھتا ہے
- (۳) شمع گل ہوتی ہے جس وقت، دھواں اٹھتا ہے
- (۴) شمع بجھنے لگے جس وقت، دھواں دیتی ہے
- (۵) شمع اُس وقت دھواں دیتی ہے جب بجھتی ہے
- (۶) شمع جب بجھتی ہے تو اُس کی دھواں دیتی ہے

وغیرہ۔ لہذا لفظ 'میں' جان بوجھ کر لایا گیا ہے یا غالب نے اسے ترک کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اب شعر کے معنی پر غور کیجیے۔ متداول معنی ہیں کہ جس طرح شمع کے بجھ جانے پر شعلے کی جگہ دھواں نظر آتا ہے، اسی طرح میرے بعد عشق کا شعلہ بھی سیاہ پوش یعنی ماتمی ہو گیا۔ گویا میں عشق کا برگزیدہ اور منظور نظر تھا اور میری موت نے عشق کو سوگوار کر دیا۔

اب اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر پہلا مصرع دلیل ہے اور دوسرا دعویٰ، تو شعر دولت ہو جاتا ہے۔ پہلے مصرعے میں کہا گیا ہے کہ شمع (کا شعلہ) بجھنے پر دھواں اٹھتا ہے۔ دوسرے میں کہا گیا کہ میرے مرنے پر شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا۔ یعنی پہلے مصرعے میں تو عشق شمع تھا اور میں اس کا شعلہ، لیکن دوسرے مصرعے میں عشق خود شعلہ نظر آتا ہے جو پہلے مصرعے میں ہی بجھ گیا تھا، کیوں کہ اسے متکلم کا استعارہ ٹھہرایا گیا تھا۔ میرے مرنے کے بعد شعلہ عشق سیاہ پوش ہے۔ اس کی دلیل یہ نہیں ہو سکتی کہ شمع کے بجھنے پر اس سے دھواں اٹھتا ہے، کیوں کہ شمع تو اپنی لو کے بجھنے کا ماتم کرتی ہے، اور اس طرح کہ لباس دودا ڈوڑھ لیتی ہے۔ یعنی بجھنے کے بعد شمع پر کوئی شعلہ نہیں رہ جاتا، صرف دھوئیں میں لپٹا ہوا، پکھلی موم کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ شعلہ عشق میرے بعد سیاہ پوش ہے۔ اگر متداول معنی کو تسلیم کیا جائے تو میں خود وہ شعلہ ہوں جو بجھ چکا ہوں، شعلہ عشق کا سیاہ پوش ہونا میرے بجھنے سے ثابت نہیں ہوتا، کیوں کہ دلیل تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں شعلہ ہوں اور شمع عشق ہے۔

یہ سب جھگڑے لفظ 'میں' کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں ورنہ حقیقت

(۲۶)

شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے  
شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

بے شک اسے اردو کے بہترین شعروں میں گننا چاہیے۔ پھر بھی معترضین غالب نے اس میں ایک خامی ڈھونڈ لی ہے۔ کہتے ہیں کہ مصرع اولیٰ میں لفظ 'میں' زائد ہے۔ دھواں شمع سے اٹھتا ہے، نہ کہ شمع میں سے۔ گویا 'میں' بھی کوئی چیز ہے جس سے دھواں اٹھ رہا ہے۔

اس بات سے قطع نظر کہ اعتراض مہمل ہے، معترضین کی یہ نفسیات بھی قابل غور ہے کہ تینیس برس کے نوجوان شاعر کی قادر الکلامیوں کے ان شواہد کو نہیں دیکھتے جو اس غزل میں کھمبے پڑے ہیں، لیکن ایک ننھا منا عیب (اگر وہ عیب ہے) انہیں خوب نظر آتا ہے۔ یہ طباطبائی کا خاص انداز ہے کہ وہ غالب کو صرف دھن اسی زمانے کا شاعر سمجھنے پر مصر ہیں جب انہوں نے اپنی شرح لکھی۔ طباطبائی کے خیال میں غالب کی ہر غزل پکی عمر کی غزل ہے اور یہ بھی کہ غالب کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ہر لفظ، ہر محاورہ، ہر استعمال، ہر مضمون، لکھنؤ کے اس معیار و ماحول کے مطابق ہو، جو انیسویں صدی کے آخر میں وہاں رائج تھا۔ (طباطبائی کی شرح ۱۹۰۰ء میں شائع ہوئی) غالب کے بارے میں بعض غلط فہمیاں طباطبائی کی وجہ سے اور طباطبائی کے مندرجہ بالا تصورات کے باعث عام ہوئیں۔

میرا خیال ہے کہ غالب نے اپنے اشعار میں ایسے بہت سے الفاظ جان بوجھ کر رکھے ہیں جن کی اہمیت بادی النظر میں واضح نہیں ہوتی اور جلد باز نقاد انہیں زائد میں شمار کرتا ہے۔ زبردست شعر کہتے وقت غالب بہت پختہ کار نہ سہی، لیکن اتنے اناڑی بھی نہ

حال یہ ہے کہ شعر میں نہ دعویٰ ہے نہ دلیل، صرف ایک صورت حال ہے۔ یا یوں کہیے کہ مصرع اولیٰ میں دعویٰ ہے اور مصرع ثانی میں جواب دعویٰ۔ شمع کو شعلہ عزیز ہوتا ہے، اس کے بجھ جانے پر اس کے دل سے دھواں اٹھتا ہے۔ لیکن میں شعلہ عشق کو عزیز تر تھا۔ جب میں مرا تو شعلہ عشق سیاہ پوش ہو گیا، مجسم ماتم بن گیا، یا قبائے سیاہ پہن کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کیوں کہ میری موت تو اس شخص کی موت ہے جو عشق کی عزیز ترین ہستی تھا، گویا میں خود عشق ہی تھا۔ شمع کو شعلے سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ شعلے کے جانے کا ماتم صرف اس قدر کرتی ہے کہ اس میں سے دھواں اٹھتا ہے (یعنی اس کے دل سے دھواں اٹھتا ہے جو باہر پھیل جاتا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ دھواں شمع کے اندر سے نکلا ہے) دھواں عارضی اور کم ثبات ہے، لہذا شمع کا ماتم بھی عارضی اور کم ثبات ہے۔ اس کے برخلاف، عشق کو میری موت کا غم اس درجہ ہے کہ وہ سیاہ لباس پہن لیتا ہے۔ سیاہ لباس جو دھوئیں سے زیادہ مستقل اور زیادہ ڈھانپنے والا ہے۔ شمع بجھنے کے بعد پھر روشن ہو سکتی ہے، لیکن وہ شعلہ جو سیاہی میں غرق ہو جائے، دوبارہ روشن نہیں ہو سکتا۔

اب ایک اور پہلو دیکھیے: فارسی میں شمع بجھانے کو 'شمع کشتن' کہتے ہیں۔ لہذا شمع جب بجھائی گئی تو گویا مر گئی۔ شمع کے سر پر شعلہ عشق روشن تھا۔ جب شمع مری تو شعلہ دھوئیں میں غم ہو گیا، یعنی سیاہ پوش ہو گیا۔ یعنی شمع کو الگ ہستی فرض کیجیے اور شعلے کو الگ ہستی تصور کیجیے۔ شمع جب بجھ جاتی ہے تو اس کے اندر سے دھواں اٹھتا ہے، لیکن اگر شمع کی مثال دل عاشق کی ہو اور شعلہ شمع کی مثال شعلہ عشق کی ہو، تو یہ کہیں گے کہ جب شمع (دل عاشق) ختم ہوئی تو اس کے اندر سے دھواں نہ اٹھا، بلکہ خود شعلہ عشق سیاہ پوش ہو گیا۔ یعنی شمع کی موت محض شمع کے بجھنے کی طرح نہیں بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔

(۲۷)

نبھے اب دیکھ کر ابر شفق آلودہ یاد آیا  
کہ فرقت میں تری آتش برستی تھی گلستاں پر  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

اس پوری غزل کا آہنگ خاص طور پر توجہ طلب ہے۔ متداول دیوان میں آٹھ شعر ہیں۔ مسٹر دیوان میں ایک اور ہے۔ نو کے نو اشعار میں 'رے' کا مصمتہ اس کثرت سے استعمال کیا گیا ہے کہ ساری غزل میں متوسط رفتار کی ہوا میں سرسراتے ہوئے ریشمی پردوں کا تاثر ملتا ہے۔

اس وقت جو شعر زیر بحث ہے وہ بظاہر بہت صاف ہے۔ لیکن پہلے مصرعے میں مسئلہ یہ ہے کہ 'اب' کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ مطلب بالکل واضح ہے، مگر پہلے مصرعے کی نثر کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ "مجھے اب شفق آلودہ ابر دیکھ کر یاد آیا" تو معنی یہ نکلتے ہیں کہ اس وقت تک میں بھولا ہوا تھا۔ اب جو ابر شفق آلودہ دیکھا تو خیال آیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ پہلے بھی کئی بار میں نے ابر شفق آلودہ دیکھا تھا، لیکن اس بار جو دیکھا تو خیال آیا۔

اگر نثریوں کی جائے کہ "اب مجھے ابر شفق آلودہ دیکھ کر یاد آیا" تو یہ معنی بھی برآمد ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہی نہ تھی کہ تیری فرقت میں گلستاں پر آتش برستی تھی (یعنی دوسروں کو معلوم تھی) اب مجھے بھی یاد آ گیا (یعنی معلوم ہو گیا)۔ یا مجھے یہ بات اور چیزوں کے دیکھنے سے تو یاد آتی تھی، لیکن ابر شفق آلودہ دیکھ کر اب ہی معلوم ہوا۔

غرض جو بھی صورت فرض کی جائے، لفظ 'اب' کی توجیہ ضروری ہے، ورنہ شعر بہت

کم زور ہو جاتا ہے۔ حسرت نے لکھا ہے کہ 'اب' سے مراد یہ ہے کہ عالمِ فرقت میں بسبب کمالِ مبر و ضبط یہ خبر ہی نہ ہوتی تھی کہ آگ برس رہی تھی۔ لیکن یہ توجیہ کم زور ہے، کیوں کہ اگر آگ برسنے کا احساس نہ تھا تو یہ کمالِ برداشت، بلکہ کمالِ بے حسی ہوا، نہ کہ کمالِ ضبط۔ سہا مجددی نے کوئی توجیہ نہیں کی۔ شوکت میرٹھی کہتے ہیں کہ مجھے غلط فہمی تھی کہ موسمِ بہار میں پھول کھل رہے ہیں، لیکن جب ابرِ شفقِ آلودہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ آگ برس رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ توجیہ بے اثر ہے، کیوں کہ شعر کے الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور توجیہ کچھ اور۔ بیچو دموبانی کہتے ہیں کہ معشوق کے آنے پر ساری کلفتیں مٹیں، شدائد بھر بھولے، لیکن ابرِ شفقِ آلودہ پر نظر پڑنے سے یاد آ گیا کہ جدائی کے زمانے میں اسی ابر کو دیکھ کر لگتا تھا کہ بارغ پر آگ برس رہی ہے۔ لیکن شعر میں تو صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ "فرقت میں تری آتش برستی تھی"۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ "لگتا تھا فرقت میں تری آتش برستی تھی"۔ یعنی آتش کا برسنہ امر واقعہ تھا، محض تصور نہیں تھا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 'اب' کی توجیہ یوں ہو گئی کہ 'اب' سے مراد وہ وقت ہے جب معشوق سے ملاقات ہو گئی ہے۔

بیچو دموبانی کی توجیہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس شعر کو یوں واضح کیا جاسکتا ہے کہ انسانی ذہن کی دو بہت بڑی قوتیں نسیان اور حافظہ ہیں۔ نسیان سے مراد یہ ہے کہ انسانی ذہن میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ گزشتہ مصیبتوں کے نقوش کو محو کر دیتا ہے۔ اور حافظے سے مراد ہے، انسلاک خیال (Association of Ideas) کی قوت، جس کے ذریعے ایک چیز کے حوالے سے دوسری چیز یاد آ جاتی ہے۔ یہ شعر بھی غالب کے ان غیر معمولی اشعار میں ہے جن میں انھوں نے اپنے وجدانی علم کو کام میں لا کر ایسے مسائل لہم کر دیے ہیں جن کا علم اس زمانے میں لوگوں کو نہ تھا۔

محبوب کی فرقت میں گلستاں پر آگ برستی معلوم ہوتی تھی۔ فراق کا لمحہ گزرا تو یہ باتیں محو ہو گئیں۔ پھر بہت دن کے بعد ابرِ شفقِ آلودہ پر نظر پڑی، یعنی موسمِ بہار آیا، وہی موسمِ بہار جو ایک بار پہلے فراق کے زمانے میں گزرا تھا۔ وصال کے لمحات نے فراق کا کرب زائل کر دیا تھا۔ اب جو ابرِ شفقِ آلودہ دیکھا تو انسلاک خیال نے فراق کے لمحات کی یاد تازہ

کر دی۔ اس طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ عاشق کے دل پر جو زخم لگتے ہیں وہ واقعی مندمل نہیں ہوتے، کیوں کہ حافظہ انھیں تازہ کرتا رہتا ہے۔  
'ابرِ شفقِ آلودہ' اور 'آتش' میں دو مناسبتیں ہیں۔ ایک تو سرخی کی اور دوسری دھوئیں کی، جو آگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بادل دھوئیں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں شفق کی سرخی شعلوں کی لپٹ کا سماں پیدا کر رہی ہے۔ ابر سے پانی برستا ہے۔ اس اعتبار سے دوسرے مصرعے میں آگ برسنہ بھی بر محل ہے۔



(۲۸)

بجز پرواز شوق ناز کیا باقی رہا ہوگا  
قیامت اک ہواے تند ہے خاک شہیدوں پر  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

اس غزل کے صوتی آہنگ کی طرف اشارہ میں کرچکا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ غالب کی تمام غزلوں میں اس غزل کو ایک ممتاز مقام صرف اس کے آہنگ کی وجہ سے ملنا چاہیے۔ معنوی حیثیت سے اس کے اشعار میں زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہیں، پھر بھی شعر زیر بحث کی طرح ایک دو ایسے بھی ہیں جن پر سیر حاصل بحث کے باوجود ان کے معنی میں کچھ اسرار چھ رہتا ہے۔

اس شعر کا ایک غیر معمولی مفہوم یہ ہے کہ عشاق جل کر یا آوارہ گردی کے باعث خاک ہو چکے ہیں۔ ہواے تند چلی تو اس خاک کو اڑا لے گئی، یعنی اس خاک پر قیامت کا انتشار برپا کر گئی۔ اس خاک میں شوق ناز کی پرواز کے سوا باقی ہی کیا رہا ہوگا؟ اسے منتشر کر کے ہواے تند کو بھلا کیا ملا ہوگا؟ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خاک تو ذرہ ذرہ ہو کر غبار کی شکل میں ہواے تند کے باعث اڑ گئی، اب وہاں شوق ناز کی پرواز کے سوا کیا بچا ہوگا؟ پہلے تو خاک بھی تھی، لیکن خاک کو ہوانے تتر بتر کر دیا۔ اب شہیدوں کی نشانی صرف پرواز شوق ناز ہے، جو غیر مرئی شے ہے۔

لیکن ابھی کئی مسئلے باقی ہیں۔ دوسرے مصرعے میں فاعل کیا ہے؟ قیامت یا ہواے تند؟ اگر قیامت کو فاعل فرض کیا جائے تو معنی یہ نکلتے ہیں کہ قیامت کی حیثیت صرف ایک ہواے تند کی سی ہے جس نے شہیدوں کی خاک کو منتشر کر دیا۔ گویا قیامت، جو عام لوگوں کے لیے انتہائی زلزلہ خیز واقعہ ہے، شہید عشق کی خاک کے لیے تیز ہوا کے جھونکے سے زیادہ وقعت و حقیقت نہیں رکھتی۔ وہ فنا کے اس درجے پر پہنچ چکا ہے جہاں قیامت

بھی، جس میں ہر چیز تباہ ہوگی اور دوبارہ زندہ ہوگی، شہید عشق کی خاک پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اگر فاعل ہواے تند کو فرض کیا جائے تو وہ معنی نکلتے ہیں جو میں نے اوپر بیان کیے۔ یعنی شہیدوں کی خاک پر ہواے تند کا عمل قیامت کے عمل کی طرح انتشار انگیز اور زلزلہ آگیز ہے۔

پھر بھی سوال اٹھتا ہے کہ پرواز شوق ناز کا مفہوم کیا ہے؟ اس ترکیب کا ترجمہ کم سے کم دو طرح ہو سکتا ہے:

(۱) شوق ناز کی پرواز، اور (۲) شوق ناز میں پرواز۔ پہلی صورت میں مانی الضمیر یہ برآمد ہوتا ہے کہ عشاق کا شوق ناز (یعنی ناز اٹھانے کا شوق) ہمیشہ مائل پرواز رہتا ہے، یعنی بے حد و حساب ہوتا ہے اور ناز کشی کا یہ شوق ان کی موت کے بعد بھی برقرار رہتا ہے۔ وہ خود خاک ہو جائیں لیکن شوق ناز باقی رہتا ہے۔ دوسری صورت میں ایک مابعد الطبیعیاتی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ عشاق کو ناز کشی کا شوق اس درجہ ہے کہ وہ خود بہ خود پرواز کرتے رہتے ہیں، یعنی اس شوق کو پورا کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کیے رہتے ہیں۔ عشاق کے اجسام خاک ہو گئے، لیکن وہ خود خاک نہیں ہوئے بلکہ مثل باد پرواز کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کا خاک ہو جانا یا ان کی خاک کا منتشر ہو جانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر وہ اصلی عاشق ہیں تو یوں بھی ان کا نشان صرف شوق ناز میں پرواز کنندگی کی صورت میں ہی باقی رہا ہوگا، لہذا انھیں قیامت کی عالمی ہلاکت آفرینی متاثر نہیں کر سکتی۔

تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پرواز شوق ناز کا جذبہ اس قدر شدید ہے کہ عشاق کی موت کے بعد ان کی خاک جو اڑتی پھرتی ہے، وہ بھی دراصل اسی جذبے کا اظہار ہے۔ قیامت ہر چیز کو زندہ کر کے اس کے اصل جسم میں واپس لے آتی ہے، لیکن قیامت اس شوق پر قابو نہیں پاسکتی۔ اس کی حیثیت عاشقوں کی خاک کے سامنے صرف ہواے تند کی ہے۔

شعر زیر بحث کو غالب کے مندرجہ ذیل شعر کے ساتھ پڑھیے تو لطف دو بالا ہو جاتا ہے:

کف خاکیم از ما بر نہ خیزد جز غبار آں جا

فزون از صرصر نبود قیامت خاکساراں را

(۲۹)

ہر چند سبک دست ہوئے بُت شکنی میں  
ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ گراں اور  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۲ء)

اس شعر کے معنی حالی نے یہ لکھے ہیں (اور غالباً ہر شارح نے ان سے اتفاق کیا ہے) کہ سارا زور لفظ 'ہم' پر ہے۔ ہستی انسان خود ایک بڑا سدا راہ ہے، اس سے بڑا بُت کوئی نہیں۔ پتھر کے بت اگر توڑ بھی دیے جائیں تو کیا حاصل، جب کہ خودی کا بت موجود ہے۔ خود کو توڑے بغیر معرفتِ حق حاصل نہیں ہو سکتی۔

یہ معنی بہت خوب ہیں۔ لیکن 'ہم' ہی پر زور دیتے ہوئے ایک لطیف معنی اور برآمد ہوتے ہیں کہ ہماری ہستی فی نفسہ سدا راہ کا تقاضا کرتی ہے، بلکہ راہ کی رکاوٹوں کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ کچھ بُت توڑ بھی دیے تو کیا ہوا؟ ہم تو موجود ہیں اور جب تک ہم ہیں، ابھی اور سنگ گراں راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہوتے رہیں گے۔ یعنی حالی کی تشریح کے اعتبار سے شعر کا مضمون یہ ہے کہ درجہ فنا کیوں کر حاصل ہو؟ اور موجودہ تشریح کی رو سے مضمون یہ ہے کہ انسان من الخطا ہے۔ جب تک انسان ہے، راہِ حق کی رکاوٹوں کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا۔ انسان اصلاً مذنب ہے، اس کا وجود ہی اس بات کا ضامن ہے کہ اس کی راہ ترقی مسدود رہے۔

(۳۰)

ہے ناز مفلساں ز راز دست رفتہ پر  
ہوں گل فروش شوخی داغ کہن ہنوز  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر میں پریشانی کی بات یہ رہی ہے کہ لفظ 'گل فروش' کا کیا مطلب ہے؟ اگر 'فروختن' کے معنی 'بیچنا' اور 'گل' کے معنی 'پھول'، داغ، فرض کیے جائیں تو 'داغ کہن' کا معنی نہیں رہ جاتا، کیوں کہ پھر نثر یوں بنتی ہے: میں داغ کہن کی شوخی (یعنی خوب صورتی) کے پھول / داغ ابھی تک بیچ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ داغ کہن کی شوخی تو ٹھیک ہے، لیکن داغ کہن کی شوخی کا داغ یا پھول تکرار محض اور شوخی بیچ ہے۔

طباطبائی لکھتے ہیں کہ داغ عشق اب نہیں ہے تو میں اس کا تذکرہ ہی کیا کرتا ہوں۔ حسرت موہانی کا کہنا ہے کہ میں اپنے داغ ہائے کہن کو یاد کر کے ناز کرتا ہوں۔ شوکت میرٹھی کہتے ہیں: "مفلس اپنے پرانے داغ حسرت پر غش ہیں۔ گویا مفلسوں نے اب بھی اپنے داغ کہن سے دکان گل فروش کھول رکھی ہے۔ طباطبائی اور حسرت نے 'گل فروش' کے معنی وہ بتائے ہیں جو کسی لغت سے ثابت نہیں ہوتے۔ شوکت صاحب نے کئی طرح کے غلط بحث سے کام لیا ہے۔ اول تو انہوں نے 'ہوں' کو 'جوں' پڑھا ہے جو بالکل نامناسب ہے، دوسری بات یہ کہ ان کے خیال میں جو مفلس ہے وہی داغ کہن کا مالک بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ 'مفلس' محض تشبیہ ہے، داغ کہن کے مالک کے لیے، یعنی دونوں الگ الگ شخص ہیں۔

نیاز فتح پوری اور بیخود موہانی نے 'گل فروش ہونا' کے معنی 'فخر کرنا' بتائے ہیں بلکہ نیاز صاحب نے تو اور بھی ظلم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: "مجھے بھی اپنے داغ ہائے کہن کی

گل فروشی پر ناز ہے۔ یعنی انھوں نے 'گل فروشی' کے معنی 'گلفروشی' بھی قرار دیے اور ناز ہے بھی قرار دیے۔ یوسف سلیم چشتی نے لکھا ہے کہ 'گلفروشی' کے معنی ہیں ناز کرنے والا لیکن سنا انھوں نے بھی کچھ نہیں درج کی۔

سہا مجددی نے معنی بظاہر اچھے نکالے ہیں کہ جس طرح لوگ "مفلسی میں اپنی گزشتہ دولت مندی پر فخر کرتے ہیں، میں بھی اپنے زخم کہن کو تازہ رکھتا ہوں اور اس داغ کہن میں نئی نئی شوخیاں نظارہ کرتا ہوں۔" لیکن ان معنی میں یہ تازگی تو ہے کہ 'گلفروشی' کے معنی تازہ رکھنے والا بتائے (اگرچہ بے سند)، مگر بڑی مشکل یہ ہے کہ زخم کہن اور شے ہے اور داغ کہن اور شے۔ شاعر نے 'داغ کہن' کہا ہے نہ کہ 'زخم کہن' اور صاف صاف کہا ہے کہ میں "داغ کہن کی شوخی کا گلفروشی ہوں۔" لہذا بات پھر وہیں جا کر اٹک جاتی ہے کہ 'گلفروشی' داغ کہن کے معنی کیا ہیں؟

یہاں پہلی بات جس پر شرح کی توجہ نہیں گئی ہے، یہ ہے کہ 'فروختن' کے ایک معنی 'دکھانا' بھی ہیں۔ لہذا یہ قطعاً غیر ضروری ہے کہ 'گلفروشی' کے معنی 'گل/داغ کو بیچنے والا' قرار دیے جائیں۔ علی حسن خاں سلیم کی 'موارد المصاوی' اور 'نیک چند بہار کی 'بہارِ مجسم' میں صاف لکھا ہے کہ 'فروختن' اور 'فروشدن' دونوں کے معنی 'ظاہر کرنا' ہیں۔ پھر 'موارد' میں آگے لکھا ہے کہ 'فروختن' کے معنی 'دکھانا' یعنی 'نمائش کرنا اور تعریف کرنا' ہیں۔ سنا انھوں نے اسیری لائنجی کا مندرجہ ذیل شعر نقل کیا ہے:

سے خوار و رند باش و لے خود نما نہ باش

سے نوش در طریقت ما بہ ز خود فروش

ظاہر ہے کہ دوسرے مصرعے کے معنی ہیں: ہمارے اصول و طریق میں تو یہ ہے کہ شراب پینے والا شخص اس شخص سے بہتر ہے جو اپنی تعریف کرے، اپنی نمائش کرے۔ حافظ کے مندرجہ ذیل شعر میں یہ معنی اور بھی صاف نظر آتے ہیں، اگرچہ سلیم نے یہ شعر نقل نہیں کیا ہے:

ہر سروقد کہ برمد و خور حسن می فروخت

چوں تو در آمدی پے کار دگر گرفت

یہاں مصرع اولیٰ کے معنی بالکل صاف صاف یہ ہیں: ہر سروقد جو چاند اور سورج کے سامنے (اپنے) حسن کی نمائش کرتا تھا۔

ان دلائل سے ثابت ہے کہ غالب کے شعر میں 'گلفروشی' کے معنی ہوئے 'گل/داغ کی نمائش کرنے والا' اور 'گل فروشی شوخی داغ کہن کے معنی ہوئے 'داغ کہن کی خوب صورتی کے داغ/نشان کی نمائش کرنے والا' یعنی اس شعر میں 'گل' بمعنی 'پھول/داغ' ہے اور 'داغ' بمعنی 'عشق کا داغ' ہے جو ظاہری صورت میں اس طرح نمایاں ہوتا ہے کہ لوگ چھلا گرم کر کے اپنے ہاتھوں کو جگہ جگہ داغ لیا کرتے تھے۔ رنگ اور گرمی کی مناسبت سے داغ کو پھول اور اشرفی سے تشبیہ دیتے ہیں۔

لہذا شعر کے معنی تو اب صاف ہو گئے، لیکن ایک اور بات بھی شرح نے نظر انداز کر دی ہے کہ مصرع اولیٰ میں جو دعویٰ ہے وہ ناقص ہے۔ کہتے ہیں کہ مفلس لوگوں کو اپنی کھوئی ہوئی دولت پر ناز ہوتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ شروع ہی سے مفلس ہوتے ہیں، لہذا ہر مفلس کے لیے یہ بات درست نہیں کہ اسے اپنی کھوئی ہوئی دولت پر ناز ہوتا ہے۔ جس کے پاس کبھی دولت تھی ہی نہیں وہ اس پر ناز کہاں سے کرے گا۔ اور یہ بھی کوئی کلیہ نہیں اور نہ مسلمات شعر میں سے ہے کہ ہر اس شخص کو، جو پہلے کبھی دولت مند رہا ہو اور پھر مفلس ہو گیا ہو، اسے اپنی گزشتہ دولت مندی پر ناز لازماً ہوتا ہے۔

(۳۱)

نہ ہو بہ ہرزہ بیاباں نورد وہم وجود  
ہوز تیرے تصور میں ہے نشیب و فراز  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

اس شعر کی شرح میں تقریباً سب لوگوں نے دھاندلی کی ہے۔ بیخود موہانی نے بھی لفظ وجود سے دھوکا کھا کر اس شعر کا مضمون وحدۃ الوجود بیان کیا ہے۔ لیکن لفظ 'وہم' انھیں کھٹکا ضرور تھا۔ اسی لیے انھوں نے اپنی شرح لکھ کر آخر میں 'وہم وجود پر نوٹ دیا ہے کہ "وہم وجود اس اعتبار سے کہا ہے کہ وہ خدا کے سوا سب کے وجود کو بچھتا ہے"۔ لیکن اس مفہوم کو شعر سے کوئی علاقہ نہیں۔ غلام رسول مہر 'وہم وجود سے "وجود کے سلسلے میں وہم وگمان کی خاک چھاننا" مراد لیتے ہیں۔ حالانکہ شعر میں صاف کہا گیا ہے کہ تو وہم وجود کے بیابان میں فضول سفر مت کر۔ یعنی بیابان کا تعلق وہم وجود سے ہے، وہم وگمان سے نہیں۔ اوروں کی طرح مولانا مہر بھی مراتب وجود کے تعین و تلاش کو (جن میں سب سے بلند وجود ہے اور سب سے پست امکان) 'نشیب و فراز' سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ضروری ہوتا جب 'وجود کے معنی وحدۃ الوجود ہوتے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ تمام اقوال غلط ہیں کہ ابھی تیرے تصور میں نقص ہے، کیوں کہ تو مراتب وجود کے چکر میں گرفتار ہے یا یہ کہ تو ماسویٰ اللہ میں پھنسا ہوا ہے ابھی تو وحدۃ الوجود کو سمجھنے کے لائق نہیں ہوا ہے۔

اس شعر کے تفہیم کے سلسلے میں پہلی کلیدی بات یہ ہے کہ 'وجود کو وحدت الوجود نہ فرض کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ لفظ 'وہم' کو مناسب اہمیت دی جائے۔ شعر میں صاف کہا گیا ہے کہ تو وہم وجود کے بیابان میں فضول سفر نہ کر، ابھی تو نشیب و فراز میں گرفتار ہے۔ 'وہم وجود سے مراد وہ منزل ہے جب ہم اپنے اور اشیاء عالم کے وجود میں شک

کرنے لگتے ہیں یا اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا یا ظواہر کا بھی کوئی وجود ہے۔ یہ دونوں صورتیں ایک ہی مقام کی واردات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت شاہ وارث حسن کا شعر ہے:

من کیستم، من کیستم، من کیستم  
من عیستم، من عیستم، من عیستم

اپنے وجود پر شک کرنا، یا اپنے وجود کا شک کرنا 'وہم وجود ہے۔ 'نشیب و فراز' سے ہم راست فکری کا فقدان، مصلحت کوشی، اونچ نیچ دیکھ کر چلنے کی خصلت (یعنی دنیا داری) اشیاء کو ان کی حقیقت کے بجائے ان کی مقدار سے ناپنے کی عادت مراد لے سکتے ہیں۔ اب شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ تو اپنے وجود کے بارے میں وہم کی منزل پر ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ ابھی تو راستے کے خوف و خطر میں گرفتار ہے۔ ابھی تو مبتدی ہے، نتیجی کا درجہ پانے کی سعی نہ کر۔

(۳۲)

وسعت سعی کرم دیکھ کہ سرتا سر خاک  
گزرے ہے آبلہ پا ابر گہر بار ہنوز  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر کا مطلب عام طور پر یوں بیان کیا جاتا ہے: اگرچہ ابر گہر بار زمین کو سیراب کرنے کے لیے طویل سفر کرتا ہے اور آبلہ پا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی سعی کرم کی وسعت دیکھو کہ وہ پھر بھی زمین کو سیراب کرنے سے نہیں رکتا۔ یعنی کریم باوجود تکلیف اٹھانے کے، سخاوت سے دست کش نہیں۔ شراح نے مضمون تو صحیح بیان کیا ہے کہ کریم زحمت اٹھاتا ہے لیکن پھر بھی سخی رہتا ہے، لیکن جو مطلب لکھا ہے اس میں منطقی غلطی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ابر چوں کہ پانی برساتا ہے اس لیے آبلہ پا ہے، یعنی آبلہ پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور ابر بھی پانی سے پر ہوتا ہے، اس لیے ابر کی صفت آبلہ پائی ہے۔ اڈل تو یہ تلازمہ بہت کامیاب نہیں، کیوں کہ ابر تو سراسر پانی سے لبریز ہوتا ہے، لہذا اس کو آبلہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آبلہ پائیں کہہ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ابر تو آبلہ پا اس وجہ سے ہے کہ اس نے سیرابی کی خدمت انجام دینے کے لیے دور دور کا سفر کیا ہے۔ یعنی آبلہ پائی نتیجہ ہے خدمت سیرابی کا، وجہ سیرابی نہیں ہے۔ یا تو ہم یہ کہہ لیں کہ ابر چوں کہ پر آب ہوتا ہے، اس لیے آبلہ پا ہے (اور یہ کہنے میں جو قباحت ہے اسے میں اوپر واضح کر چکا ہوں) یا پھر یہ کہہ لیں کہ ابر نے پانی برسانے کے لیے لمبا سفر کیا ہے، اس لیے آبلہ پا ہے۔ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتیں۔

اصل میں اس شعر کی مفہوم شناسی میں غلطی یوں ہوئی ہے کہ ابر گہر بار کو مرتب سمجھ لیا گیا ہے۔ اضافت دراصل یہاں ہے نہیں۔ ابر گہر بار کو بے اضافت پڑھے تو معنی یہ نکلتے ہیں کہ باوجود آبلہ پائی ابر اس قدر کریم ہے کہ گہر بار گزرتا ہے۔ یعنی ابر سے برسنے

والے بارش کے قطرے مثل گوہر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ استعارہ بھی بالکل صحیح ہے۔ دور دور تک سفر کرنے کے باعث ابر کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ گہر باری بند نہیں کرتا۔ اب شعر میں استعارہ در استعارہ ہو گیا۔ ایک تو عام استعارہ کہ ابر کو گوہر بار کہتے ہیں اور دوسرا مخصوص استعارہ، کہ بادل سے برسنے والی یونہی گوہر ہیں۔ اس تخصیص سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ چھالے میں بھرے ہوئے پانی کو قطرہ باروں سے تشبیہ دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔

اب سوال یہ رہتا ہے کہ ابر کو آبلہ پا کیوں کہا؟ اس کی کئی وجہیں ممکن ہیں۔ بارش سے پوجھل بادل زمین کی طرف بھٹکے ہوئے اور مدور شکل کے نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بادل کا جو حصہ ہمیں نظر آتا ہے وہ اس کا نچلا حصہ ہے، لہذا وہ آبلوں بھرے پاؤں سے مشابہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بادل چوں کہ دور سے آتے ہیں، اس لیے انہیں آبلہ پا فرض کیا جاسکتا ہے۔

(۳۳)

یک قلم کاغذ آتش زدہ ہے صفحہ دشت  
نقش پا میں ہے تب گرمی رفتار ہنوز  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

سب سے پہلے مراعاتِ العظیر پر غور کیجیے۔ الفاظ اس قدر با معنی ہیں کہ پہلی نظر میں  
دھیان ادھر منتقل نہیں ہوتا: قلم، کاغذ، صفحہ، نقش۔ اب معنی کو دیکھیے۔ عام طور پر اسے عاشق  
کی گرم رفتاری کی تصویر کہا جاتا ہے، لیکن یہ مضمون معشوق کی گرم رفتاری کا بھی ہو سکتا ہے،  
خاص کر ایسا معشوق جو اپنے عاشق کو تلاش کرنے نکلا ہو، یا جو عاشق سے دور ہو کر جا رہا  
ہو۔ نکتہ اس امر میں ہے کہ عام طور پر کہا گیا ہے کہ نقش پا میں گرمی رفتار کا اثر اس قدر باقی  
ہے کہ سارا دشت پڑا جل رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو کاغذ آتش زدہ کی ضرورت سمجھ میں  
نہیں آتی۔ معنی دراصل یہ ہیں کہ سارا دشت نہیں جل رہا ہے، بلکہ صرف وہ جگہ جل گئی ہے  
جہاں قدم پڑا ہے، اس طرح دشت جلتے ہوئے کاغذ کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ کاغذ جب جلتا  
ہے تو سارا بیک وقت نہیں جلتا، بلکہ جگہ جگہ اس پر روشن نقطے نمودار ہو جاتے ہیں۔ نوعمر  
عالم نے اسی زمانے کی ایک غزل میں یہ پیکر اور بھی حسن کے ساتھ باندھا تھا:

برنگ کاغذ آتش زدہ نیرنگ بے تاب  
ہزار آئینہ دل باندھے ہے بال یک تپیدن پر

عالم نے شعر کو وحشی بزدی کے مندرجہ ذیل شعر کے سامنے رکھے۔ صاف کھل جاتا ہے کہ  
عالم کا تخیل تیز تر تھا۔ وحشی نے صرف سوزندگی کا ذکر کیا ہے، لیکن دلیل نہیں دی ہے۔  
عالم نے نقش اور کاغذ آتش زدہ کا محاکاتی استعارہ دے کر معنی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا  
ہے۔ ہاں وحشی کے یہاں انشائیہ انداز خوب ہے:

کہ گزر کرد ازین راہ بہ شوخی وحشی  
نبض جادہ تپد و سینہ صحرا گرم است

وحشی نے استفہام کے ذریعے معنی کی کئی تہیں چھولی ہیں (۱) استعجاب (۲) تجسس  
(۳) تحسین۔ پھر اس پر طرہ یہ کہ اس رہ نور کی شخصیت پوری طرح نہیں واضح ہوئی کہ نبض  
جادہ اور سینہ صحرا کی گرمی رشک کی بنا پر ہے یا رہ نور کی تیز رفتاری کی بنا پر۔ یہ سب باتیں  
تو ہیں، لیکن غالب کا استعارہ ان سب پر بھاری ہے۔

(۳۴)

نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز  
میں ہوں اپنی شکست کی آواز  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

اس شعر میں 'گل نغمہ' کی ترکیب اکثر لوگوں کی توجہ اور پریشانی کا مرکز بنی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ 'گل نغمہ' موسیقی کی کوئی اصطلاح ہوگی۔ بیخود موبہانی نے اس کے معنی بیان کیے ہیں: "الاب، نشید" لیکن کوئی سند نہیں دی ہے اور نہ کسی لغت کا حوالہ دیا ہے۔ شوکت میرٹھی نے بھی 'الاب' درج کیا ہے مگر بے سند۔ ممکن ہے شوکت صاحب کی سند پر بیخود موبہانی نے بھی 'الاب'، نشید لکھ دیا ہو۔ غلام رسول مہر نے معنی لکھے ہیں: 'نغمے کا پھول' جو بظاہر بے معنی ہے، اور غلط بہر حال معلوم ہوتا ہے۔ حوالہ مولانا مہر صاحب نے بھی کوئی نہیں درج کیا۔ سہا مجددی لکھتے ہیں کہ لفظ 'گل' کے ساتھ کہیں رنگ کی رعایت معلوم ہوتی ہے تو کہیں شکفتگی مقصود بیان ہوتی ہے۔ سہا صاحب کے خیال میں یہاں 'شکفتگی' مقصود ہے، لیکن انہوں نے کوئی وجہ نہیں بیان کی اور نہ یہ بتایا ہے کہ اگر 'گل' سے 'شکفتگی' مقصود ہے تو 'نغمہ' سے کیا مقصود ہے؟ آغا باقر نے 'گل نغمہ' کے معنی 'گلابنگ' بتائے ہیں۔ یہ معنی کچھ بہت دل کش نہیں کہ 'گلابنگ' تو کسی بھی اچھی آواز کو کہتے ہیں، پردہ ساز سے اس کی کوئی خاص مناسبت نہیں نظر آتی۔ علاوہ ازیں، کسی سند یا لغت کے حوالے کے بغیر یہ معنی بھی مشکوک ٹھہریں گے۔

'گل نغمہ' کی ترکیب فارسی لغات میں نہیں ملتی۔ "اردو لغت، تاریخی اصول پر" نے اسے درج کیا ہے اور نغمے کی خوبی، پر تاثری معنی بتائے ہیں۔ "لغت" میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ موسیقی کی اصطلاح ہے۔ "لغت" میں درج کردہ معنی اور یہ اطلاع کہ 'گل نغمہ' موسیقی کی اصطلاح ہے، دونوں ہی محتاج ثبوت و سند ہیں۔ پھر ارباب 'لغت' نے زیادتی یہ کہ ہے کہ

عالت کا شعر زیر بحث سنداً درج کیا ہے اور 'سحر البیان' سے ایک شعر میر حسن کا بھی درج کیا ہے، حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ میر حسن اور عالت اس ترکیب کو الگ الگ معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ میر حسن کا حسب ذیل شعر 'لغت' میں درج کیا گیا ہے۔ یہ شعر رشید حسن خاں کی مدونہ 'سحر البیان' (مطبوعہ انجمن ترقی اردو [ہند] نئی دہلی) کے صفحہ ۲۳۳ پر دیکھا جاسکتا ہے:

گل نغمہ جو اس سے گرتے ہزار  
تو لیتا انھیں دشت دامن پیار  
ارباب 'لغت' نے یہ بات نظر انداز کر دی کہ میر حسن نے پانچ شعروں کے بعد 'گل نغمہ' دوبارہ لکھا ہے:

گل نغمہ تر کی تھی یہ بہار  
کہ صحرا کے گل اس کے آگے تھے خار  
ظاہر ہے کہ تہا دونوں شعروں کا مفہوم صاف نہیں۔ سیاق و سباق کے لیے مندرجہ ذیل شعر سامنے رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے:

جہاں بیٹھ کر وہ بجاتی تھی بین  
تو سننے کو آتے تھے آہوے چین  
بجاتی وہ جو گن جہاں جو گیا  
تو وہاں بیٹھتی خلق دھونی رما  
اسے سن کے آتا تھا صحرا کو جوش  
صدا سے درختوں کو کرنا خروش  
گل نغمہ جو اس سے گرتے ہزار  
تو لیتا انھیں دشت دامن پیار

اب صاب ظاہر ہے کہ میر حسن نے 'گل نغمہ' اس درخت کے پھول پتیوں کو کہا ہے جس کے نیچے بیٹھ کر نجم النساء جو گیا راگ بجا رہی تھی۔ راگ کے اہتر از سے درخت کی پتیاں اور پھول ارتعاش میں آتے اور زمین پر برستے۔ انھیں دشت دامن پیار کر لے لیتا۔ آگے، انھیں پھول پتیوں کو میر حسن نے 'گل نغمہ تر' یعنی 'نغمے کے گل تر' کہا ہے، کہ ان کی شکفتگی

کے سامنے صحرا کے پھول خار معلوم ہوتے تھے۔ یعنی نجم النساء کی بین کا درخت پر یہ اثر تھا کہ اس کے گل تر ارتعاش میں آ کر زمین پر آ رہتے تھے اور:

گلِ نغمہ تر کی تھی یہ بہار  
کہ صحرا کے گل اس کے آگے تھے خار

اس طرح صاف ظاہر ہے کہ میر حسن اس ترکیب کے مخترع تو ہیں لیکن انہوں نے اسے غالب کے شعر سے مختلف معنی میں استعمال کیا ہے اور یہ استعمال ان کا اپنا ہے، اسے لغت یا شعرا کے استعمال کی سند حاصل نہیں۔

لہذا سوال وہیں کا وہیں رہتا ہے کہ غالب نے 'گلِ نغمہ' سے کیا معنی مراد لیے ہیں یا غالب کے شعر میں اس کے معنی کیا سمجھے جائیں؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب کسی استاد یا لغت کی سند موجود نہیں تو وہی معنی ٹھیک سمجھے جائیں گے جو شعر سے متبادر ہوتے ہوں۔ ایسی صورت میں آغا باقر کے بیان کیے ہوئے معنی (گلبانگ) درست قرار دیے جائیں گے۔ ہزار کمزور سہی، لیکن 'گلبانگ' یا معنی تو ہے۔

لغات کی ورق گردانی کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ 'گل' کے ایک معنی 'برگزیدہ، نخبہ' بھی ہیں ('دبند')۔ یعنی کسی چیز کے بہترین، چنے ہوئے حصے کو اس شے کا 'گل' کہتے ہیں۔ لہذا 'گلِ نغمہ' کے معنی (غالب کے شعر میں) "نغمے کی روح، اس کا عطر، اس کا بہترین حصہ" ہوں گے۔ یہ معنی اب تک زیر بحث لائے گئے تمام معنی سے قوی تر معلوم ہوتے ہیں۔ 'آندرراج' میں 'نتیجہ و فائدہ اور بہتر و خوب' معنی بھی لکھے ہیں۔ 'غیاث' میں بھی 'بہتر و خوب' درج ہے۔ ان میں بھی معنی کی روشنی میں غالب کے یہاں 'گلِ نغمہ' کے معنی 'نغمے کا بہترین حصہ' قرار دیے جاسکتے ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ (۱) 'گلِ نغمہ' موسیقی کی اصطلاح نہیں ہے اور نہ یہ کوئی مقرر ترکیب ہے، نہ غالب کے شعر میں نہ میر حسن کے یہاں۔ (۲) غالب اور میر حسن نے 'گلِ نغمہ' کو الگ الگ معنی میں استعمال کیا ہے۔ (۳) غالب کے زیر بحث شعر میں 'گلِ نغمہ' کے معنی ہیں: نغمے کی روح، اس کا عطر، اس کا بہترین حصہ۔

(۳۵)

تو اور آرائشِ خمِ کاکل  
میں اور اندیشہ ہائے دور و دراز  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

بظاہر یہ شعر بہت سادہ ہے، لیکن اسے غالب کے مبہم ترین اشعار میں شمار کرنا چاہیے، کیوں کہ ہزار تجزیے کے باوجود اس کے تمام رموز واضح نہیں ہوتے۔ پھر بھی اتنا کہا جاسکتا ہے کہ مروج تشریحات شعر کے ساتھ انصاف نہیں کرتیں۔

سب سے پہلے تو 'کاکل' اور 'دور دراز' کی مناسبت کی طرف اشارہ کرنا لازمی ہے جو غالباً کسی شارح نے نہیں کیا ہے۔ اب ظاہری مفہوم کو لیجیے: تو خمِ کاکل کی آرائش میں مصروف ہے اور میں اندیشہ ہائے دور دراز میں مبتلا ہوں۔ شارحین نے سوال کیا ہے کہ اندیشہ ہائے دور دراز کیا ہیں؟ لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مصرعِ اولیٰ میں بیان کردہ صورتِ حال پر غور کرنا ضروری ہے۔ عاشقِ محبوب کو خمِ کاکل کی آرائش میں مصروف دیکھتا ہے۔ گویا اسے اس حد تک قرب تو نصیب ہے کہ وہ محبوب کے بناؤ سنگار کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ عام عاشقوں کے سامنے تو محبوب پوری طرح بن سنور کر ہی آتا ہے، لہذا شاہد اور مشہود میں وہ عام رشتہ نہیں ہے جو کسی معمولی عاشق اور مطلوب میں ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے یہ رشتہ وصل کی صورت اختیار کر چکا ہو اور یہ شعر شبِ وصل کی صبح کا منظر پیش کرتا ہو۔

ایک امکان یہ بھی ہے کہ متکلم محض تصور کر رہا ہے۔ اب مصرعِ اولیٰ کی صورتِ حال تو اصلی ہے اور مصرعِ ثانی کی صورتِ حال خیالی، یعنی عاشق تنہا ہے اور اندیشہ ہائے دور دراز ہیں۔ عاشق سوچتا ہے کہ میں تو دور دراز کے اندیشوں میں ہوں اور تو (حسب معمول) بننے سنورنے کا سامان کر رہا ہوگا۔ میں وقف اندیشہ و اوہام ہوں اور تو وقف تزئین و آرائش، جیسا کہ ۱۸۲۱ء ہی کی ایک غزل میں خود غالب نے کہا ہے:



شکوہ سچ رھک ہم دیگر نہ ہونا چاہیے  
میرا زانو مونس اور آئینہ تیرا آشنا

ایک صورت اور بھی ہے: محبوب عام طور پر بننے سنور نے کا قائل نہیں ہے، بلکہ حسن فطری میں یقین رکھتا ہے۔ اچانک عاشق کو خبر ہوتی ہے یا وہ دیکھتا ہے کہ محبوب آرائش کا کل میں مصروف ہے۔ اب لفظ 'تو' پر خاص زور ہے۔ یہ تو ہے جو آرائش خم کا کل میں محو ہے! مجھے دور دراز کے خوف آرہے ہیں کہ آج کیا بات ہے جو تو اس غیر عادی شغل میں مصروف ہے؟ شاید کسی طالب خاص کا سامنا کرنا ہے جس کے لیے یہ اہتمام ہے۔

سب سے زیادہ معنوی امکانات یہ فرض کرنے میں ہیں کہ عاشق اور معشوق میں کوئی خاص رشتہ ہے جس کی بنا پر وہ محبوب کو اس کے نجی لحاظ میں دیکھ سکتا ہے۔ اگر 'اندیشہ' بمعنی 'سوچ' یا 'خیال' لیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ شعر ایک عجب طرح کی منقسم شویت کو پیش کرتا ہے۔ محبوب بن سنور رہا ہے اور عاشق دور دراز کے خیالوں میں گم ہے۔ گویا اسے اس منظر میں کچھ دل چسپی ہی نہیں۔ بننے سنور نے کا منظر تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کو بھی دل چسپی ہوتی ہے جو معشوق کی موجودگی سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر دل میں محبت ہو تو معشوق کی آرائش سے بڑھ کر دل زبا منظر گم ہی ہوں گے۔ اور شعر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تو خم کا کل کی آرائش میں گم ہے اور میں دور دراز کے اندیشوں میں محو ہوں۔ لہذا یہ صورت حال کچھ ایسی ہے کہ عاشق کو محبوب میں نہیں بلکہ اپنے خیالات میں انہماک ہے۔ اس طرح یہ شعر وصل میں شوق کے زوال کی علامت بن جاتا ہے۔ یا اگر شوق کا زوال نہیں ہے تو کسی قسم کی ذہنی الجھن ضرور ہے جو عاشق کو ایسے لمحے میں بھی معشوق کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ ممکن ہے یہ وہ بے دلی ہو جو منزل مقصود کو پالینے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔

اگر 'اندیشہ' بمعنی 'خوف' لیا جائے تو امکانات کی ایک اور وسیع دنیا دکھائی دیتی ہے۔  
(۱) عاشق کو یہ خوف ہے کہ زلف سیاہ کل سفید ہو جائے گی۔ آج کا حسن اسے کل کی بد صورتی کی یاد دلاتا ہے۔

(۲) اسے یہ بھی خوف ہے کہ اس وقت اس کے اپنے تاثرات کیا ہوں گے جب یہ بھر پور زندگی آگیاں جوانی ڈھیلے ڈھالے بڑھاپے میں بدل جائے گی۔

- (۳) اسے خیال آتا ہے کہ اس قدر مکمل حسن بھی موت سے آزاد نہیں ہے۔ اسے خوف ہے کہ موت اسے بھی چھین لے گی اور اس حسن کا کچھ لحاظ نہ کرے گی۔
- (۴) بقول حسرت موہانی، اسے یہ خیال ہے کہ معشوق کو میری وفا پر بھروسہ نہیں ہے اسی لیے وہ بن سنور کر مجھے اپنے حسن کے دام تزویر میں گرفتار رکھنا چاہتا ہے۔
- (۵) اسے یہ خوف ہے کہ اس سجاوٹ اور بناؤ کے ساتھ معشوق کو دوسروں نے دیکھا تو اس پر عاشق ہو جائیں گے، بلکہ کیا عجب کہ جان دے دیں۔
- (۶) وہ ڈرتا ہے کہ معشوق اپنے ہی اوپر عاشق نہ ہو جائے۔
- (۷) اُسے خوف ہے کہ اتنا بناؤ سنگار کسی نئے عاشق کے لیے ہو رہا ہے۔
- (۸) اسے خوف ہے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، ہم لوگ اپنے اپنے کام میں منہمک ہیں، موت کو بھول گئے ہیں، حالاں کہ زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔
- (۹) خوف یہ ہے کہ جو معشوق بناؤ سنگار سے اس درجہ شگفتہ رکھتا ہو وہ مجھ سے وفانہ کرے گا۔ اس کی دل چسپی اپنے میں ہے نہ کہ مجھ میں۔
- لہذا 'اندیشہ' بمعنی 'سوچ' اور 'اندیشہ' بمعنی 'خوف' کی روشنی میں اور پہلے مصرعے کی صورت حال کو ذہن نشین کرنے کے بعد شعر غیر معمولی پیچیدگی کا حامل ہو جاتا ہے۔

(۳۶)

لاف حتمکس قریب سادہ دلی  
ہم ہیں اور راز ہائے سینہ گداز  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

ولیم ایبسن نے اپنی کتاب 'اہام کی سات قسمیں' میں علامات اوقاف کی غیر قطعیت کے پیدا کردہ اہام کا ذکر کیا ہے۔ ہماری شاعری میں چون کہ اصلاً علامات اوقاف استعمال نہیں ہوتی تھیں، اس لیے یہاں اہام کے امکانات اور بھی زیادہ ہیں۔ علامات کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی شعر کی متعدد قراتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ غالب کے یہاں چون کہ پیچیدگی عام اردو شعرا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کے کلام میں یہ صورت بہت نظر آتی ہے کہ مختلف علامات اوقاف استعمال ہوں تو معنی بدل جاتے ہیں۔ بعض اوقاف معنی کی تبدیلی اتنی شدید ہوتی ہے کہ ایک ہی شعر کی مضامین کا حال ٹھہر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ترتیب متن کے نئے اصولوں کے تحت بعض لوگ شعر میں اوقاف لگانا ضروری سمجھتے ہیں۔ کلاسیکی شاعری کی حد تک میں اس طریق کار کو نقصان دہ اور غلط سمجھتا ہوں۔ اوقاف لگانے سے یہ آسانی تو ہوتی ہے کہ شعر کو پڑھنے میں تھوڑی سی مدد ملتی ہے، لیکن اوقاف شعر کی قرات میں خلل بھی ہوتے ہیں اور شعر کے معنی کو تو یقیناً محدود کر دیتے ہیں۔ یہ صورت اس وقت خاص کر کے نقصان دہ ہوتی ہے، جب شعر بظاہر سادہ ہو۔ مثلاً مندرجہ ذیل قراتیں دیکھیے۔ یہ سب ممکن اور درست ہیں۔ اگر اوقاف نہ ہوں تو وہ سب معنی ممکن ہوں گے جو مختلف اوقاف کی بنا پر الگ الگ قائم ہوں گے:

درد منت کش دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا، بُرا نہ ہوا  
درد منت کش دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا، بُرا نہ ہوا  
درد منت کش دوا؟ نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا؟ بُرا نہ ہوا

درد منت کش دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا۔ (بُرا نہ ہوا)  
شعر زیر بحث کے مصرع اولیٰ میں یہ صورت حال انتہائی منزل پر ہے۔ اس کی کم سے کم مندرجہ ذیل قراتیں ممکن ہیں:

- (۱) لاف، حتمکس، فریب، سادہ دلی
- (۲) لاف، حتمکس، فریب، سادہ دلی
- (۳) لاف، حتمکس، فریب، سادہ دلی
- (۴) لاف، حتمکس، فریب، سادہ دلی
- (۵) لاف، حتمکس، فریب، سادہ دلی
- (۶) لاف، حتمکس، فریب، سادہ دلی!
- (۷) لاف، حتمکس، فریب، سادہ دلی
- (۸) لاف، حتمکس، فریب، سادہ دلی

لیکن عجب لطف یہ ہے کہ اتنی بہت سی امکانات قراتوں کے باوجود دونوں مصرعوں کا ربط بیک نظر ظاہر نہیں ہوتا۔ ہر قرات غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے، اگرچہ بظاہر شعر میں کوئی اشکال نہیں۔ ان قراتوں پر الگ الگ غور کیجیے۔ دوسرے مصرعے کا مفہوم واضح ہے: ہمارا سینہ رازوں سے بھرا ہوا ہے جو (اس قدر جاں کاہ ہیں کہ) سینے کو کھلائے دے رہے ہیں۔ اب مندرجہ بالا آٹھ قراتوں کے اعتبار سے شعر کا مطلب حسب ذیل ہوگا:

- (۱) پر غرور دعویٰ بھی ہے، وقار و ضبط بھی، فریب بھی ہے، سادہ دلی بھی۔ یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہمارا دل تو سینہ گداز اسرار کا گنجینہ ہے۔ (سینہ کہ تھا دینہ گہرا ہائے راز کا۔ یہ غزل ۱۸۲۱ء اور ۱۸۲۶ء کے درمیان کی ہے، اغلب ہے کہ شعر زیر بحث والی غزل کے کچھ ہی قبل یا بعد کی ہو۔)
- (۲) ہماری سادہ دلی دراصل ہمارے وقار و ضبط کو فریب دینے والا جھوٹا دعویٰ ہے۔ ورنہ ہمارا دل تو سینہ گداز رازوں سے بھرا پڑا ہے، اس میں سادہ دلی کی گنجائش کہاں؟

- (۳) ہم نے صبر و ضبط و وقار کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن دراصل یہ ہماری سادہ دلی ہے جس کی بنا پر ہم ضبط کے فریب میں مبتلا ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا دل سینہ گداز

رازوں سے پکھلا جا رہا ہے۔

(۴) ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم ایسی سادہ دلی رکھتے ہیں جو ہوش و ضبط کا فریب دیتی ہے، یعنی ہماری سادہ دلی کی بنا پر لوگوں کو یہ دھوکا ہے کہ ہم بڑے صبر و ضبط والے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہمارا دل سینہ گداز اسرار سے بھرا پڑا ہے۔

(۵) ہماری پر غرور شہنی دراصل ہماری سادہ دلی کو وقار و ضبط کا فریب دے رہی ہے ورنہ اصلیت تو یہ ہے کہ ہم ہیں اور راز ہائے سینہ گداز۔

(۶) اے تمکین فریب و عوامے سادہ دلی، سچ تو یہ ہے کہ ہمارا دل سینہ گداز رازوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہم سادہ دل کہاں ہیں؟ یہ تو محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔

(۷) ہمارا ضبط و وقار صرف جھوٹا دعویٰ ہے۔ ہماری سادہ دلی صرف فریب ہے۔ دونوں طرح ہم جھوٹے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم ہیں اور راز ہائے سینہ گداز۔

(۸) اے سادہ دلی، تو ایسا دعویٰ ہے جو وقار کا فریب دیتا ہے۔ لیکن ہم میں سادہ دلی ہے نہ وقار۔ ہم تو سینہ گداز رازوں سے بھرے پڑے ہیں۔

ان سب تشریحات کے باوجود یہ سوال (جس پر کسی شارح کی نظر نہیں گئی ہے) برقرار رہتا ہے کہ وہ کون سے راز ہیں جو سینہ گداز ہیں؟ اگر صرف راز عشق مراد ہے تو راز ہائے کیوں کہا؟ میرا خیال ہے کہ یہ شعر عشقیہ نہیں، بلکہ منکرانہ ہے۔ اس میں جن رازوں کا ذکر ہے وہ اسرار کائنات ہیں جن کے بوجھ سے پہاڑوں کا زہرہ آب ہوتا ہے (جیسا کہ قرآن میں ارشاد پاری ہے) اور جنہیں عارف ہی سہا سکتا ہے۔ ہم چاہے سادہ دلی کے فریب میں مبتلا ہوں یا ضبط و ہوش کے، حقیقت یہ ہے کہ جو اسرار ہمارے دل میں دفن ہیں وہ ہمارے سینے کو پکھلائے دیتے ہیں۔ ان کو سہنا آسان نہیں۔

مندرجہ بالا معنی کو تقویت غالب کے اس شعر سے بھی ملتی ہے جس کا حوالہ میں نے

اوپر دیا ہے:

تاراج کاوش غم ہجران ہوا اسد

سینہ کہ تھا دقینہ گہر ہائے راز کا

(۳۷)

کرے ہے صرف بہ ایمائے شعلہ قصہ تمام  
بطرزِ اہلِ فنا ہے فسانہ خوانی شمع

(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

شارحین کو 'فسانہ خوانی' کی تشریح میں بڑی مشکل ہوئی ہے۔ شمع کو کس طرح فسانہ خوانی فرض کیا جاسکتا ہے؟ شمع کس کا فسانہ کہتی ہے؟ شارحین یوں کہتے ہیں:

(۱) شعلے کا اشارہ پاتے ہی شمع اپنی زندگی ختم کر لیتی ہے۔ اہلِ فنا خود کو شعلہ عشق حقیقی میں جلا کر خاک کر ڈالتے ہیں۔ شمع بھی ایسا ہی کرتی ہے، گویا وہ اہلِ فنا کی طرح فسانہ خواں ہے۔ (۲) شعلے کے اشارے پر شمع اپنی زندگی ختم کر لیتی ہے۔ اہلِ فنا بھی اشاروں میں باتیں کرتے ہیں۔ فسانہ خوانی کچھ نہیں ہے سوائے عشق و ذکرِ الہی کے۔ شمع بھی اہلِ اللہ یعنی اہلِ فنا کی طرح شعلے کے اشارے کی پابند ہے۔ (۳) شمع اپنی زندگی کا فسانہ اہلِ فنا کی طرح کہتی ہے۔ اہلِ فنا کی زندگی بس یہی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں شعلہ عشق روشن رکھتے ہیں۔

ان تشریحات میں دو بڑے سقم ہیں (۱) یہ بات بے معنی ہے کہ شعلے کا اشارہ پاکر شمع اپنی زندگی ختم کر لیتی ہے۔ شعلے کے اشارے کا تصور ہی مہمل ہے۔ شمع سے الگ شعلے کا کوئی وجود نہیں، لہذا شعلے کے اشارے پر شمع کی زندگی ختم ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ 'فسانہ خوانی' کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ پہلے مصرعے میں 'کرے' ہے قصہ تمام' کا مطلب 'زندگی ختم کرنا' یا 'جل بجھنا' لیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو فسانہ خوانی چہ معنی دارد؟ تیسری تفسیر زیادہ قرین قیاس ہے، لیکن اس میں مصرع اولیٰ کا مفہوم تقریباً پورا نظر انداز ہو جاتا ہے۔

سب سے پہلے لفظ 'ایما' پر غور کیجیے۔ تمام شراح نے 'ایما' بمعنی 'اشارہ' لیا ہے اور

’اشارہ‘ سے وہ مفہوم مراد لیا ہے جو Suggestion یا Hint کا ہے۔ مثلاً ہم کہیں: ”وہ شخص اشاروں میں بات کرتا ہے“ یا ”میں نے یہ کام اس کے اشارے پر کیا“ لیکن ’ایما‘ بمعنی Emblem یا Sign بھی ہے، یعنی ایسا اشارہ جو رمز یا علامت کا حکم رکھتا ہے۔ مثلاً ”سرخ روشنی اس بات کا اشارہ ہے کہ راستہ کھلا نہیں ہے“۔ اگر ’ایما‘ کو اشارہ بمعنی Sign لیا جائے تو بہت ہی لطیف معنی برآمد ہوتے ہیں جو ’فسانہ خوانی‘ کو بھی واضح کر دیتے ہیں۔ قصہ تمام کرنا کے معنی ہیں ’بات پوری کرنا‘۔ لہذا پہلے مصرعے کے معنی یہ ہوئے کہ شمع اپنی بات شعلے کے اشارے کے ذریعے پوری کرتی ہے۔ یعنی شمع اپنا مانی الضمیر شعلے کی علامت کے ذریعے ظاہر کرتی ہے۔

شمع کے سر پر شعلہ زبان کی شکل کا ہوتا ہے۔ (شمع کی لو کو زبان سے تشبیہ دیتے ہی ہیں)۔ یعنی شمع اپنی بات کو شعلے کی زبان بے زبانی سے ظاہر کرتی ہے۔ شمع کا شعلہ علامت ہے سوزش اور فنا کی۔ اس طرح شعلے کی زبان حال سے شمع کہتی ہے کہ میں جل رہی ہوں، فنا ہو رہی ہوں۔ اس مضمون میں دو ہر لطف ہے۔ ایک تو یہ کہ شمع شعلے کی زبان استعمال کرتی ہے، شعلہ جو زبان کی شکل کا ہوتا ہے اور سوز کی علامت ہے۔ دوسری بات یہ کہ شمع کی بے زبانی ہی اس کی زبان ہے۔ زبان دونوں معنی میں ہے، یعنی ’کفتکو‘ کے معنی میں بھی اور عضو بدن کے معنی میں بھی۔ یعنی استعارے کا استعارہ ہے اور لغوی معنی بھی بر محل ہیں۔ اس طرح کا قول محال غالب اور تیر کی خاص ادا ہے۔

اب یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ’فسانہ خوانی‘ کی کوئی مخصوص معنوی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ’قصہ‘ کے ضلع کا لفظ ہے۔ پہلے مصرعے میں ’قصہ تمام‘ لکھ کر ’فسانہ خوانی‘ کا ضلع استعمال کرنا غالب کے لیے ناگزیر تھا۔ یہ فن بھی غالب نے تیر سے سیکھا تھا:

افسانہ خواں کا لڑکا کیا کیسے دیدنی ہے

قصہ ہمارا اس کا یارو شنیدنی ہے

پروانہ مرثا ہے جل کر نہ کچھ کہا تو

اے شمع یہ زباں تو ظالم بریدنی ہے

آخری سوال یہ ہے کہ شمع کی زبان بے زبانی کو اہل فنا کی طرح کا کیوں کہا؟ اس کے تین جواب ممکن ہیں:

(۱) اہل فنا اشاروں کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ مولانا روم:

خوش تر آں باشد کہ سر دلیراں

گفتہ آید در حدیث دیگران

(۲) اہل فنا خاموش رہتے ہیں، اپنے دل کا حال افشا نہیں کرتے۔ سعدی:

ایں مدعیان در طلبش بے خبر اند

کاں را کہ خبر شد خبرش باز نیاند

یا جیسا کہ عربی میں ہے: من عوف لسانہ (جس نے پیمان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی)۔

(۳) اہل فنا کی بے زبانی ہی ان کی زبان ہوتی ہے۔ غالب:

گداے طاقت تقریر ہے زباں تجھ سے

کہ خامشی کو ہے پیرایہ بیاں تجھ سے

ذرا غور کیجیے، انیس برس کا چھوکر اور لفظ و معنی کا یہ در و بست، رعایت اور مناسبت کا یہ انتظام۔ یہ وہ چٹنگی اور گہرائی ہے جو اچھے اچھوں کو تا عمر نصیب نہیں ہوتی۔

(۳۸)

شورِ جولاں تھا کنارِ بحر پر کس کا کہ آج  
گردِ ساحل ہے بہ زخمِ موجِ دریا نمک  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

شعر کا مفہوم بالکل صاف ہے۔ محبوب کی رفتار میں وہ تیزی اور روانی ہے کہ سمندر اپنی تیزی اور روانی کے باوجود اس کے سامنے خود کو مجبور اور حسود پاتا ہے۔ محبوب جب تو سن ناز پر سوار ساحلِ سمندر سے گزرا اور تو سن کی تیز رفتاری سے جو گرداڑی، اس نے گویا سمندر کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ سمندر تو معشوق کی رفتار دیکھ کر رشک سے زخمی تھا ہی، گرد نے زخموں پر نمک کا کام کیا۔ مفہوم کی اس وضاحت کے باوجود شعر میں چند در چند اہم نکات ہیں۔

(۱) اس شعر میں غالب نے اپنے ایک مرکزی موضوع، یعنی رفتار کو نہایت حسین انداز میں برتا ہے۔

غالب کی فکر میں حرکت اور برق و شہ نہایت اہم مقام رکھتے ہیں۔ اس کا طبیعی اظہار رفتار کے طلسمی استعارے کے ذریعے جا بجا ہوا ہے۔ طلسمی اس لیے کہ رفتار دراصل دو جہتی تجربہ ہے۔ رفتار کو محسوس کرنے کے لیے اپنے سے باہر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب کہ سکون (یعنی ٹھہرے ہوئے ہونے کی کیفیت) کو محسوس کرنے کے لیے اپنے سے باہر دیکھنا لازمی نہیں۔ رفتار پر از خود سکون کا گمان ہو سکتا ہے، لیکن سکون پر رفتار کا گمان اسی وقت ہو سکتا ہے جس وقت ساکن کے مقابل کوئی حرکت اضافی موجود ہو، اور اس حرکت کا ادراک کرنے کے وسائل بھی مہیا ہوں۔ مثلاً ٹھہری ہوئی ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے مسافر کو رفتار کا گمان اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کے سامنے کوئی اور ریل گاڑی حرکت میں ہو اور وہ اسے دیکھ بھی سکتا ہو۔ اس طرح رفتار سفر بھی ہے اور سکون بھی۔ غالب کی

شاعری جس طلسم کو خلق کرتی ہے اس کی کلید یہی ہے کہ اس کا عدم ہی اس کے وجود پر دال ہے۔ تماشائی خود تماشائی ہے۔ جلوہ نظر آتا ہے، لیکن جلوہ دراصل وجودِ اصلی کا التباس یا عکس ہے، لہذا بے وجود ہے۔ اس نیرنگ کے اظہار کے لیے رفتار کے استعارے کی موزونیت اب ظاہر ہوگئی ہوگی۔ اسی لیے غالب کے غیر شعوری انتخاب نے انہیں رفتار، خاص کر تیزی رفتار اور اس کے مناسبات (گریزاں، موج، گزرگاہ، موجِ رفتار، گری رفتار، گردِ راہ، پرواز، وحشت وغیرہ) کو بکثرت استعمال کرنے پر مجبور کیا۔

(۲) شعر زیر بحث میں رفتار کے لیے دریا / سمندر کا استعارہ ڈھونڈا گیا ہے۔ سادگت ترین سمندر یا دریا بھی ہر آن حرکت سے مملو ہوتا ہے۔

(۳) دریا اسی وجہ سے وقت کی علامت ہے۔ لہذا شعر زیر بحث میں دریا کو ہم دریاے وقت فرض کرتے ہوئے یہ مفہوم بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ محبوب کی تیز رفتاری کے سامنے دریاے وقت کی رفتار بھی ماند ہے۔

الفاظ کے لغوی مفہیم میں مندرجہ ذیل نکات پوشیدہ ہیں:

(۱) دریا کتنا ہی تیز رفتار کیوں نہ ہو، گرد نہیں اڑاتا۔ محبوب کی تیز رفتاری گرداڑی کی ہے۔ اس وجہ سے دریا اور بھی رشک و حسد سے بھر گیا ہے اور اڑتی ہوئی گرد اس کے زخم پر نمک کا کام کر رہی ہے۔ (خیال رہے کہ مٹی کے عناصر ترکیبی میں نمک شامل ہے)۔

(۲) محبوب کے حسنِ سلج نے گرد ساحل میں نمک کے خواص پیدا کر دیے ہیں۔

(۳) سمندر کا پانی کھاری اس لیے ہے کہ اس میں تو سن معشوق کی اڑائی ہوئی نمکین گرد شامل ہوگئی ہے۔

(۴) شفاف پانی کی حرکت بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی، لیکن اگر پانی پر کوئی چیز، حتیٰ کہ گرد کے ذرے بھی پڑ جائیں تو ان کی حرکت کے ذریعے پانی کی حرکت واضح ہو جاتی ہے۔ اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ گرد کے ذروں نے پانی کو اور زیادہ متحرک کر دیا۔ حرکت علامت ہے اضطراب کی۔ اس طرح پانی پر پڑی ہوئی گرد نے دریا کو اور زیادہ مضطرب کر دیا، گویا زخم پر نمک چھڑک دیا۔

(۵) اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ پانی پر مٹی پڑ جائے تو مٹی کے بوجھ سے پانی کی رفتار کم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پانی کی مقدار اور دھارے کی رفتار بہت زیادہ نہ ہو۔

گرد کے پانی پر بیٹھنے سے دریا/سمندر کی رفتار کم ہوگئی اور یہ باعث ہوا مزید حسد کا۔  
 (۶) پہلے مصرعے میں 'کہ آج' کے فقرے سے یہ نتیجہ بھی نکالا جاسکتا ہے کہ  
 دریا/سمندر پہلے ہی سے زخمی تھا۔ آج محبوب ساحل سے گزرا تو محبوب کے توسن کی گرد  
 نے دریا/سمندر کے زخموں پر نمک کا کام کیا۔ اگر ایسا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ دریا/سمندر  
 پہلے سے ہی زخمی کیوں اور کیسے تھا؟ اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً دریا متحرک  
 ہوتا ہے حرکت علامت ہے اضطراب کی اور اضطراب علامت ہے زخمی ہونے کی۔ یا وہ  
 اس لیے زخمی ہے کہ اپنی حرکت کا قیدی ہے:

ہوئی زنجیر موج آب کو فرصت روانی کی

اس قید بے زنجیر کا نتیجہ دل شکستگی فرض کیا جاسکتا ہے اور دل شکستگی استعارہ زخم کا ہے یا کہ  
 دریا/سمندر طویل مسافت کرتا ہے اس لیے پاشکت ہے، یعنی زخمی ہے، وغیرہ۔

(۸) رعایات قابل غور ہیں: شور (بمعنی غل، اور بمعنی نمک یا نمکین) جولان  
 (بمعنی گھوڑے کی دوڑ، حرکت، اور بمعنی پاؤں کی بیڑی) سمندر کی نمکینی (کھاری پن)،  
 زخم (جو مثل خندہ ہوتا ہے، اور خندہ نمکین ہوتا ہے) جولان بمعنی گھوڑے کی دوڑ، یہ گھوڑا  
 طبعی بھی ہو سکتا ہے اور توسن ناز بھی۔ جولان بمعنی بیڑی، جو ایک طرح کی زنجیر ہوتی ہے  
 اور موج جسے زنجیر سے تشبیہ دیتے ہیں۔

(۹) آخری دو ارکان کے علاوہ اس شعر کے تمام ارکان وہیں ختم ہوتے ہیں  
 جہاں لفظ ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی ترصیح ہے۔ غالب کے یہاں اس طرح کی ترصیح کی  
 کثرت کی طرف شاید اثر لکھنوی نے سب سے پہلے اشارہ کیا تھا۔ غالب کے آہنگ کی  
 انفرادیت میں اس خوبی کا بھی کچھ حصہ یقیناً ہے۔

(۳۹)

غیر کی منت نہ کھینچوں گا پے توفیر درد  
 زخم مثل خندہ قاتل ہے سر تا پا نمک  
 (زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

کچھ نسخوں میں 'توفیر' کی جگہ 'توقیر' لکھا ہوا ہے، لیکن صحیح 'توفیر' ہی ہے، بمعنی 'اضافہ  
 کردن'۔ اس شعر کی پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے غالب کے ایک فارسی شعر پر  
 روشنی پڑتی ہے جو بذات خود بہت مبہم ہے:

حسن چہ کام دل دہد چوں طلب از حریف نیست  
 خست نگاہ گر جگر خستہ ز لب نمک نہ خواست

دوسرے مصرعے میں 'نگاہ' کو فاعل اور 'جگر' کو مفعول اور 'خستہ' کو 'جگر' کا استعارہ فرض کریں  
 تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب عاشق ہی طلب گار نہیں تو حسن کیا کار سازی کرے اور دل کا  
 مقصود کس طرح پورا کرے؟ یہاں تو یہ عالم ہے کہ اگر نگاہ معشوق نے جگر کو خستہ کر بھی دیا  
 تو جگر خستہ نے لب معشوق سے نمک کا تقاضا نہ کیا۔ لب معشوق نمکین اس وجہ سے ہیں کہ  
 لب خنداں ہیں اور خندہ نمکین ہوتا ہے۔ گویا عاشق اپنے زخم جگر کی لذت تیز کرنے کے  
 لیے خندہ معشوق سے نمک کا خواستگار نہیں ہے۔

یہ مفہوم اردو شعر کی روشنی میں قابل قبول معلوم ہوتا ہے۔ اردو شعر کا ظاہری مفہوم یہ  
 ہے کہ میں اپنے درد میں اضافے کے لیے غیر کا احسان نہ لوں گا کہ وہ اس پر نمک چھڑکے۔  
 میرا زخم خود خندہ قاتل کی طرح سر تا سر نمکین ہے۔ اب شعر کے نکات پر غور کیجیے۔

(۱) 'غیر' بمعنی رقیب' بھی ہے اور بمعنی 'معشوق' بھی۔ 'غیر' کو دوسرے لوگوں کے  
 معنی میں لیا جائے تو مفہوم ہوگا کہ میں کسی بھی دوسرے شخص، حتیٰ کہ معشوق کا بھی احسان  
 مند ہونا گوارا نہیں کر سکتا۔ رقیب زخم پر نمک چھڑکتا ہے تاکہ عاشق کی تکلیف فزوں تر ہو۔

دوسرے لوگ عاشق کو لجن طعن کرتے ہیں، اس طرح زخم پر نمک چھڑکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عاشق کی درخواست پر ازراہ ہمدردی نمک چھڑک دیتے ہوں کہ لے بھائی تیری یہی خواہش ہے تو لے نمک بھی لے۔ معشوق خنداں ہے، کیوں کہ خنداں ہونا معشوق کو جتنا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ عاشق کا حال زار دیکھ کر طنزیہ ہنسی ہنستا ہے، لیکن عاشق کو کسی قسم کی خارجی امداد کی ضرورت نہیں۔

(۲) 'خندہ قاتل' بمعنی 'قاتل کی ہنسی' مرتب اضافی ہے۔ لیکن اسے مرتب تو صغی بھی فرض کر سکتے ہیں، یعنی "وہ خندہ جو قاتل ہے"۔ خندہ خوب صورت ہے، اس لیے قاتل ہے۔ خندہ خوب صورت ہے، اس لیے نمکین ہے۔ خندہ نمکین ہے اس لیے زخم کی تکلیف میں اضافہ کرتا ہے، اس لیے قاتل ہے۔

(۳) زخم کو خنداں بھی کہتے ہیں، کیوں کہ وہ ہونٹوں کی طرح کھلا ہوتا ہے اور سرخ ہوتا ہے۔ خندہ نمکین ہوتا ہے، اس لیے زخم بھی نمکین ہے۔ خندہ نمکین حسین ہوتا ہے، اس لیے زخم بھی حسین ہے۔ خندہ جتنا حسین ہوگا اتنا ہی نمکین ہوگا۔ زخم جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی نمکین ہوگا۔ میرا زخم مرتا پاتا نمک ہے، لہذا بہت ہی گہرا ہے۔ تکلیف زخم پہلے ہی سے اور از خود اپنی معراج پر ہے۔ اسے کسی توفیر کی ضرورت نہیں۔

(۴) زخم نمکین انتہائی حسین ہے۔ متکلم اپنے زخم میں حسن دیکھتا ہے (شیکسپیر نے ایک جگہ زخموں کو یا قوتی ہونٹ کہا ہے) لہذا متکلم خود میں حسن دیکھتا ہے۔ اس طرح یہ شعر کسی نہ کسی سچ سے زکسیت کے تجربے کا آئینہ دار ہے۔

(۴۰)

آہ کو چاہیے اک عمر اثر ہوتے تک  
کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہوتے تک  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

یہاں یہ بات کہنا غالباً ضروری نہ ہو کہ غالب نے اس غزل کی ردیف 'ہوتے تک' لکھی تھی، اگرچہ مشہور قرأت 'ہونے تک' ہی ہے۔ اصل مسئلہ اس شعر میں یہ ہے کہ 'زلف کے سر ہوتے تک' یا 'زلف کا سر ہونا' کیا معنی رکھتا ہے؟

جدید اردو میں 'سر ہونا' / 'ہوجانا' بمعنی "کسی چیز یا شخص کے پیچھے پڑ جانا، کسی بات کے لیے بے رغبت ہونا" مستعمل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی یہاں مناسب نہیں ہیں۔ کئی پرانے لغات، مثلاً ڈکن فارلس، جلال (سرماہی زبان اردو) میں یہ محاورہ درج نہیں۔ فیلن میں 'سر ہوجانا' ملتا ہے اور غالباً وہیں سے 'آصفیہ' نے بھی لے کر اسے درج کیا ہے۔ 'سر ہوجانا' کے جو معنی ان بزرگوں نے لکھے ہیں ان میں "فتح ہونا، تاش یا گنجدہ کا پتہ غالب ہونا" ہمارے مفید مطلب ہیں، لیکن نہ معلوم کیوں ہمارے شارحین نے یہ معنی نظر انداز کیے۔ 'نور اللغات' میں غالب کا یہ شعر درج سند کے طور پر پیش کر کے 'سر ہونا' کے معنی 'بل کھلنا' بتائے ہیں۔ یہ معنی اگرچہ غالباً حالی پر مبنی ہیں، لیکن کسی بھی طرح ہمارے مفید مطلب نہیں۔ زلفوں کا بل کھلنا یا زلفوں کے بل کھلنا کوئی ایسی اہم بات نہیں جس کے لیے متکلم تنہا کرے اور نا امید ہو کر کہے بھلا تیری زلفوں کے بل کھلنے تک کون زندہ رہ سکتا ہے؟ زلفوں کے کھل جانے یا زلفوں کے سلجھ جانے سے عاشق کو یا کسی کو بھلا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ زلفیں اگر نکھر کر عاشق کے بازوؤں یا شانے پر بکھرنے کی بات ہوتی تو بھی ایک بات تھی۔ موجودہ معنی کی روشنی میں مضمون بالکل بے جان معلوم ہوتا ہے۔ "اردو لغت، تاریخی اصول پر" میں 'سر ہونا' کے تحت مولانا حالی کا ایک قول نقل کیا گیا ہے جس میں مولانا کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے سمجھے ہیں، غالب کے زیر بحث شعر میں 'سر ہونا' کے معنی 'کھلنے' کے

ہے۔ حالی کے قول کی بنیاد کیا ہے، یہ ظاہر نہیں ہوا، لیکن ان معنی پر جو اعتراض عائد ہوتا ہے وہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔

بیخود موبانی نے 'سر ہونا' کے معنی 'رام ہونا' لکھے ہیں اور بیخود دہلوی اور آغا باقر نے 'باخبر ہونا' لکھے ہیں۔ یہ معنی کسی لغت یا معنی دلیل کے بغیر درج کیے گئے ہیں اور کچھ اتنے اچھے معنی بھی نہیں کہ ان کے لیے ایسا مصرع بنایا جائے، کون جیتا ہے..... لظہم طباطبائی نے عجب معنی لکھے ہیں کہ "ہم اس بات کے سر ہو گئے، یعنی سمجھ گئے۔ یعنی جب تک تیری زلف میرے حال سے باخبر ہو، میرا کام تمام ہو جائے گا"۔ تعجب ہے کہ طباطبائی جیسا شعر فہم اور زبان شناس اس بات کو نظر انداز کر گیا کہ 'سر ہونا' کے معنی 'سمجھ جانا' بالکل بے استناد ہیں اور یہ معنی صحیح بھی ہوں تو یہ بات بے معنی ہے کہ زلف میں کسی بات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور اگر یہ بھی فرض کر لیں کہ زلف میں یہ صلاحیت ہوتی ہے اور زلف کے سر ہونے سے مراد زلف کا باخبر ہو جانا ہے، تو یہ قرینہ تو شعر میں کہیں سے بھی نہیں کہ مضمون یہ ہے کہ زلف کو متکلم کے حال کی خبر ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی۔

مولانا حامد حسن قادری نے لکھا ہے کہ 'سر ہونا کوئی محاورہ نہیں'۔ ظاہر ہے کہ یہ درست نہیں۔ محاورہ تو ہے، لیکن اس کے جو معنی شروح میں بتائے گئے ہیں وہ ہمارے مفید مقصد نہیں۔

جنگ و جدال کے عالم سے 'سر ہونا / کرنا' مشہور محاورہ ہے بمعنی 'فتح ہونا / کرنا، تسخیر ہونا / کرنا، کامیابی کے ساتھ پورا ہونا / کرنا'، مثلاً "قلعہ سر ہو گیا، ہم سر ہو گئی، جنگ سر ہو گئی" وغیرہ۔ تاش اور گنجدہ کے عالم سے بھی 'سر ہونا / ہو جانا' بمعنی 'بازی جیتنا، ہاتھ جیتنا' وغیرہ متداول ہیں۔ 'سر ہونا' بمعنی 'فتح مند ہونا' (To obtain victory) شیکسپیر نے اپنے لغت (۱۸۳۴ء) میں لکھا ہے، لہذا اسے نئے معنی بھی نہیں کہہ سکتے۔ گنجدہ اور تاش کی اصطلاح تو بہر حال بہت پرانی ہے ہی، لہذا 'زلف کا سر ہونا' کے معنی 'زلف پر فتح نصیب ہونا، زلف ہمارے ہاتھ میں آنا' بالکل درست اور مناسب ہیں۔ ان معنی میں ایک لطف یہ بھی ہے کہ بات ہو رہی ہے زلف کے ہاتھ میں آنے کی اور اس کے لیے محاورہ 'سر ہونا' استعمال کیا گیا ہے۔ لاجواب شعر ہے۔

(۴۱)

غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو پیش از یک نفس  
برق سے کرتے ہیں روشن شیخ ماتم خانہ ہم  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

یہ شعر ایک غیر معمولی صورت حال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم آزاد ہیں، یعنی علائق دنیا سے پاک ہیں۔ اس لیے غم بھی ہمیں دیر تک گرفتار نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے ماتم خانے پر برق گرتی ہے، ہمیں ایک لمحے کے لیے رنج ہوتا ہے، لیکن ہم پھر فوراً ہی اپنی معمولہ حالت استغنا پر آجاتے ہیں۔ اور اس حد تک اپنے اعصاب پر قابو پالیتے ہیں کہ برق کی لائی ہوئی آگ سے شیخ خاموش کو روشن کر لیتے ہیں۔ یا برق کی چمک کو ماتم خانے کے لیے شیخ فرض کر لیتے ہیں یا برق کی لگائی ہوئی آگ ہمارے لیے اندھیرا دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

اس شعر کو تعلق کہیں یا مبالغہ، لیکن انانیت اور خود اعتمادی کے جس تیور کا اظہار اس شعر میں ہوا ہے اور اس کے اظہار کے لیے برق سے شیخ خانہ کو روشن کرنے کا جو چمکتا ہوا بلکہ کوئٹا ہوا پیکر استعمال ہوا ہے، اس کی مثال آسانی سے نہ ملے گی۔ مندرجہ ذیل نکات غور طلب ہیں:

(۱) بجلی ایک لمحے کے لیے چمکتی ہے۔ اس کی سرعت رفتار کا یہ تصور پہلے مصرعے میں 'پیش از یک نفس' کے فقرے سے مستحکم ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارا غم تیزی سے گزرتا ہے، اسی طرح اس غم کا سبب (بجلی کا گرنا) اور اس کو زائل کرنے کا سبب (بجلی کی روشنی) بھی سریع رفتار میں اپنی مثال آپ ہیں۔

(۲) پورا شعر روشنی، اس کی تیزی اور روشنی کی سرعت کا پیکر خلق کرتا ہے۔ غم اور درد میں قریبی رشتہ ہے اور درد کے لیے بھی 'چمک' کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔



(۳) بجلی، جو غم کا سبب ہے، وہی اس کے ازالے کا باعث بھی ہے۔ عدم اور وجود، مثبت اور منفی کی وحدت غالب کے تمام کلام میں بکھری ہوئی ہے۔ یہ شعر اس کی خوب صورت مثال ہے۔

(۴) ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ اگر ہم آزاد ہیں اور ہمیں بیش از نفس غم ہوتا ہی نہیں تو دوسرے مصرعے میں ماتم خانہ سے کیا مراد ہے؟ ماتم خانہ تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم حزن و ماتم کے گھر میں رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو غم کے بیش از نفس نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے دو جواب ہیں۔ اول تو یہ کہ ہم برق سے ماتم خانے کی شمع روشن کرتے ہیں، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں غم بیش از یک نفس نہیں ہوتا۔ جوں ہی ہمارے گھر کی شمع بجھتی ہے اور ہمارا گھر ماتم خانہ بنتا ہے، ہم برق کو دعوت آتش زنی دیتے ہیں۔ برق آتی ہے اور ہمارے گھر کو جلا کر روشن کرتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ماتم خانہ لغوی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہے۔ ماتم خانے میں روشنی نہیں کی جاتی لہذا کسی بھی تاریک مکان کو ماتم خانہ کہہ سکتے ہیں۔

(۵) ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ گھر ماتم خانہ ہے، لہذا اس کے لیے غم کی بات یہ ہے کہ اس میں شمع روشن ہو، کیوں کہ روشنی مرہبہ ماتم کے منافی ہے۔ لیکن ہمیں غم بیش از یک نفس نہیں ہوتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم برق کو شمع روشن کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ادھر آئی، ادھر گئی۔ لمحہ بھر کی روشنی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا۔

(۴۲)

باوجود یک جہاں ہنگامہ پیدائی نہیں  
ہیں چراغاں شبستان دل پروانہ ہم  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر میں توجیہ سب سے پہلے 'یک جہاں ہنگامہ' پر پڑتی ہے۔ اگر اس فقرے کو ایک ترکیب مانا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ کثرت ہنگامہ کے باوجود کچھ ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ 'یک جہاں ہنگامہ' یعنی بہت زیادہ ہنگامہ 'یک' لگا کر کثرت مراد لینے کا محاورہ فارسی ہے اور اسے برتنا آسان نہیں، کیوں کہ مناسب اسم کے بغیر 'یک' موثر نہیں ہوتا۔ غالب کے علاوہ شاید تیسری اس کو برتنے کی جرأت کر سکے ہیں:

یک بیاباں برنگ صوت جرس  
مجھ پہ ہے کسی و تہائی

شعر زیر بحث کی قرأت عام طور پر یہی کی گئی ہے کہ 'یک جہاں ہنگامہ' ایک ترکیب ہے۔ لیکن 'یک جہاں' اور 'ہنگامہ' کو الگ الگ بھی فرض کر سکتے ہیں۔ یعنی 'یک جہاں' کے بعد وقفہ لگا کر مصرع یوں پڑھا جائے:

باوجود یک جہاں، ہنگامہ پیدائی نہیں

اب 'ہنگامہ پیدائی' اضافت مقلوبی بن جاتا ہے، بمعنی 'پیدائی ہنگامہ'۔ اس قرأت سے شعر کے مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک نئی استعاراتی جہت پیدا ہو جاتی ہے۔ 'یک جہاں ہنگامہ' یعنی بہت زیادہ ہنگامہ کی جگہ 'یک جہاں' یعنی 'ایک عالم' کہا۔ ہنگامہ، یعنی شور و غوغا عالم کی صفت ہے۔ اس لیے اگلے کلمے میں اس کا ذکر کیا۔ مثلاً ہم کہیں کہ "کثرت بارش کے باوجود نمی نہیں ہے"۔ یعنی کثرت باراں کو نمی پر دلالت کے لیے لائیں، لیکن اس کو واضح نہ کریں۔ اس طرح کا بالواسطہ کنایہ بمعنی کا لطیف فصل پیدا کرتا

ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اب ہم یعنی متکلم کی شخصیت عالم کی طرح لامحدود ہو گئی۔ ہم ایک جہاں ہیں، لیکن ہنگامہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کہنا بہتر ہے، اس کے بہ نسبت کہ ہم میں کثرت ہنگامہ ہے، لیکن ہنگامہ ظاہر نہیں ہوتا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل پروانہ میں چراغاں سے کیا مراد ہے؟ پورے شعر کا مضمون تو صاف ہے، کہ جس طرح پروانے کے دل میں چراغاں ہوتا رہتا ہے لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتا (بلکہ شمع کے مقابلے میں پروانہ تاریک اور سیاہ نظر آتا ہے) اسی طرح ہم بھی اگرچہ ایک عالم ہیں، یا اپنے اندر ایک جہاں ہنگامہ رکھتے ہیں، لیکن یہ سب ہمارے اندر ہی اندر ہے۔ اوپر اوپر کچھ نہیں، بس سکوت ہی سکوت ہے۔ تو پھر دل پروانہ اور چراغاں میں کیا مناسبت ہے؟ زیادہ تر شارحین نے اس سوال سے بچٹ نہیں کی ہے، حالانکہ اس کا جواب تیر کے یہاں موجود ہے:

آپڑا آگ میں اے شمع یہیں سے تو سمجھ

کس قدر داغ ہوا تھا جگر پروانہ

پروانے کا دل شمع کی عطا کردہ سوزش اور اس کے عشق کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے داغ داغ ہے۔ داغ کو چراغ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس طرح پروانے کا دل چراغاں ہے۔ لیکن ہزاروں داغ رکھتے ہوئے بھی پروانہ اف نہیں کرتا۔ یعنی ہزاروں چراغ روشن ہیں، لیکن روشنی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہم بھی ہیں کہ دل شور تمنا کے ہنگامے سے بھرا ہوا ہے، لیکن ظاہر کچھ نہیں۔

دونوں مصرعوں کے استعارے اور مصرع ثانی کا پیکر حیرت انگیز ہیں۔ تراکیب کے آہنگ نے شعر کو اور بھی خوب صورت کر دیا ہے۔ غالب کا یہ شعر بھی دیکھیے:

نہ بدر جنتہ شرار و نہ بجا ماندہ رماد

سو ختم لیک نہ دائم یہ چہ عنوانم سوخت

باطن کو ظاہر پر فوقیت ہے، عدم کا رتبہ وجود سے بڑھ کر ہے۔ یہ دونوں اشعار اسی مسئلے کی توضیح کرتے ہیں۔ فارسی شعر میں کیفیت بہت ہے، اردو شعر میں استعارے کی چمک دمک اور معنی کی کثرت ہے۔

اہل لکھنؤ نے اصول قائم کیا تھا کہ توالی اضافات (یعنی ایک مصرعے میں ایک سے

زیادہ اضافت) نامناسب ہے۔ لیکن یہ اصول نہ تو کوئی بہت با معنی ہے اور نہ ہی ہمارے بڑے شعرا نے اس کی پابندی میں کوئی خاص سعی کی ہے۔ یہاں غالب نے بے تکلف چراغاں شبستان دل پروانہ لکھا ہے اور اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تیر کے یہاں ہے:

کم ہے شناساے زر داغ دل

اس کے پرکھنے کو ہنر چاہیے

قابل آغوش ستم دیدگان

اشک سا پاکیزہ گہر چاہیے

میر انیس کہتے ہیں:

میں ہوں سردار شباب چمن خلد بریں

میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکین

تھی شکل لا جو تیج شہ آدم و ملک

کرتی تھی نفی نفی صدا صد تہ فلک

دولت کے عوض فقر کی جاگیر عطا کر

توفیق ثنا خوانی شبیر عطا کر

بات یہ ہے کہ فن شعر میں قاعدے وہی درست ہوتے ہیں جو خود بڑے شعرا کے فعل و عمل سے مرتب ہوں، ملایان مکتب کے خیالات سے نہیں۔

(۴۳)

لوں وام بخت خفتہ سے یک خواب خوش ولے  
غالب یہ خوف ہے کہ کہاں سے ادا کروں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر کے چند لفظی نکات کی طرف توجہ منعطف کر کے معنوی خوبیوں کا بیان کروں گا۔ دوسرے مصرعے میں 'غالب' بطور تخلص ہے لیکن اپنے لغوی معنی بھی دے رہا ہے۔ یعنی مصرعے کی نثر یوں بھی ہو سکتی ہے: "یہ خوف غالب ہے کہ کہاں سے ادا کروں"۔ مصرع اولیٰ یوں بھی ممکن تھا:

لوں قرض بخت خفتہ سے اک خواب خوش مگر

لیکن غالب نے 'قرض' کی جگہ 'وام'، 'اک' کی جگہ 'یک' اور 'مگر' کی جگہ 'ولے' رکھ کر اپنی فارسیت کا ثبوت دیا ہے۔ 'قرض' کے مقابلے میں 'وام' اس لیے بھی زیادہ مناسب ہے کہ یہ 'قرض وام کرنا' کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ محاورہ مجبوری ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی چارہ نہ ہو اور کہیں سے مجبوراً قرض لیا جائے، چاہے شرطیں مناسب نہ ہوں، تو کہتے ہیں کہ (مثلاً) 'قرض وام کر کے بیٹی کی شادی کرنا پڑی'۔ لفظ 'قرض' چون کہ عام ہے اس لیے اس کے استعمال سے محاورے کی طرف دھیان جانا ضروری نہ تھا۔

اب معنی پر غور کیجیے۔ تقدیر سوئی ہوئی ہے، لیکن مجھے نیند نہیں آتی۔ میں سوئی ہوئی تقدیر سے ایک خواب خوش (= [۱] میٹھی نیند [۲] اچھا خواب) قرض تو لے لوں، لیکن پھر قرض ادا کہاں سے کروں گا؟ قرض ادا کرنے میں کئی مشکلیں ہیں (۱) مفلس کی تقدیر سوئی ہوئی رہتی ہے۔ میری تقدیر سو رہی ہے، اور میں اس قدر مفلس ہوں کہ ایک نیند کا قرض بھی ادا نہیں کر سکتا۔ (۲) نیند کا قرض نیند ہی سے ادا ہو سکتا ہے۔ لہذا ادائیگی کی صورت یہ

ہوگی کہ اس نیند کے بعد پھر مجھے کبھی نیند ملے اور میں اس نیند کو نہ اختیار کروں، بلکہ اپنی تقدیر کو دے دوں۔ لیکن پھر مجھے نیند تو کبھی آنی نہیں ہے، میں نیند کے بدلے نیند کہاں سے ادا کروں گا؟ (۳) تقدیر کو نیند واپس کرنے کا مطلب ہے تقدیر کو سلا دینا۔ لیکن تقدیر تو سوئی ہوئی ہے، اب سوائے ہوئے کو کون سلا سکے؟

مزید نکات ملاحظہ ہوں۔ میری تقدیر ہے دن رات جاگنا، اور تقدیر کی تقدیر ہے دن رات سونا۔ میرا جاگنا اور میری تقدیر کا سویا رہنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جب میں بخت خفتہ سے ایک نیند قرض لوں گا تو اس نیند کی مدت تک تقدیر جاگ اٹھے گی۔ لیکن جب تقدیر جاگے گی تو میں سو جاؤں گا۔ میں سو جاؤں گا تو جاگی ہوئی تقدیر سے متمتع نہ ہو سکوں گا۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ بخت خفتہ کا جاگ اٹھنا اس لیے بھی بے معنی ہے کہ مجھے بعد میں وہ قرض واپس کرنا پڑے گا، یعنی جاگی ہوئی تقدیر کو خود ہی سلا نا پڑے گا۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ چون کہ میں واپس نہ کر سکنے کے خوف کی بنا پر نیند قرض نہیں مانگ رہا ہوں، اس لیے اصل مدعا یہ ہے کہ میری تقدیر کی قسمت میں سونا ہی سونا لکھا ہے، اس کو چگانے، حتیٰ کہ عارضی طور پر چگانے کی بھی کوئی تدبیر نہیں۔ پانچواں نکتہ یہ ہے کہ جس طرح میرا جاگنا تقدیر کے سوجانے کے مرادف ہے، اسی طرح میرا سونا تقدیر کے جاگنے کے مرادف ہے۔ یعنی میرے لیے اس سے بڑھ کر خوش بختی کیا ہو سکتی ہے کہ میں ایک نیند سولوں۔

آخری نکتہ یہ ہے کہ زندگی کا استعارہ 'جاگنا' ہے اور موت کا استعارہ 'نیند'۔ زندگی مستعار کہلاتی ہے۔ اس حیات مستعار میں بھی میری نیند مستعار ہے، بشرطیکہ مجھے قرض مانگنے کی ہمت ہو۔ اس وقت تو صورت یہ ہے کہ مانگی ہوئی (مستعار) زندگی ہے، لیکن نیند مانگنا مقدر میں نہیں ہے کیوں کہ جاگنا زندگی ہے اور نیند موت۔ میں یا تو زندگی قرض لوں یا موت، دونوں بیک وقت نہیں لے سکتا۔

بخت خفتہ کے مضمون کو فارسی میں بھی غالب نے بڑے لطف طریقے سے باندھا ہے:

بخت در خواب است می خواہم کہ بیدار ش کنم  
پارہ غوغای محشر کو کہ در آکارش کنم

فارسی شعر میں شکستگی اور ہلکی سی شوخی ہے، لیکن وہ معنوی تہ داری نہیں جو اردو شعر میں ہے۔ لیکن فارسی کے شعر میں غالب کا مخصوص قول محال بہت پر لطف ہے۔ بخت خفتہ کو جگانا مقصود ہے۔ اس کے لیے شور قیامت کی ضرورت ہے کیوں کہ بخت خفتہ کی نیند بہت گہری ہے۔ لیکن بخت خفتہ تو تب جاگے گی جب قیامت جاگے گی اور جب قیامت آجائے تو بخت خفتہ آئے نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے۔

(۴۴)

اک شرر دل میں ہے اس سے کوئی گھبرائے گا کیا  
آگ مطلوب ہے ہم کو جو ہوا کہتے ہیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۴۷ء)

اس شعر پر غور کرنے سے پہلے یہ دو شعر سنیے:  
آتش دل شد بلند از کف خاکسرم  
باز میجائے شوق جنبش دامان کیست

(بیدل)

افسردگی سوختہ جاناں ہے قہر میر  
دامن کو تک ہلا کہ دلوں کی بجھی ہے آگ

(میر)

بیدل اور میر دونوں کے یہاں دامن کی ہوا دل کی بجھی ہوئی آگ کو پھر روشن کرتی ہے۔ بیدل کا شعر زیادہ پُر اسرار ہے، کیوں کہ میجائے شوق کا تشخص پردہ راز میں ہے۔ اشعار کی خوب صورتی سے قطع نظر ایک بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بیدل کا شعر دلیل سے بے نیاز ہے، کیوں کہ میجائے شوق کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دامن کی جنبش سے مردہ آگ جی اٹھے گی۔ میر کا شعر دلیل کا محتاج ہے، لیکن ان کی خود اعتمادی ہی دلیل کا کام کرتی ہے۔ دونوں کے یہاں افسردگی کو ڈرامائی اظہار مل گیا ہے، اور دونوں ہی اس باب میں کسی شک میں مبتلا نہیں ہیں کہ آتش شوق دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ بیدل کے شعر میں مسرت آمیز استعجاب ہے اور میر کے یہاں خود اعتمادی سے بھرپور شکست خوردگی۔ میر کا کمال یہ ہے کہ وہ تجربے کے تمام پہلوؤں پر بہ یک وقت نظر رکھتے ہیں اور بہ یک وقت ان کا اظہار کرنے پر قادر ہیں۔ بیدل کے یہاں ارتکاز زیادہ ہے۔

عالم کا شعر ان دونوں سے مختلف ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ دونوں اشعار عالم کے ذہن میں شعوری یا غیر شعوری پر منعکس نہیں تھے۔ لیکن عالم کے دونوں مصرعے بظاہر بالکل نامربوط معلوم ہوتے ہیں۔ میرے دل میں بس ایک شرر ہے، وہ بھی بھلا کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ جب میں ہوا کہتا ہوں تو دراصل مجھے آگ مطلوب ہوتی ہے یعنی چہ؟ اگر دل کے شرر سے کوئی گھبراہٹ نہیں بھی ہے تو ہوا مانگنے سے کیا مراد ہے؟ اور اگر ہوا مانگ بھی رہے ہیں تو اس سے آگ کیوں کر مطلوب ہو سکتی ہے؟ یہ معاملہ بظاہر غیر منطقی معلوم ہوتا ہے۔

اس غیر منطقی اظہار کو حل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں پر غور کیجیے۔ اک شرر دل میں ہے، جس کا عالم، ہوا کی مانگ۔ سچ کی منزل ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے غیر منطقی کا احساس ہوتا ہے۔ دل میں ایک شرر نے جنم لیا۔ اب امید تھی کہ یہ شرر بڑھتے بڑھتے دل کو اور پھر سارے تن بدن کو اپنے دائرے میں لے لے گا۔ لیکن ایک جس کا عالم ہے، شرر کو بھلنے پھولنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ میں ہوا ہوا پکارتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں، میں اپنے شرر سے گھبرا کر ہوا مانگ رہا ہوں کہ وہ اس کو بچھا دے۔ حالانکہ شرر بھی بھلا کوئی گھبرانے کی چیز ہے؟ میں تو ہوا اس لیے طلب کر رہا ہوں کہ وہ شرر کو مزید قوت بخشنے۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ سانس کی آمد و شد جسم کے اندر ہوا کے نفوذ کا ذریعہ بنتی ہے یہی ہوا دل کے اندر شرر کو مزید زور بخشنے کی۔ گویا وہی سانس جو مدار حیات ہے، دراصل قاطع حیات بھی ہے، کیوں کہ شرر دل بھڑکے گا تو پوری ہستی کو ختم کر دے گا۔ اس طرح سانس کی بقا جو زندگی کے طول کا سبب ہے، وہ دراصل اس منزل عرفان و بقا تک لے جاتی ہے جہاں سارا وجود منہل بہ آتش ہو جاتا ہے:

در کرہ آتش فدا دم جنگلی آتش شدم

یا بقول میر:

آگ سی اک دل میں سگے ہے کھو بھڑکی تو میر  
دے گی میری ہڈیوں کا ڈھیر جوں ایندھن جلا

عالم کا شعر ڈرامائی پُراسرار کیفیت کے اعتبار سے بیدل اور میر کے ان اشعار سے کم ہے جو میں نے آغاز کلام میں نقل کیے۔ لیکن میر و بیدل کے یہاں وہ معنوی سچ نہیں ہے جو عالم کے شعر میں ہے۔

ظفر اقبال نے عالم کے مضمون کو بڑی خوبی سے اپنایا ہے:

آگ بھڑکے تو سہی تاب تماشا ہے بہت  
کھول کر سینہ ہوا دیتا ہوں چنگاری کو

(۴۵)

تھی وطن میں شان کیا غالب کہ ہر غربت میں قدر  
بے تکلف ہوں وہ مشت خس کہ گلخن میں نہیں  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۶ء قبل ۱۸۲۸ء)

چوں کہ خس اور گلخن کا مضمون غالب نے ایک اور شعر میں باندھا ہے:

نہ جانوں نیک ہوں یا بد ہوں پر صحبت مخالف ہے  
جو گل ہوں تو ہوں گلخن میں جو خس ہوں تو ہوں گلخن میں

اس لیے لامحالہ گمان ہوتا ہے کہ دونوں شعروں میں کوئی معنوی ربط بھی ہے۔ شعر زیر بحث کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میں ایک مشت خس (کوڑا کرکٹ) ہوں، جو اپنے وطن کے باہر ہے۔ کوڑے کی اپنے وطن ہی میں کیا عزت ہوتی ہے، جو بھلا غربت میں (یعنی وطن سے باہر) قدر ہوگی۔ میں اگر گلخن (بھٹی) میں ہوتا تو جلایا جاتا، مجھ سے ایک شعلہ بلند ہوتا، اس طرح میرے کمالات روشن ہوتے۔ اس وقت تو عالم یہ ہے کہ نہ گھر کا ہوں نہ گھاٹ کا۔ اس شرح پر بنیادی اعتراض یہ ہے کہ وہ مشت خس جو گلخن (بھٹی) میں نہیں ہے، اسے اپنے وطن کے باہر نہیں کہہ سکتے۔ یہ درست ہے کہ کوڑے کرکٹ کو بھٹی میں جھونکتے ہیں یا اس سے آگ روشن کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ لیکن بھٹی کو مشت خس کا وطن نہیں کہہ سکتے، اس کا مقتل ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اگر بھٹی کو مشت خس کا وطن فرض کر ہی لیا جائے اور کہا جائے کہ بھٹی میں مشت خس کو جلا کر گویا اس کی ناقدری کرتے ہیں، لیکن بہر حال وہ کام تو آجاتا ہے۔ غربت میں (یعنی بھٹی کے باہر) تو لوگ اسے ٹھوکروں سے مارتے ہیں، جھاڑو سے پیٹتے ہیں اور کہیں کا نہیں رکھتے۔ جب وطن ہی میں اس کی کوئی شان نہ تھی (وہ سوختی تھا) تو وطن کے باہر اس کی کم قدری کی کیا حد ہو سکتی ہے؟

اس شرح میں قباحت یہ ہے کہ سارے شعر کا لہجہ اس مفہوم سے متفاو نظر آتا ہے۔ ”تھی وطن میں شان کیا غالب“ سے معلوم ہوتا ہے کہ متکلم اب وطن میں نہیں ہے، کسی اور

جگہ ہے اور وہاں اپنی ناقدری دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ میری مثال تو اس مشت خس کی ہے جو گلخن میں نہ ہو۔ گویا گلخن کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مشت خس کا وجود فطری اور معمولہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں: ”اس کی مثال اس پھول کی ہے جو گلخن میں نہ ہو۔“ میرزا رضی دانش نے اس مضمون پر غضب کا شعر کہا ہے:

گل بدست گل فروشاں رنگ پیاراں گرفت  
آب غربت ناز پرورد گلستاں را نہ ساخت

ظاہر ہے کہ مشت خس اور گلخن میں وہ رشتہ نہیں جو گل اور گلشن میں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارا وطن ہوتا ہے۔ مشت خس کی پیدائش گلخن میں نہیں ہوتی اس کی موت البتہ گلخن میں ہوتی ہے۔

فرض کیجئے یوں کہا جائے: وطن میں میری کوئی عزت نہیں تھی تو بے وطنی میں کون پوچھے گا؟ کاش میں ایسا مشت خس ہوتا جو بھٹی میں جھونکا جاتا اور روشن ہوتا۔ اس وقت تو میں اس مشت خس کی طرح ہوں، جسے لوگ ٹھوکروں سے ڈھکیلتے پھرتے ہیں۔ گویا پہلے مصرعے میں خود کو ”مشت خس“ نہیں فرض کیا ہے، بلکہ اپنی انفرادی حیثیت میں کہا ہے کہ میری کوئی قدر نہیں ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں تمنا کی ہے کہ کاش میں مشت خس ہوتا۔ مفہوم تو اس طرح اچھا لگتا ہے، لیکن ”مشت خس“ اور گلخن کا پیکر ناگزیر نہیں معلوم ہوتا بلکہ مصنوعی اور آوردہ محسوس ہوتا ہے مشت خس اور گلخن کی جگہ کچھ اور بھی، مثلاً برگ و شجر، ذرہ اور دشت، بھی کہہ سکتے تھے۔

اگر لفظ ”گلخن“ کو ”بھٹی“ کے معنی میں نہ لے کر ”کوڑا خانہ“ کے معنی میں لیا جائے تو معاملہ فوراً صاف ہو جاتا ہے اور دوسرا مصرعہ بھی بالکل ناگزیر ہو جاتا ہے۔ کوڑا کرکٹ کی اصل اور صحیح جگہ کوڑا خانہ ہے، وہی اس کا وطن ہے۔ کوڑے خانے میں مشت خس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن کم سے کم وہ وطن میں تو رہتا ہے۔ کوڑے خانے کے باہر نکلتے ہی مشت خس سب لوگوں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ کوئی اسے بھٹی کی طرف لیے جاتا ہے۔ کوئی اسے مزبلے پر پھینک دیتا ہے اور کچھ نہیں تو لوگ اسے ٹھوک ہی لگاتے پھرتے ہیں۔ گویا میں ایک مشت خس تو تھا ہی، بے قدر اور کم قیمت کوڑے خانے میں ذلیل تھا لیکن گھر میں تو تھا۔ اب غربت میں ہوں یعنی کوڑے خانے کے باہر ہوں تو اتنی عزت بھی نہ رہ گئی۔

(۴۶)

ہم کو ستم عزیز، ستم گر کو ہم عزیز  
نامہریاں نہیں ہے اگر مہریاں نہیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۴۷ء)

پہلا توجہ طلب نکتہ تو یہ ہے کہ اس شعر میں ترصیح کا ایک غیر معمولی ڈھنگ پایا جاتا ہے۔ عام طور پر ترصیح میں مقابلے کے الفاظ جمع کیے جاتے ہیں، اور اس طرح کہ ایک لفظ کے مقابلے میں دوسرا لفظ جو آئے وہ پہلے والے لفظ کا ہم وزن ہو۔ ایک عمدہ تر شکل یہ ہوتی ہے کہ ایسے اسماء و افعال جمع کیے جائیں جو ہم وزن بھی ہوں اور مقابلے پر بھی آسکیں۔ ظفر اقبال:

سر تسلیم ہوں جس طور جھکایا مجھ کو  
دست تائید ہو جس رنگ اٹھایا ہے مجھے

شعر زیر بحث میں یہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن چار نکتے ہیں۔ ہر نکتہ معنی کے لحاظ سے مکمل ہے۔ پہلے مصرعے کا پہلا نکتہ دوسرے مصرعے کے پہلے نکتے کا ہم وزن ہے اور پہلے مصرعے کا دوسرا نکتہ مصرعے ثانی کے دوسرے نکتے کا ہم وزن ہے۔ یعنی الف / ب، الف / ب، کی شکل بن گئی ہے:

ہم کو ستم عزیز / نامہریاں نہیں ہے

ستم گر کو ہم عزیز / اگر مہریاں نہیں

ظاہر ہے کہ ایسی ترصیح آسانی سے نہیں قائم ہو سکتی اور نہ آسانی سے نظر آ سکتی ہے۔

معنوی لحاظ سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر شارحین کو مصرعے ثانی کی تشریح میں الجھن ہوئی ہے۔ بعض نے لفظ ”بھی“ کا اضافہ کر کے اس الجھن کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ اگر معشوق مہریاں نہیں ہے تو نامہریاں بھی نہیں۔ (بیخود دہلوی،

باقر وغیرہ) جن شارحین نے ”بھی“ کا اضافہ نہیں کیا ہے (حسرت، طباطبائی وغیرہ) وہ ”اگر مہریاں نہیں“ کو نظر انداز کر گئے ہیں اور تشریح کو یہیں ختم کر دیتے ہیں کہ معشوق اس لیے ہم کو عزیز رکھتا ہے کہ ہم ستم کو عزیز رکھتے ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ وہ نامہریاں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسری شرح ناقص ہے، کیوں کہ وہ ایک پورے فقرے کو نظر انداز کر دیتی ہے اور پہلی شرح اپنی درستی کے لیے ایک ایسے لفظ کے اضافے پر مجبور ہے جس کے بغیر مصرعے کی نثر مکمل ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیں سوچنا ہے کہ مصرعے ثانی میں ”بھی“ کا اضافہ کیے بغیر اور تمام الفاظ کو زیر بحث لاکر، اس شعر کا مفہوم کیا برآمد ہو سکتا ہے۔

سہا مجددی نے دوسرے مصرعے کو تو ٹھیک بیان کیا ہے کہ معشوق ستم کرتا ہے، جو ہمیں عزیز ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے نامہریاں نہیں ہے، لیکن وہ مصرعے اولیٰ میں اس بات کی وضاحت نہیں کر سکے ہیں کہ ستم گر کو ہم کس طرح عزیز ہیں؟ بیخود موبہانی نے کہا ہے کہ ہم کو ستم گر اس لیے عزیز رکھتا ہے کہ ہم اس کے ستم اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک تو بات بنتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اس کو مہریاں نہیں کہہ سکتے تو نامہریاں بھی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ان کی تشریح لفظ ”بھی“ کے اضافے کی محتاج ہے۔

یہاں وہ پہلا نکتہ جو بظاہر محض صوری اور موسیقیاتی حسن کی طرف اشارہ کرتا تھا (یعنی ترصیح) ہماری رہ نمائی کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ مصرعے میں کے ہر دو حصوں میں ایک مختلف ربط تلاش کیا جائے۔ مرثیہ تشریحات ان نکتوں میں بیانیہ ربط پر اصرار کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس ربط کو تقبیہی سمجھا جائے تو بات بن سکتی ہے۔ یعنی یوں کہا جائے: ہم کو ستم عزیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ستم گر کو ہم عزیز ہیں۔ ستم گر اگر مہریاں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نامہریاں نہیں ہے۔ اب اس کی توضیح ملاحظہ ہو۔ ستم گر کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ستم گری ہے۔ یہ ستم ہم کو پیارا ہے۔ یعنی ستم میں اور ہم میں ایک ربط خاص ہے۔ لیکن ستم تو ستم گری کی شخصیت کا بھی ایک اہم حصہ ہے، لہذا ستم اور ستم گر میں ایک ربط خاص ہے۔ یعنی ستم گر میں اور ہم میں یہ قدر مشترک ہے کہ ہم دونوں ستم کو عزیز رکھتے ہیں۔ الف کو ب سے لگاؤ ہے، ج کو بھی ب سے لگاؤ ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ الف کو ج سے لگاؤ ہوگا، کیوں کہ دونوں کا مذاق اور افتاد طبع ایک ہیں۔ اس طرح ستم کو ہم عزیز رکھتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ ستم گر ہم کو عزیز رکھتا ہے۔ ستم گر کا کام ہے ستم کرنا،

یعنی نامہریان ہوتا۔ لیکن ہم نامہریانی (= ستم) کو عزیز رکھتے ہیں۔ لہذا اگر وہ ہم پر نامہریان ہے (ستم کرتا ہے) تو سمجھ لیجیے کہ وہ ہم پر مہریانی کر رہا ہے۔ اس کی نامہریانی ہی مہریانی ہے، کیوں کہ وہ ہمیں وہ چیز دے رہا ہے (ستم) جسے ہم پسند کرتے ہیں۔ یہ بات پہلے مصرعے نے صاف کر دی ہے کہ ستم گر ہم کو عزیز رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی مہریانی کا اظہار نامہریانی ہی کی صورت میں کرتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ مہریان نہیں ہے تو مہریان ہے۔

(۴۷)

خنجر سے چیر سینہ اگر دل نہ ہو دو نیم  
دل میں چھری چھو مڑہ گر خوں چکاں نہیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۴۷ء)

ترصیح کے حسن کا ذکر میں پچھلے شعر پر بحث کے دوران کر چکا ہوں۔ اب شعر زیر بحث کے صوتی نظام پر غور کیجیے۔ خنجر، چیر، چھری، چھو، خوں، چکاں۔ ان الفاظ کے ذریعے ایسی صوتی فضا پیدا ہوتی ہے جو خود اپنے یا کسی اور کے جسم میں بالارادہ ٹھنڈے دل سے چھری چھوتے وقت دانت کچکپکانے سے مشابہ ہے۔ جس کام کی دعوت دی جا رہی ہے وہ نہ صرف تکلیف دہ ہے بلکہ ایسا ہے جس سے ہر انسان ایک فطری جھجک، ایک اضطرابی خوف محسوس کرتا ہے۔ تکلیف، جھجک اور خوف کے تاثرات کا اظہار ان درشت اور کھٹی ہوئی آوازوں کے ذریعے جس خوبی سے ہوا ہے اس کی مثال شیکسپیر کے علاوہ شاید کہیں نہ مل سکے۔ مثلاً اوتھیلو خود کشی کے ذرا پہلے ایک شخص کا ذکر کرتا ہے جسے اس نے اپنے خنجر سے ہلاک کیا تھا۔ اس وقت وہ اپنا خنجر ہاتھ میں لے کر اشارہ کرتا ہے کہ میں نے اس شخص کو اس طرح مارا۔ خود کو چھرا مار لینے کے پہلے وہ کہتا ہے:

And smote him, thus

(۱ ایکٹ پنجم، سین دوم، مصرع ۳۵۶)

لفظ thus کی آواز تکلیف اور خوف کی سسکی، جسم میں خنجر کے دھسنے اور خون کی پچکاری اُٹلنے کا منظر کس شان سے دوبارہ غلق کرتی ہے، اس کی وضاحت غالباً غیر ضروری ہے۔ اب معنوی پہلو پر غور کیجیے۔ اگر دل دو نیم نہ ہوا ہو تو سینے کو چیرنا ہے اور اگر مڑہ خوں چکاں نہیں تو دل میں چھری چھوٹنا ہے۔ یعنی دل پر دونوں طرح ستم ہیں۔ افعال اور کلمات لٹی میں انوکھا ابہام ہے۔ مخاطب کون ہے اور قائل کون، یہ بھی واضح نہیں کیا گیا۔



بدیں وجوہ شعر کے کئی مفہوم نکلتے ہیں، مثلاً:

(۱) متکلم خود سے کہتا ہے کہ اگر تیرا دل دو نیم نہ ہو، یا اب تک دو نیم نہ ہو سکا ہو تو خنجر سے سینہ چیر ڈال۔ اور اگر مڑہ سے خون نہیں ٹپکتا، یا اب تک نہیں ٹپک سکا ہے، تو دل میں چھری چھو لے، کہ عاشق کے لیے دل دو نیم اور مڑہ خون چکاں ضروری ہیں۔

(۲) متکلم خود سے کہتا ہے کہ اگر تیرا دل دو نیم نہ ہو اور مڑہ خون چکاں نہ ہوئی ہو تو نہ سہی۔ خنجر اور چھری تو موجود ہیں، ان سے اپنا سینہ دل چیر ڈال۔

(۳) متکلم خود سے کہتا ہے کہ اگر تیرا دل دو نیم نہیں ہے (یعنی درد مند نہیں ہے) اور اگر مڑہ خون چکاں نہیں ہے (یعنی جگر خون نہیں ہوا ہے) تو خود کو یہ سزا دے کہ اپنا سینہ دل چیر ڈال۔

(۴) متکلم معشوق سے کہتا ہے کہ مجھے آ کر دیکھ کہ میرا حال کیا ہے۔ اگر میرا دل دو نیم نہ ہو اور مڑہ خون چکاں نہ ہو تو میرا سینہ خنجر سے چیر ڈال اور دل میں چھری چھو دے (یعنی مجھے درد ناک اور اذیت ناک موت کی سزا دے)۔

(۵) متکلم معشوق سے کہتا ہے کہ میرے بارے میں تیرا گمان ہے کہ نہ میرا دل دو نیم ہے، نہ میری مڑہ خون چکاں ہے (اور اس پر بھی مجھے دعوائے عاشقی ہے) تو آ، میرا سینہ چیر کر دیکھ لے۔ تو خود ہی دیکھ لے گا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ اور میرے دل میں چھری چھو کر دیکھ۔ (کیوں کہ میرا دل اب ہے ہی نہیں، سارا خون ہو کر بہ گیا ہے)۔

(۶) متکلم معشوق سے کہتا ہے کہ اگر تیرے ناز و غمزہ نے اور بے رخی نے اب تک میرا دل دو نیم نہیں کیا اور میری مڑہ خون چکاں نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ تو میرے سینے کو خنجر سے چیر ڈال اور دل میں چھری چھو دے۔ (میں ہر طرح مرنے کو تیار ہوں)۔

(۸) متکلم سے معشوق طنز یہ کہتا ہے کہ بس اسی پر تجھے دعوائے عاشقی تھا! نہ تیرا دل دو نیم، نہ تیری مڑہ خون چکاں۔ اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھ، اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو خنجر اور چھری سے کام لے اور اپنا وہ حال کر جو عاشقوں کا ہونا چاہیے۔

(۹) متکلم سے معشوق طنز یہ کہتا ہے کہ تیرے سب دعوے جھوٹے ہیں، تو اپنی حالت پر غور کر۔ اگر نہ تیرا دل دو نیم ہے اور نہ مڑہ خون چکاں، تو یہ تیرے لیے شرم سے مرجانے کی بات ہے تو خود ہی خنجر اور چھری سے اپنی جان لے لے۔  
مندرجہ بالا نکات کی روشنی میں یہ ایسا معجز بیان شعر ٹھہرتا ہے جس میں مضمون آفرینی، مستی آفرینی، معاملہ بندی، سب یک جا ہو گئے ہیں۔

(۲۸)

کہتے ہو کیا لکھا ہے تری سرنوشت میں  
گویا جبین پہ سجدہ بت کا نشان نہیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۴۷ء)

اس شعر میں سب سے زیادہ قابل توجہ چیز اس کا لہجہ ہے اور ”گویا“، ”سجدہ بت“ اس کے کلیدی الفاظ ہیں۔ مروج تشریحات کی رو سے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ معشوق یا کوئی اور شخص پوچھتا ہے کہ آخر تمہاری تقدیر میں لکھا کیا ہے؟ عاشق جواب دیتا ہے کہ میرے ماتھے پر سجدہ بت کا نشان موجود ہی ہے، لہذا معلوم ہونا چاہیے کہ میں بت پرست ہوں، یعنی جہنمی ہوں یا معشوق بت صفت کا سجدہ گزار ہوں، اسی عبادت کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتا ہوں۔

یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن مصرع ثانی کا انداز کچھ خود کلامی یا زیر لب کچھ کہنے کا سا ہے۔ اس اعتبار سے مصرع اولیٰ میں ”کہتے ہیں“ یا ”کہتا ہے“ زیادہ مناسب ہوتا۔ ایک بات تو ظاہر ہے کہ ”کہتے ہو.....“ کا مخاطب معشوق نہیں ہے، کیوں کہ اگر معشوق کی کسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے تو مصرع ثانی میں ”سجدہ بت کا نشان“ نہ کہا جاتا، بلکہ ”تمہارے سجدے کا نشان“ قسم کا فقرہ ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کا حال پوچھنے والا معشوق نہیں بلکہ کوئی ہمدرد یا دوست ہے۔ لفظ ”گویا“ سے اشارہ ملتا ہے کہ شعر میں براہ راست مکالمہ نہیں بلکہ خود کلامی ہے۔ کیوں کہ اگر براہ راست مکالمہ ہوتا تو ”گویا“ کے بجائے کوئی ایسا لفظ ہوتا (مثلاً ”دیکھو“، ”کیا“ وغیرہ)، جس سے براہ راست خطاب ظاہر ہوتا۔ لہذا امکان غالب یہ ہے کہ اگرچہ متکلم کسی اور سے مخاطب ہے، لیکن دوسرے مصرعے میں جو بات کہی ہے وہ دل میں یا خود کو مخاطب کر کے زیر لب کہی ہے۔ مثلاً اگر سورج چمک رہا ہو اور کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ صاحب اس وقت دن ہے کہ رات؟ تو ہم جزبہ

ہو کر دل میں یا زیر لب کہیں گے کہ عجب احمق شخص ہے جو ایسا سوال پوچھتا ہے، گویا اس کو نظر نہیں آتا کہ سورج چمک رہا ہے۔ لہذا دوسرا مصرع متکلم کا اصل جواب نہیں ہے بلکہ زیر لب یا دل میں کہی ہوئی بات ہے۔ اصل جواب تو بعد میں بہ آواز بلند کہا گیا ہوگا، یعنی یہی لکھا ہے کہ میں سجدہ گزار ہی صنم میں زندگی گزاروں گا، وغیرہ۔ کمال بلاغت یہ ہے کہ اصل جواب نہ بیان کر کے اس جواب کی محض بنیاد قائم کر دی ہے اور باقی معاملہ قاری/سامع پر چھوڑ دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ”گویا“ میں ایہام فرض کرتے ہوئے یہ بھی مطلب نکالا جاسکتا ہے کہ کیا میرے ماتھے پر سجدہ بت کا نشان ہے، وہ گویا نہیں ہے؟ (یعنی کیا وہ نشان بول نہیں رہا ہے؟) کہ میری سرنوشت میں بت کو سجدہ کرنا ہی لکھا ہے؟

ایک انتہائی اہم نکتہ اور ہے۔ ماتھے پر نشان چاہے بت کو سجدہ کر کے بنا ہو چاہے خدا کو سجدہ کر کے، نشان تو دونوں صورتوں میں ایک ہی سا ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص حقیقت حال سے واقف نہ ہو وہ محض نشان دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ نشان سجدہ بت کا ہے یا سجدہ خدا کا۔ پھر بھی متکلم کو یقین ہے کہ لوگ اس کے ماتھے پر گٹھا دیکھتے ہی سمجھ لیں گے کہ یہ سجدہ بت کا نشان ہے۔ یعنی متکلم سمجھتا ہے کہ بت کے علاوہ اور کوئی ہستی سجدے کے لائق نہیں۔ سجدے کے معنی ہی سجدہ بت ہیں۔ یہ استغراق فی المحجوب کا نادر نمونہ ہے اور اسی خود کلامی پر دال ہے جس کا ذکر اوپر ہوا۔ متکلم سمجھتا ہے کہ سبھی لوگ بت کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا جو شخص ماتھے پر گٹھا دیکھتے ہی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ سجدہ بت کا نشان ہے، وہ ضرور احمق ہوگا۔ اسی لیے متکلم خود کلامی کے لہجے میں یا زیر لب کہتا ہے کہ عجیب سوال ہے، گویا دیکھتے نہیں کہ میرے ماتھے پر سجدہ بت کا نشان موجود ہے۔ اس طرح اس شعر کا بنیادی مضمون انتہائے استغراق فی المحجوب ہے۔ لہجے کی شوخی اور بیان کی بلاغت اس پر مستزاد ہے۔

(۴۹)

شوق اس دشت میں دوڑائے ہے مجھ کو کہ جہاں  
جادہ غیر از نگہ دیدہ تصویر نہیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

بظاہر یہ شعر بالکل صاف ہے۔ اسی کا نکتہ ہے کہ جادہ چوں کہ جادہ حیرت ہے اس لیے نگہ دیدہ تصویر سے مشابہ ہے۔ حسرت کا نکتہ یہ ہے کہ میں جس دشت میں دوڑتا پھرتا ہوں، وہاں ہر چیز مثل تصویر مجھ حیرت ہو جاتی ہے۔ متداول مفہوم یہ ہے کہ میں جس دشت میں ہوں وہاں راستہ اسی طرح معدوم ہے جس طرح تصویر کی آنکھ میں نگاہ معدوم ہوتی ہے۔ پھر بھی دو تین باتیں توجہ طلب باقی ہیں۔

شعر کا بنیادی پیکر (جادہ جو نگہ دیدہ تصویر ہے) غیر معمولی طور پر حسین ہے۔ لیکن اصل سے تصویر کی مشابہت کی اساس پر خلق کردہ پیکر غالب کا اپنا نہیں بلکہ ہند ایرانی شعر کا مشترک سرمایہ ہے۔ یہ سلسلہ سودا:

کام اپنا ہے بسان جوے تصویر اس کے ہاتھ  
بند رہتا ہے بہ معنی گو بہ صورت ہے رواں  
سے لے کر عادل منصوری تک پھیلا ہوا ہے:

جو چپ چاپ رہتی تھی دیوار پر  
وہ تصویر باتیں بنانے لگی

ایک بہت دل چسپ سوال یہ ہے کہ ”نگہ دیدہ تصویر“ کی جگہ ”نگہ تصویر“ کیوں نہ کہا؟ یہ ظاہر ”دیدہ“ کا لفظ غیر ضروری ہے۔ لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ اگر صرف ”نگہ تصویر“ کہتے تو مفہوم یہ پیدا ہوتا کہ تصویر واقعی دیکھ رہی ہے۔ مثلاً:

ع: ہو گئے ہیں جمع اجزائے نگاہ آفتاب

سے صاف ظاہر ہے کہ آفتاب کی نگاہیں دیکھنے کا عمل کر رہی ہیں۔ ”نگہ دیدہ تصویر“ سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ تصویر کی آنکھ تو ہوتی ہی نقلی ہے، اب اس نقلی آنکھ کی نگاہ بھلا کیا ہوگی؟ یعنی یہ عدم وجود کا دوسرا درجہ ہے۔

عام مفہیم کی رو سے شعر میں وحشت اور گم کردہ راہی کا مضمون بیان ہوا ہے۔ لیکن ”نگہ دیدہ تصویر“ کو استعاراتی نہ فرض کر کے اگر واقعی کسی قسم کا جادہ فرض کیا جائے تو ایک مختلف اور بہت دلچسپ معنی برآمد ہوتے ہیں۔

فرض کیجیے کہ متکلم تصویر محبوب کے مشاہدے میں گم ہے۔ یہ تصویر عالم مثال میں بھی ہو سکتی ہے اور عالم اجسام میں بھی۔ شاید (یعنی متکلم) مشہود (یعنی تصویر) میں اس طرح گم ہے کہ اسے اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تصویر کی آنکھ سے شعاعیں پھوٹ رہی ہیں جو متکلم کے لیے رہنما کا کام کر رہی ہیں، یعنی انوار کی اس پھوار کے سہارے متکلم کو جادہ سلوک طے کرنا آسان ہو رہا ہے۔ اس طرح ”نگہ دیدہ تصویر“ تحیر کے ذریعہ راہ کی مجدویت کا استعارہ نہیں بلکہ دیدار شیبہ محبوب کے ذریعے کھلنے والی راہوں کا استعارہ بن جاتا ہے تصور محبوب ہی اصل زینت ہے، اسرار کی کلید ہے اور گوہر مقصود تک پہنچانے والی راہ ہے۔

تصوف کا مشہور مسئلہ ہے کہ جب خدا کا تصور کیجیے تو اکثر شیخ کی شبیہ سامنے آ جاتی ہے۔ علمائے ظاہر کے نزدیک یہ قبیح، مذموم اور خطرناک ہے۔ محتاط صوفیوں نے بھی اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، کیوں کہ شیخ کی شبیہ ذات باری تعالیٰ کا بدل بن جائے تو شرک اور ضلال کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور شیبہ شیخ ماسوا اللہ کی تردید کا ذریعہ بن جائے تو یہ مستحسن سمجھا جائے گا۔ اس نکتے کو مولانا روم نے بڑی خوبی سے واضح کیا ہے:

چوں خلیل آمد خیال یار من  
صورتش بت معنی او بت تمنن

اس طرح یہ شعر حیرت یا عدم وجود کے اسرار اور گم کردہ راہی کے صعب کے علاوہ استغراق فی المحبوب کی ایجابی کیفیت کا آئینہ دار بھی کہا جاسکتا ہے۔

آخری بات یہ کہ تصویر میں تصویر کا مضمون دراصل ناخ کا ہے، بلکہ یہ زمین ہی

ناتخ کی ہے جس میں غالب کی زیر بحث غزل ہے۔ غالب نے ناتخ سے اثر قبول کیا، یہ بات اب محتاج ثبوت نہیں۔ کلیات ناتخ میں سہ غزل ہے جس کے حسب ذیل شعر ملاحظہ ہوں:

کار حیرت زدگاں میں ہے کہاں غیر کو دخل  
شع تصویر کو کچھ حاجت گلگیر نہیں  
ایک کو عالم حسرت میں نہیں ایک سے کام  
شع تصویر سے روشن شب تصویر نہیں

ناتخ کا مضمون ہے کہ کاغذ پر بنی ہوئی شے کا وجود ہے بھی اور نہیں بھی۔ غالب اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ کاغذ پر آنکھ کی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس آنکھ کی نگاہ کی بھی تصویر ہوگی، یعنی غالب نے ناتخ سے قدم آگے بڑھا کر مضمون پیدا کیا کہ ناموجود کی نقل بھی موجود اور ناموجود دونوں ہوگی۔ ناتخ بڑے شاعر ہیں، لیکن زیر بحث طرح کے شعروں کی خیال بندی اور نزاکت کے باعث غالب کو ناتخ پر ہمیشہ فوقیت رہی ہے۔

(۵۰)

سلطنت دست بدست آئی ہے  
جام سے خاتم جشید نہیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۶ء)

یہ غالب کے ان دھوکے باز اشعار میں سے ہے جو دیوان میں، انتخابات میں، اقتباسات میں سیکڑوں بار نظر سے گزرتے ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں ٹھہرتی۔ پھر اچانک توجہ زکئی ہے تو ان گنت سوال پیدا ہوجاتے ہیں، حتیٰ کہ تعین مفہوم میں دشواری ہونے لگتی ہے۔ فی الحال دو سوالوں پر غور کیجیے: سلطنت سے کیا مراد ہے؟ اور جام سے اور سلطنت ایک دوسرے کا استعارہ ہیں یا مختلف اشیا کی نمائندگی کرتے ہیں؟

متداول مفہیم یوں ہیں: (۱) جام سے مثل سلطنت ہے جو رندوں کو دست بدست ملتا رہتا ہے۔ یہ کوئی خاتم جشید نہیں جو صرف جشید کے لیے ہی مخصوص ہو۔ (۲) جام سے صرف اس شخص کا ہے جس کے ہاتھ میں وہ ہو۔ سلطنت خاتم جشید ہے، جو جشید سے اس کے وارث، پھر اس کے وارث تک منتقل ہوتی آئی ہے۔

یہ دونوں تشریحیں نامکمل معلوم ہوتی ہیں۔ اول تو سلطنت ہی ایسی چیز نہیں جو ورثا کو منتقل ہوتی رہے۔ دوم یہ کیوں کر کہا جاسکتا ہے کہ جام سے صرف اسی شخص کا ہے جس کے ہاتھ میں وہ ہو؟ پھر اگر 'جام' کو سلطنت کا استعارہ مانا جائے تو 'خاتم جشید' کی معنویت خطرے میں پڑ جاتی ہے کیوں کہ 'خاتم' علامت ہے حکومت کی اور حکومت یقیناً دست بدست منتقل ہوتی رہی ہے۔ وارث کا عمل دخل اس میں زیادہ نہیں ہوتا۔ کوئی ایک خاندان یا گھرانہ چند سو برس سے زیادہ حکومت نہیں کر پاتا اور یہ مدت تاریخ انسانی کی وسعت کو دیکھتے ہوئے کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتی۔

'خاتم' کے معنی ہیں 'انگوٹھی' یا 'مہر' یا 'انگوٹھی کا وہ حصہ' (کلیئہ) جسے مہر کے لیے استعمال

کرتے ہیں۔ 'دست بدست آتا' کے متداول معنی ہیں 'ایک سے دوسرے کو ملنا'۔ اس میں 'توارث' کا مفہوم بھی پہاں ہے۔ اگر 'دست' کے معنی تحقیق کیے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ 'نصرت'، 'غلبہ'، 'ظفر'، 'قوت'، 'قدرت'، 'طرز'، 'روش' اور 'دستور' کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح 'دست بدست آمدن' کے معنی 'جس کی لاشی اس کی بھینس' کی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ظفر اور غلبہ کی بنا پر منتقل ہونا۔ اگر 'خاتم جشید' کو 'مہر' کے معنی میں رکھا جائے، یعنی وہ شے جو جشید کی ذاتی ملکیت ہے، تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ سلطنت تو دست بدست (بر بناے ظفر و غلبہ و قدرت) منتقل ہوتی رہی ہے۔ یہ نہ جام سے ہے جو مستحق کو ملتا ہے اور نہ خاتم جشید جو صرف جشید کی، یعنی ایک شخص واحد کی ملکیت ہو۔ سلطنت الگ شے ہے، جام سے الگ شے اور خاتم جشید الگ شے۔ سلطنت، جام، جشید اور خاتم میں مراعات العظیم ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ سلطنت (جس کی علامت خاتم جشید ہے) تو دست بدست آتی ہے، لیکن جام اسی کو ملتا ہے جو مستحق ہو۔ یہ سلطنت سے بڑی چیز ہے، سلطنت نااہلوں کو بھی مل سکتی ہے۔

غالب کے شعر پر درد کا پرتو ضرور ہے:

سلطنت پر نہیں ہے کچھ موقوف

جس کے ہاتھ آوے جام سو جم ہے

درد کا شعر بہت صاف اور بامعنی ہے، لیکن غالب کے یہاں ابہام نے کئی معنی پیدا کر دیے ہیں اور ان کا شعر درد کے شعر سے بڑھ گیا ہے۔

(۵۱)

ہے تجلی تری سامان وجود  
ذرہ بے پرتو خورشید نہیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۶ء)

یہ شعر پڑھتے ہی غالب کا ایک شعر ذہن میں آتا ہے:  
ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے  
پرتو سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے

غالب نے ذرہ اور آفتاب کا پیکر مختلف شعروں میں استعمال کیا ہے اور ہر جگہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ۔ 'پرتو سے آفتاب کے والا شعر ذہن میں آتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ شعر زیر بحث بالکل صاف ہے۔ تیری تجلی ہر چیز کو وجود کا سامان بخشی ہے۔ ذرہ اسی وقت روشن ہوتا ہے (یعنی نظر آتا ہے) جب اس پر خورشید کی کرن پڑتی ہے۔ اسی طرح، تو مثل خورشید ہے اور ہر شے مثل ذرہ ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ چاہے وہ بڑے سے بڑا وجود ہو، لیکن تیرے سامنے وہ ذرے کی طرح ہے، اور تو مثل خورشید ہے (جسامت میں بھی اور نور میں بھی)۔

لیکن شعر سے کئی اور مطالب نکل سکتے ہیں۔ 'بے کو بغیر' کے معنی میں لیا گیا ہے تو محولہ بالا معنی برآمد ہوئے ہیں۔ لیکن اگر 'بے' کے معنی 'سوا' یا 'جز' ٹھہرائے جائیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ ذرے کا وجود ہی کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ پرتو خورشید ہے۔ ذرہ اور پرتو خورشید ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ ہر چیز کا وجود تجھ میں ہے، گویا تو ہی ہر وجود ہے۔ اس طرح یہ شعر وحدت وجود کا مضمون پیش کرتا ہے۔

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ذرہ اس وقت تک وجود میں آتا ہی نہیں جب تک اس پر آفتاب کا پرتو نہ پڑے۔ جس ذرے پر سورج کی کرن نہ پڑے وہ مردہ ہے۔ بے وجود

ہے۔ جس شے پر تخیلی نہ پڑے وہ ناپید ہے۔ اس طرح یہ شعر ایک طرف تو ارشاد باری تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے کہ *فَفَخْتُ فِيهِ مِنْ دُونِحِي* (میں نے اس میں [جسدِ آدم میں] اپنی روح پھونکی) اور دوسری طرف برکلی (Berkeley) کے اس نظریے کی یاد دلاتا ہے کہ اشیا کا وجود اس وجہ سے ہے کہ خدا کی نگاہ انہیں دیکھتی رہتی ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اشیا کا وجود اسی وقت ہوتا ہے جب انہیں کوئی دیکھے۔ (بند کمرے میں جو کچھ ہے اس کا وجود اسی وقت ہوگا جب آپ اسے دیکھیں۔ کمرہ بھرا ہوا ہو یا خالی ہو، آپ کے لیے اس کے اندر کی اشیا معدوم ہیں جب تک کہ آپ انہیں دیکھ نہ سکیں۔ بہت سی اشیا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ موجود ہیں، کیوں کہ خدا انہیں دیکھتا رہتا ہے)۔

ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شعر ان اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کی تفسیر ہے۔ یہاں 'نور' بمعنی 'روشنی' بھی ہے اور 'نور وحدت' بھی۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حق تعالیٰ مثل خورشید ہے جس کا پرتو ہر چیز پر پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ ادنیٰ ترین ذرہ بھی شعاع آفتاب (روح الہی) کے فیض سے محروم نہیں ہے۔

(۵۲)

تماشا کہ اے جو آئینہ داری  
تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۲ء)

عجیب سی بات ہے کہ بعض بحریں جو اردو میں بہت مقبول ہیں اور مقبول رہی ہیں، غالب کو پسند نہیں تھیں۔ چنانچہ بحرِ کامل مثنیٰ سالم (متفعلن چار بار) جسے اردو کے تقریباً ہر بڑے شاعر نے ایک ادھ بار ضرور برتا ہے، غالب کے یہاں بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح متقارب (فعلن) محذوف یا سالم بھی غالب کو بہت کم توجہ کر پائی ہے، حالانکہ اس بحر کی تقریباً تمام شکلیں اردو میں شروع ہی سے متداول رہی ہیں۔ شعر زیر بحث والی غزل کے علاوہ متقارب میں دو ہی چار غزلیں غالب نے کہی ہیں۔

شعر زیر بحث میں بظاہر کوئی نکتہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا اختلافی معاملہ یہ ہے کہ مصرعِ اولیٰ میں 'تماشا کہ' ہے کہ 'تماشا کر؟' میں 'تماشا کہ' کو ترجیح دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ زیادہ معنی خیز ہے اور اس وجہ سے بھی کہ مولانا عرشی نے یوں ہی لکھا ہے۔ 'تماشا کر' میں کوئی تہ نہیں ہے، جب کہ 'تماشا کہ' میں حسبِ ذیل پہلو نکلتے ہیں: (۱) تماشا کر (۲) کیا تماشا ہے کہ (۳) تماشا یہ ہے کہ (۴) یہ بھی ایک تماشا ہے کہ (۵) 'تماشا کر' کہنے سے بہتر ہے کہ صرف 'تماشا' کہا جائے کیوں کہ ندائیہ امری اس وقت بلیغ تر ہوتا ہے، جب علامتِ فعل حذف ہوگئی ہو یعنی 'انصاف' کہنا بہتر ہے بہ نسبت 'انصاف کر' کے اور مذکورہ کہنا بہتر ہے بہ نسبت 'مذکورہ کر' کے۔

دوسرا مصرع 'آئینہ داری' کی وجہ سے ایک ایسا پہلو پیدا کر دیتا ہے جس کی طرف شارحین نے توجہ نہیں کی ہے۔ 'آئینہ داری' کے ایک معنی ہیں 'آئینہ دکھانا'، 'منعکس کرنا' جیسا کہ خود غالب کے یہاں ہے:

آئینہ دار بن گئی حیرت نقش پا کہ یوں

شارحین نے 'آئینہ داری' کو 'آئینہ بینی' کے معنی میں لیا ہے، جو غلط نہیں ہے۔ لیکن 'آئینہ دکھانا' کے معنی سے جو مفہوم شعر میں پیدا ہوتا ہے وہ لطیف تر ہے۔ محبوب آئینہ دکھا رہا ہے، مگر کس کو؟ ظاہر ہے کہ وہ کسی معمولی شے کا آئینہ دار تو ہونے نہیں سکتا۔ یہ تو روزی (Rossetti) کی اس خاتون جیسی ہستی ہی ہو سکتی ہے جو زمان و مکان سب کو اپنے وجود میں لیے ہوئے ہے اور جو عرش کے بام طلائی سے جھک کر دنیا اور کائنات کا مشاہدہ کرتی ہے:

It was the rampart of God's house

That she was standing on:

By God built over the sheer depth

The which is Space begun.

(D.G. Rossetti: The Blessed Damozel)

عالم کا محبوب ایسا آئینہ ہے جس میں وہ سب منعکس ہے جو روزی کی خاتون دیکھتی ہے۔ وہ گوشت پوست کا انسان نہیں ہے بلکہ جوہر کائنات ہے جو زمین آسمان، خلا و ملاء ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز کا ارتکاز و انعکاس اس کی شخصیت میں یا اس کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ اس کو دیکھنا گویا حیات و کائنات کو دیکھنا ہے۔ اس کو مسخ کرنا گویا حیات و کائنات کا مسخ کرنا ہے۔ محبوب خود میں گم نہیں ہے، ایک عالم اس میں جھلکتا ہے اور متکلم اس جھلکتے ہوئے عالم کو نہ دیکھ کر صرف اسے دیکھ رہا ہے، کیوں کہ اسے معلوم ہے کہ معشوق میں سب کچھ ہے۔ وہ معشوق، خود اپنی شخصیت اور کائنات کو ایک جانتا ہے اور تینوں میں فرق بھی کرتا ہے۔ اب تجھے کس تہمتا سے ہم دیکھتے ہیں؟ سے مراد یہ ہوئی کہ میں تجھے معمولی عاشق کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ میری تہمتا بھی تیری طرح کائناتی ہے۔

(۵۳)

میں مضطرب ہوں وصل میں خوف رقیب سے  
ڈالا ہے تم کو وہم نے کس بیچ و تاب میں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۴۷ء)

بظاہر نہایت سادہ شعر ہے، لیکن اس کی تمام مروج تشریحات میرے اس اصول کا زندہ ثبوت ہیں کہ شعر کا صحیح مفہوم اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب اس کے ہر لفظ پر غور کیا جائے اور ہر لفظ کا صحیح مصرف دریافت کیا جائے۔ صحیح مصرف سے میری مراد ہے ایسا مفہوم جو شعر کے معنوی نظام سے پوری طرح ہم آہنگ ہو اور سن مانا یا تاثراتی نہ ہو۔ الفاظ کے جو معنی بیان کیے جائیں ان کی تصدیق مستند لغات یا مستند استعمالات کے ذریعے ہوتی ہو۔ اس شعر کی شرح میں گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے سرسری مطالعے کے بعد ایک تاثر قائم کیا اور یہ غور نہ کیا کہ سارے الفاظ اس تاثر کی تخلیق کر رہے ہیں کہ نہیں۔ یعنی بعض الفاظ نظر انداز ہو گئے اور بعض کے معنی کی پوری چھان بین نہ کی گئی۔ مثلاً سہا مجددی نے کہا کہ رقیب کا خوف معشوق کو ہے، متکلم کو نہیں۔ بیخود موبہانی نے کہا ہے کہ متکلم معشوق سے کہتا ہے، کیا تم بھی رقیب سے ڈرتے ہو؟ یعنی شرح نے مطلب وہ بیان کیا ہے جو ان کے دل میں ہے، وہ نہیں جو شعر میں ہے۔

بنیادی بات یہ ہے کہ معشوق کا بیچ و تاب وہم کے باعث ہے۔ یعنی معشوق کو کسی بات کا وہم (جھوٹا خیال، بے بنیاد تصور) ہے جس کی بنا پر اس کو بیچ و تاب ہے۔ لفظ 'کس' سے صاف پتا چلتا ہے کہ متکلم کے خیال میں یہ بیچ و تاب غیر ضروری بلکہ نامناسب ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں "آپ سمجھتے ہیں میں بارش سے ڈر جاؤں گا، آپ بھی کس خیال میں ہیں؟" یعنی آپ کا خیال غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ مصرع ثانی میں استفہام 'بیچ و تاب' کے بارے میں ہے، وہم کے بارے میں نہیں۔ یعنی سوال یہ نہیں ہے کہ اس وقت تم کو وہم کیا ہے؟ بلکہ سوال یہ ہے کہ تم کو بیچ و تاب کیا ہے؟ بیچ و تاب کی وجہ تو خود ہی بیان کر دی گئی

ہے کہ اس کی وجہ وہم ہے۔ لہذا کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہم کیا ہے جس کی بنا پر معشوق جتلانے بیچ و تاب ہے؟ جو شعر میں بیان کی گئی ہیں وہ دمدان تو جملہ درد ہانند کی قسم سے ہیں۔ میں وصل کے وقت خوف رقیب سے مضطرب ہوں، تم کو وہم نے کس بیچ و تاب میں ڈال رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس تشریح کی روشنی میں شعر دلچست اور نامربوط ٹھہرتا ہے۔

دراصل مصرع اولیٰ میں استفہام انکاری ہے۔ وصل کے ہنگام عاشق اضطراب میں ہے۔ معشوق سمجھتا ہے کہ یہ اضطراب خوف رقیب کے باعث ہے اور عاشق کی بزدلی پر بیچ و تاب کھاتا ہے۔ عاشق کہتا ہے کہ بھلا میں اور خوف رقیب سے ہنگام وصل مضطرب ہو جاؤں؟ تم وہم میں جتلا ہو اور اس وہم نے تمہیں عجب بے بنیاد بیچ و تاب میں ڈال رکھا ہے۔ مجھے وصل میں اضطراب تو ہے، لیکن خوف رقیب سے اس کا کیا تعلق؟ یہ اضطراب تو دراصل جذباتی ہیجان کے باعث ہے، نہ کہ بزدلی یا خوف کے باعث۔ تم بھلا کس وہم میں ہو اور کیا بیچ و تاب کھا رہے ہو؟ گویا دونوں مصرعے استفہامی ہیں۔ پہلے مصرعے میں استفہام کی نوعیت انکاری ہے کہ میں اور خوف رقیب سے مضطرب ہو جاؤں؟ مصرع ثانی میں استفہام کی نوعیت طنزیہ ہے۔

یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ وصل میں جذباتی ہیجان کو 'اضطراب' کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ 'اضطراب' کے اصل معنی ہیں 'جھیندن' (مختب اللغات) یعنی 'لرزش' اور Agitation (اسٹائیزگاس۔) اسی سے پھر بے قراری، 'گھبراہٹ'، 'بے چینی' کے معنی نکلے ہیں۔ جذباتی ہیجان کے وقت ہاتھ پاؤں میں لرزش عام بات ہے، چاہے وہ ہیجان جنسی ہو یا خوف کے باعث ہو، یا غصے کی وجہ سے ہو۔ لہذا عاشق پر جذباتی ہیجان کے باعث لرزہ و اضطراب طاری ہے اور معشوق سمجھتا ہے کہ یہ لرزش خوف کے باعث ہے۔ (اسی وجہ سے لفظ 'وصل' خاص اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ عاشق جیسا کہ جیسا ہو کر کہتا ہے کہ وصل کا ہنگام اور مجھے لرزش اس وجہ سے ہو کہ میں خوف زدہ ہوں؟ واہ تم کو بھی وہم نے کس بیچ و تاب میں ڈال دیا۔) سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ وصل کے جذباتی ہیجان کو 'اضطراب' خود غالب نے کہا ہے اور اسی غزل میں کہا ہے:

میں اور حظ وصل خدا ساز بات ہے  
جاں نذر دینی بھول گیا اضطراب میں

(۵۴)

رو میں ہے رخس عمر کہاں دیکھیے تھے  
نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۴۷ء)

حالی نے اس شعر پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ شاعرانہ حسیت سے بھر پور ہے۔ ”عمر کو ایسے بے قابو گھوڑے سے تشبیہ دینی حسن شبہ کا حق ادا کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ میری حالت تو یہ ہے کہ نہ تو ہاتھ میں باگ ہے اور نہ پاؤں رکاب میں ہے۔ بالکل بے اختیار اس پر سوار ہوں۔ دیکھیے وہ کہاں جا کر تھمتا ہے یا کتنی دور جا کر مجھے اپنی پشت پر سے گراتا ہے۔“

شعر کا بنیادی مفہوم یہی ہے، کسی شارح نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے۔ لیکن بعض نکات ہنوز توجہ طلب ہیں:

(۱) ”رو میں ہے رخس عمر“، یہ حال کی تصویر ہے۔ اگلا کلوا مستقبل کے غیر یقینی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، ”کہاں دیکھیے تھے“، لیکن ماضی میں صورت حال کیا تھی؟ آج تو رخس عمر رو میں ہے، یعنی روانی میں ہے، کل غالباً یہ حالت نہ تھی۔ یعنی آج تو اپنی صبار قاری اور منہ زوری کے باعث رخس عمر ہمارے قابو سے باہر ہے، لیکن ایک وقت شاید وہ بھی تھا جب ایسا نہ تھا۔ زندگی کبھی ہمارے اختیار میں بھی تھی۔ بالفاظ دیگر کبھی وہ وقت بھی تھا جب میں اپنے ماحول میں پوری طرح پُر اعتماد اور اپنی دنیا کا مالک تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان نئی تہذیب کے پیچیدہ مسائل یا نئی زندگی کے گونا گوں مصائب کا شکار نہ تھا۔ ایک طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب انسان پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا۔

(۲) رخس عمر کبھی ساکت بھی رہا ہوگا، ورنہ میں اس پر سوار کس طرح ہو سکتا؟ لہذا اس کے آئندہ تھم جانے کا مفہوم لازماً موت نہ ہوگا بلکہ اس طرح کا سکون اور امن بھی



ہوسکتا ہے۔

(۳) 'کہاں' کے لفظ نے اس شعر کو زمان سے نکال کر مکان میں ڈال دیا ہے۔ رخش عمر کا سفر دراصل زمانی سفر ہے، لیکن اس کے قیام کے لیے استفساری لفظ 'کب' ہے، نہ کہ 'کہاں'۔ گویا اس زمانی سفر میں تنہیم کا حوالہ مکان ہے۔ کیا زمان و مکان دونوں ایک ہیں؟

(۴) دوسرے مصرعے میں زمان و مکان کی وحدت کا ایک اور اشارہ ملتا ہے۔ باگ پر قابو ہونے سے رفتار اور سمت دونوں قابو میں رہتے ہیں۔ پاؤں رکاب میں مضبوطی سے بٹھے ہوں تو گھوڑے کی پشت پر اپنا وجود قائم رہتا ہے۔ دونوں میں زمان و مکان کا حوالہ موجود ہے۔ (وجود مشترک ہے زمان و مکان میں)۔

مندرجہ بالا اشاروں کی روشنی میں شعر کی تفصیلی تصویر کا خاکہ یوں بنتا ہے: ایک وقت تھا جب میں رخش عمر پر مضبوطی سے جما ہوا تھا۔ اس کی رفتار اور سمت دونوں میرے قابو میں تھے۔ (یعنی میں اپنے حالات اور ماحول پر پوری طرح حاوی تھا) مجھے خیال تھا کہ میں، جو ہوشیار شہسوار ہوں، اس اڑیل گھوڑے (یعنی زمان و مکان، یعنی وجود) کو اپنی چال چلاؤں گا۔ لیکن اچانک کسی ظاہری وجہ کے بغیر گھوڑا میرے قابو میں نہ رہا۔ (زندگی کی ہر چیز میرے اختیار سے نکل گئی۔ میں حالات کا محکوم ہو گیا۔) اب میں کہاں جاؤں گا، کدھر جاؤں گا اور کب جاؤں گا، یہ سب غیر یقینی ہے۔ رخش عمر کی رفتار کا بے قابو ہونا گویا زمان و مکان اور ماحول پر میری حکومت کا ختم ہونا ہے۔ اب یہ جہاں جا ہے گا اپنی مرضی سے ٹھہرے گا۔ اس کے ٹھہرنے کے وقت میری شخصیت زوال کے کس خطے میں پہنچ چکی ہوگی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے اس کا تھمنا میری ظاہری موت نہ ہو، لیکن باطنی موت ضرور ہوسکتا ہے۔

ایک طرح سے دیکھیے تو اس شعر میں مشرقی اقوام کے زوال کی داستان ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مشرق حالات پر حاوی تھا اور ایک زمانہ ہے جب حالات مشرق پر حاوی ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود شعر میں حرکت اور قوت کا جو زبردست پیکر ہے، اس کی تشریح و تحسین ناممکن ہے۔ شعر کیا ہے، تمام فنون لطیفہ کی روح ہے۔

(۵۵)

اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بعد ہے  
جتنا کہ وہم غیر سے ہوں بیچ و تاب میں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۴۷ء)

سب شارح اس بات پر متفق ہیں کہ 'غیر' سے مراد ماسوا اللہ ہے۔ شارح کا بیان یہ ہے کہ صوفیہ لاموجود الہ اللہ کے قائل ہیں، اس لیے ماسوا اللہ کچھ نہیں۔ اگر وجود ہے تو محض اللہ کا، یعنی وجود واجب کا۔ لہذا شعر کا مطلب یہ نکلا کہ میں ماسوا اللہ کے موجود ہونے کا وہم رکھتا ہوں اور اس وہم کی بنا پر بیچ و تاب میں ہوں، یعنی اس کو سمجھنے کے درپے ہوں، لیکن چون کہ ماسوا اللہ کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے جتنا بیچ و تاب کھاتا ہوں اتنا ہی میں اپنی حقیقت سے دور رہ جاتا ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ غیر اللہ ہر شے معدوم ہے تو مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میں کیا ہوں (یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ میں بے وجود ہوں)۔

اس شرح میں بعض قباحتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ 'غیر' سے ماسوا اللہ ہی کیوں مراد ہو؟ یعنی 'غیر' سے 'غیر وجود' مراد لینے کی کوئی وجہ شعر میں نہیں۔ 'غیر' سے محض 'غیر خود' کیوں نہ مراد لیا جائے؟ (یعنی وہ وجود جو میں نہیں ہے۔ Not 1 ہے)۔ شعر میں کوئی اشارہ نہیں کہ 'غیر' سے 'غیر اللہ' مراد ہے۔ اور نہ لفظ 'غیر' کے معنی 'غیر اللہ' یا 'ماسوا اللہ' ہوتے ہیں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ بیچ و تاب کا مفہوم یہ نہیں کہ میں سمجھنے کے درپے ہوں۔ شعر تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ وہم غیر مجھے بیچ و تاب میں رکھتا ہے، یا وہم غیر کے باعث میں بیچ و تاب میں ہوں۔ بیچ و تاب کے معنی سمجھنے کی کوشش، کیا، محض کوشش، بھی نہیں ہوتے۔ بیچ و تاب کے معنی ہیں 'فکر'، 'اندیشہ'، 'تردد'، 'بے قراری'۔ اسٹائن گاس نے 'بحث مباحثہ' بھی درج کیے ہیں۔ فرہنگ آندراج میں بیچ و تاب کے تحت لکھا ہے کہ 'بیچ' سے رشک و

حسد کا کنا یہ بھی قائم کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ وہم غیر سے بیچ و تاب میں ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ میں غیر اللہ کو سمجھنے کے ذریعے ہوں اور اس کو سمجھنے کے لیے بیچ و تاب کھاتا ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ میں تردد اور بے قراری اور فکر کا شکار ہوں۔

اب لفظ 'وہم' پر بھی غور کر لیجیے۔ مشہور صوفی مفکر حضرت عبدالکریم الجلی نے وہم کی تعریف یوں کی ہے: مفروضے قائم کرنا، رائے، اشارت، شبہ، اس لیے فریب ڈہنی۔ لہذا 'وہم غیر' کے معنی ہونے 'غیر' کے بارے میں مفروضے، شبہات اور ڈہنی فریب۔ یعنی اس بات کا دھوکہ یا شبہ کہ غیر بھی کوئی شے ہے۔

مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں شعر کا اصل مفہوم حسب ذیل بنتا ہے: (۱) میں اپنی حقیقت کی تلاش میں ہوں۔ (۲) عقل کی رو سے مجھے حقیقت کی کتنی بھی حاصل ہو سکتی ہے جب میں خود کو دوسروں کے سامنے رکھوں اور نقطہ ہائے اشتراک و اختلاف تلاش کروں کیوں کہ عقل کے اعتبار سے 'من' اسی وقت ہو سکتا ہے جب 'غیر من' بھی ہو۔ (۳) اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے وجود میں یقین اسی وقت رکھ سکتا ہوں جب مجھے دوسروں کے وجود کا بھی یقین ہو۔ (۴) لہذا میرا وہم (= مفروضہ، رائے، شبہ، فریب ڈہنی) یہ ہے کہ دوسرے بھی موجود ہیں ورنہ میں موجود نہ ہوتا۔ (۵) لیکن مشکل یہ ہے کہ دوسروں کا وجود مجھے گوارا نہیں اور مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میرا وجود دوسروں کا تابع ٹھہرے۔ میں اس بیچ و تاب میں ہوں کہ یہ دوسرے کون ہیں؟ اور میرا وجود واجب کیوں نہیں ہے؟ (۶) جتنا ہی میرا بیچ و تاب (بحث مباحثہ، تردد، تشویش، بے قراری، اندیشہ) بڑھتا ہے، اتنا ہی میں حقیقت سے دور ہوا جاتا ہوں۔ کیوں کہ (۷) اصل حقیقت تو یہ ہے کہ نہ میں موجود ہوں، نہ غیر موجود ہیں۔ ہم مخلوق ہیں۔ موجود وہ ہوتا ہے جو مخلوق نہ ہو۔ (۸) لیکن مشکل یہ ہے کہ غیر کے وجود کے بغیر میں اپنا وجود ثابت نہیں کر سکتا اور غیر کا وجود چوں کہ ہے ہی نہیں، اس لیے میرا وجود بھی نہیں ہے۔ اس لیے میری حقیقت کچھ نہیں، صرف ایک وہم ہے۔ میں جب تک اس بات کو نہ سمجھ لوں گا اپنی حقیقت سے دور رہوں گا۔

ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 'غیر' کا وجود ہی نہیں ہے اور میں اس وہم میں مبتلا

ہوں کہ میں کچھ ہوں اور غیر کچھ اور ہیں۔ یعنی میں اپنی ہستی کو دوسروں کی ہستی سے جدا گانہ سمجھتا ہوں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ محض وہم ہے کہ غیر من بھی کچھ ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ایک ہی وجود ہے، غیر کوئی نہیں ہے۔ جب تک میں اس وہم میں مبتلا رہوں گا کہ میں الگ ہوں اور غیر من الگ ہیں۔ اس وقت تک میں اپنی ہستی کو نہ سمجھ پاؤں گا اور اپنی حقیقت سے بے خبر رہوں گا۔

(۵۶)

ہے مشتمل نمود صور پر وجود بحر  
یاں کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۳۷ء)

تمام ظاہری سادگی کے باوجود یہ شعر نہایت ٹیزھا ہے۔ آسی اور طباطبائی حالی کے ہم نوا ہیں کہ یہ شعر وحدت وجود اور کثرت مہوم کی تمثیل ہے۔ قطرہ اور موج اور حباب کی ہستی کچھ نہیں ہے بلکہ یہ سب صورتیں دریا کی بدولت نظر آرہی ہیں۔ ہستی موجودات دراصل وجود واجب کے ضمن میں ہے۔ بیچود مہمانی کہتے ہیں کہ مختلف صورتوں کے مجموعے کا نام سمندر ہے، تو قطرہ، موج، حباب کو الگ الگ کیوں سمجھتا ہے؟ اس شرح کی رو سے یہ شعر وحدت الشہود کا مضمون بیان کرتا ہے۔ سہا مجددی کا بھی یہی خیال ہے۔ بیچود دہلوی کی رائے حالی کے موافق ہے۔

یہ الفاظ دیگر، ان سب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سمندر کا وجود محض صورتوں کے ظاہر ہونے سے نظر آتا ہے یا پھر یہ کہ قطرہ و موج و حباب کا وجود سمندر کی بدولت ہے۔ دونوں انداز فکر مہلک تضاد کے شکار ہیں۔ اگر سمندر کا وجود صورتوں پر مبنی ہے اور وہ صورتیں (قطرہ، موج، حباب) کچھ نہیں ہیں تو ان کی نمود پر وجود بحر کا مشتمل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اگر ان صورتوں کا کوئی اصلی وجود نہیں ہے، یہ محض سمندر کی بدولت نظر آرہی ہیں، تو مصرع اولیٰ کا مہوم الٹ جاتا ہے۔ شاعر تو کہہ رہا ہے کہ سمندر کا وجود نمود صور پر مشتمل ہے اور شارح کہہ رہے ہیں کہ نمود صور کا وجود سمندر پر مشتمل ہے۔ اس چہ بوا جمعی است؟

شوکت میرٹھی نے البتہ بالکل نیا مطلب نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فی حد ذاته دریا کا مستقل وجود نہیں ہے، صرف صورتیں ہی صورتیں ہیں۔ اگر ہم اس مجموعے سے ایک ایک شے کو سلب کرتے جائیں تو آخر میں کچھ بھی نہ رہے گا۔ یعنی دنیا ایک امر اعتباری اور فانی

ہے۔ یہ مطلب بہت خوب ہے، لیکن یہ لفظ 'نمود' (بمعنی 'منظر') کے ساتھ پورا انصاف نہیں کرتا۔ شعر میں صاف کہا جا رہا ہے کہ سمندر کا وجود صرف ان صورتوں پر ہے جن کی نمود سمندر کا التماس پیدا کرتی ہے۔ یعنی وہ صورتیں بھی محض دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا واقعی ہونا ضروری نہیں۔ نمود کے معنی کو سمجھنے کے لیے غالب کا یہ شعر ذہن میں لائیے:

وہ بھی تھی اک سیما کی سی نمود  
صبح کو راز مہ و اختر کھلا

شوکت کی یہ بات بالکل درست ہے کہ دنیا صفات سللیہ کا مجموعہ ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ لیکن شعر کا یہ مسئلہ اب بھی باقی رہتا ہے کہ اگر قطرہ و موج و حباب بے وجود ہیں تو وہ کون سی صورتیں ہیں جن پر وجود بحر مشتمل ہے؟ مصرع اولیٰ کی رو سے تو صورتیں واجب ٹھہرتی ہیں (کیوں کہ سمندر کا وجود ان سے ہے) اور مصرع ثانی میں یہی صورتیں (اگر قطرہ و موج و حباب کو صور کا استعارہ مانا جائے) معدوم و مہوم قرار دی جا رہی ہیں۔

اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ شعر نہ وحدت الوجود کا ہے اور نہ وحدت الشہود کا۔ دنیا کے اعتباری ہونے کا مضمون اس میں ضرور ہے، لیکن اس مضمون کے بارے میں شاعر کا نقطہ نگاہ ماورائی ہے اور استحکام خودی سے عبارت ہے۔ سمندر یعنی کائنات کچھ نہیں ہے۔ یہ محض صورتیں ہیں جن کو دیکھ کر ہم دھوکے میں آجاتے ہیں۔ ادراک کچھ نہیں ہے، محض مدرک کی نظر ہے۔ اگر مدرک نہ ہو تو ادراک کچھ نہیں ہے۔ ادراک کا عمل ہی شے کی حقیقت کو بدل دیتا ہے، کیوں کہ ادراک تابع ہے مدرک کا۔ تم لوگ قطرہ و موج و حباب کے مجموعے کو سمندر سمجھتے ہو، حالانکہ قطرہ و موج و حباب کا وجود تمہارے ذہن کا تابع ہے۔ یہ محض صورتیں ہیں، ان کا وجود صرف ہمارے ذہن میں ہے۔ نہ قطرہ کچھ ہے، نہ موج، نہ حباب۔ یہ محض چند صورتیں ہیں جن کو تمہاری قوت مدرک نے تمہاری آنکھوں پر منعکس کیا ہے۔ کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتم ہی تم ہو۔

(۵۷)

ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود  
ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۷ء)

مصرع ثانی میں استعارے کے بے مثال حسن نے تمام شارحین کو اس درجہ مبہوت کر دیا کہ مصرع اولیٰ پر توجہ کم صرف ہوئی اور مصرعے کی، لہذا شعر کی شرح ناقص رہ گئی۔ دوسرا مصرع درحقیقت مصرع اولیٰ کی پشت پناہی کرتا ہے جب تک اس مصرعے کی پوری تشریح و توضیح نہ ہوگی، اس شعر کے بارے میں ہمارا علم نامکمل رہے گا۔

سب سے پہلی غور طلب بات ’ظہور اور شہود کے مابین امتیاز ہے۔‘ ظہور موجودات کا استعارہ ہے، یعنی ان اشیا کا جنہیں دنیا والے اپنی ظاہریں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان اشیا کو نور حق کا پرتویا وجود حق کی ظاہری شکل کہہ سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف ’شہود خود حضرت حق کا استعارہ ہے۔ جب موجودات، موجودات کی شکل میں نظر نہ آئیں بلکہ حق ہی حق معلوم ہوں تو انہیں ’شہود‘ کہا جاتا ہے۔ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی ’فصوص الحکم‘ کے مقدمے میں فرماتے ہیں: ”وہ اشیا کا غیر اس اعتبار سے ہے کہ اس کی ذات ہنوز مخفی ہے..... اور اس نے اشیا کو اس واسطے پیدا کیا کہ وہ خود ان میں مخفی ہو جائے اور اشیا ظاہر ہو جائیں اور اس کو چھپالیں۔“ (ترجمہ مولوی عبدالغفور، مطبوعہ حیدرآباد ۱۸۸۸ء)

لہذا ظہور کا درجہ شہود سے کم تر ہے۔ ’غیب غیب‘ یعنی غیب کا نہ ہونا، یہ شہود پر دال نہیں ہو سکتا کیوں کہ غیب غیب کے معنی ہیں ظہور، اور ظہور کے بارے میں شیخ اکبر کہہ چکے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ کا پردہ ہے۔ غیب غیب کے معنی ذات احدیت نہیں ہو سکتے۔ عدم عدم کے معنی وجود ہو سکتے ہیں۔ غیب غیب کے معنی وجود نہیں ہو سکتے۔ اس کے معنی اصل غیب ضرور ہو سکتے ہیں، یعنی غیب محض۔ جس طرح ’ذات ذات‘ کے معنی اصل ذات ہو سکتے ہیں۔ اس طرح

پہلا مصرع یہ کہتا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ جس کو ہم شہود سمجھ رہے ہیں وہ غیب محض ہے، یا بہت سے بہت وہ ظہور ہے، یعنی غیب کے اوپر پڑا ہوا پردہ ہے۔

لہذا مصرع اولیٰ میں کہا گیا ہے کہ جس کیفیت کو ہم شہود سمجھ رہے ہیں وہ تو محض ظہور کی کارگیری ہے۔ لیکن خود شہود کیا ہے؟ شہود بھی ہمیں بہت دور نہیں لے جاتا۔ جیسا کہ شیخ اکبر نے کہا ہے (فصوص الحکم): ”پس حق تعالیٰ اس وجہ ذاتی کی حیثیت سے ہمیشہ اس علم سے غیر معلوم رہتا ہے جو ذوق اور شہود سے حاصل ہوتا ہے، کیوں کہ حادث کو اس کے ادراک میں قدم ہی نہیں ہے“ (ترجمہ مولوی عبدالغفور)۔ اس طرح اشیا کو حق ہی حق کی شکل میں دیکھنا بھی ذات کا علم نہیں عطا کرتا بلکہ اس علم کی طرف محض اشارہ کرتا ہے۔

اب دوسرے مصرعے پر آئیے۔ جو لوگ خواب میں خود کو نیند سے جاگا ہوا دیکھتے ہیں وہ ابھی خواب (نیند) ہی میں ہیں۔ ان کو محض دھوکا ہے کہ ہم جاگ اُٹھے ہیں۔ یہ دھوکا کس قسم کا ہے؟ یہ دھوکا دو صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ سوتے ہوئے شخص کو جاگنے کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ وہ محض اس دھوکے میں ہے کہ مجھ کو یہ تجربہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ظہور اور شہود کو علم الہی کا تجربہ سمجھنا دھوکا ہے۔ لیکن یہ دھوکا بالکل بے حقیقت بھی نہیں ہے۔ جس طرح خواب میں جاگ اُٹھنے کا تجربہ، اصل تجربے کا ظل ہے، اسی طرح ظہور کا علم، ذات حق کے علم کا ظل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو شخص اس وقت محو خواب ہے، وہ کبھی نہ کبھی تو بیدار رہا ہوگا۔ جس طرح عدم دلیل ہے وجود کی، اسی طرح خواب دلیل ہے بیداری کی۔ لہذا خواب میں جاگنے کی وجہ سے جو دھوکا ہوا ہے وہ اس اذلیلین بیداری کا بھی ہو سکتا ہے جب صبح الست تھی۔ صبح الست کی بیداری روح کی وہ بیداری ہے جب وہ آغوش حق میں تھی اور حیات موجودہ محض غفلت کی نیند ہے۔ جب روح نے وجود حق کو ظہور و شہود کی شکل میں دیکھا تو اس کو دھوکا ہوا کہ وہ اپنی اس اذلیلین بیداری کے عالم میں لوٹ گئی ہے جس میں اس کو تمام چیزوں کا علم تھا۔

اس طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مادی زندگی نہ صرف غفلت کی نیند ہے، بلکہ بے حقیقت بھی ہے۔ اس کی مثال اس خواب کی سی ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہم کو اصلی تجربہ ہو رہا ہے۔ خواب میں جو تجربات گزرتے ہیں وہ محض واہمہ ہوتے ہیں،

لیکن جب تک خواب جاری رہتا ہے، وہ تجربات بالکل حقیقی معلوم ہوتے ہیں۔ خدا کا علم اشیا سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں کہ وہ اشیا سے برتر ہے بلکہ اس لیے کہ اشیا کا وجود محض خیالی ہے۔ یعنی یہ شعر صرف اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ ہم کو عالم اور موجودات کا علم حاصل ہے بلکہ سرے سے عالم ہی کی نفی کرتا ہے۔ اس ایک شعر میں پورا نوافلاطونی فلسفہ آگیا ہے۔ آخر میں غالب کے زمانہ نوجوانی کا بھی ایک شعر اس موضوع پر سن لیجیے:

بزم ہستی وہ تماشا ہے کہ جس کو ہم اسد  
دیکھتے ہیں چشم از خواب عدم نکشادہ سے

(۵۸)

جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار  
اے کاش جانتا نہ تری رہ گزر کو میں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۳۹ء)

معشوق کے ہاتھوں یا معشوق کی خاطر ذلیل ہونا اور اس درجہ ذلیل ہونا کہ رقیب تک کا اکرام کرنا پڑے، ہندو فاری شاعری کا مخصوص موضوع ہے، وہیں سے یہ اردو میں آیا اور خوب پھلا پھولا۔ ہندو ایرانی شاعری میں اس مضمون کی شاید بہترین مثال میرزا ادنیٰ کا یہ شعر ہے:

ہزاراں آہ از آں خواری کہ چوں می راندی از بزم

بہ امید شفاعت جانب اغیار می دیدم

اردو میں مومن کا شعر زبان زد خلاق ہے اور مضمون کے لحاظ سے غالب کے زیر بحث شعر سے قریب بھی ہے:

اس نقش پا کے سجدے نے کیا کیا کیا ذلیل

میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا

لیکن غالب کے شعر میں بعض نکتے ایسے ہیں جن کی بنا پر ان کا شعر بھی ان بلند پایہ اشعار کے سامنے بے تکلف رکھا جاسکتا ہے۔

’دُر اور رُگدُر پر غور کیجیے۔ حتماً تو ہو رہی ہے کہ کاش میں تیری رُگدُر کو نہ جانتا اور

شکایت اس بات کی ہے کہ رقیب کے در پر ہزار بار جانا پڑا۔ شاعرین نے ان مختلف باتوں کو جوڑنے کے لیے یہ فرض کیا ہے کہ معشوق ہر وقت رقیب کے گھر پڑا رہتا ہے، پارقیب نے معشوق کے گھر کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ لیکن ان توجیہات سے ’رہ گزر‘ کی پوری تصدیق نہیں ہوتی۔ معشوق کی رہ گزر (یعنی گلی) سے واقفیت کا منطقی نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ معشوق سے ملنے

کے لیے رقیب کے دروازے جانا پڑے۔ بیخود موبانی نے اسی لیے رہ گزر سے واقفیت کو عاشق ہونے کا استعارہ قرار دیا ہے۔ دوسرے مصرعے کی شرح میں لکھتے ہیں: ”اے کاش میں تیری گلی کو نہ جانتا، یعنی کاش میں تجھ پر عاشق نہ ہوا ہوتا۔“

بیخود کی تشریح خوب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی توجیہات ممکن ہیں۔ مثلاً ’رہ گزر‘ کے معنی ’گلی‘ نہ لے کر محض ’راستہ‘ فرض کر سکتے ہیں۔ معشوق چوں کہ اس راستے سے گزرتا ہے جس پر رقیب کا گھر ہے اور خود معشوق کے گھر تک رسائی ممکن نہیں، اس لیے مجبوراً رقیب کے دروازے پر جا کر کھڑا رہتا ہوں کہ تجھ کو دیکھ سکوں۔ دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ معشوق کے گھر کا راستہ رقیب کے گھر سے ہو کر ہے۔ اس لیے تجھ سے ملنے یا تجھے دیکھنے کے لیے بھی رقیب کے در سے ہو کر گزرتا پڑتا ہے۔ تیسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ تیری گلی کا ہر شخص میرا رقیب ہے، لہذا اس گلی سے گزرتا گویا رقیب کے در پر جاتا ہے۔ چوتھی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ تجھ سے ملنے کے لیے رقیب سے ملنا شرط ہے۔ گویا رقیب وسیلہ ہے۔ اس لیے اس کے پاس سے ہو کر تیرے در تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔

’جانا‘ اور ’جاننا‘ میں تجنیس بھی دل چسپ ہے اور دونوں الفاظ میں نئی طرح کا ربط پیدا کرتی ہے۔ جانا اسی لیے ہوا کہ جانتا تھا۔ اس طرح دونوں لفظ ایک دوسرے کا استعارہ ہیں۔

(۵۹)

پھر بے خودی میں بھول گیا راہ کوے یار  
جانا وگرنہ ایک دن اپنی خبر کو میں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۳۹ء)

اس شعر میں ’پھر‘ بمعنی ’دوبارہ‘ نہیں ہے بلکہ بمعنی ’تب‘ ہے۔ اس نکتے کی طرف طباطبائی اور آسی نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن ایک نکتہ اور بھی ہے۔ مصرع ثانی میں ’ایک دن‘ کا فقرہ بہت معنی خیز ہے۔ ’میں ایک دن وہاں جاتا‘ وغیرہ جملوں میں ’ایک دن‘ ایک طرح کی بے پروائی اور عدم دل چسپی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی جس کام کی طرف طبیعت اکثر یا شدت سے راغب نہ ہو، یا جس کی کوئی فوری ضرورت نہ ہو، اس کے لیے ’ایک دن‘ کا فقرہ لگاتے ہیں۔ میں ایک دن اپنی خبر کو جاتا میں اشارہ یہ ہے کہ مجھے اپنی خبر گیری کی کوئی خاص ضرورت یا فکر نہیں۔ ٹھیک ہے، میں وہاں جا کر خود کو کھو آیا، مگر یہ کوئی ایسی خاص بات یا کسی تشویش کا معاملہ نہیں۔ گویا میں بنا ہی اس لیے تھا کہ کوے یار میں جاؤں اور اپنی ہستی کو وہیں گم یا محو کر دوں۔ اب جب کہ وہ بات ہو گئی ہے تو میں گویا اطمینان سے ہوں بلکہ میں بے خودی کو وہاں سے لے آیا اور خود کو وہاں چھوڑ آیا تو اچھا ہی ہوا، ایک فکر اور کم ہوئی۔ اب وہاں مجھ پر کیا گزری، یہ معشوق جانے یا اس کی گلی کے لوگ۔ لفظ ’بے خودی‘ بڑے معرکے کا ہے، کیوں کہ یہ اپنی خبر کو نہ جانے کا جواز بھی ہے اور اپنی خبر گم کرنے کی وجہ بھی۔ خوب شعر ہے۔

(۶۰)

شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے عالم  
لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۸ء قبل ۱۸۳۸ء)

اس شعر کی شرح غالب کے نہایت ذہین، ذی علم اور مداح شارح مولانا بیچود موبانی کی زبان سے سنئے: ”لوگ کہتے ہیں کہ دنیا معشوق حقیقی کی کمر ہے۔ وہ کہا کریں، ہم نہیں مانتے یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا وجود فرضی اور اعتباری ہے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز نہیں، اس کے لیے ہے، کہنا کیا معنی؟ مختصر یہ ہے کہ ہم دنیا کے وجود اعتباری کے بھی قائل نہیں ہیں۔“ بیچود اس کے بعد طباطبائی کا قول نقل کرتے ہیں کہ ”مصنف نے لفظ ’منظور‘ کو یہاں ’مبصر و مرئی‘ کے معنی پر استعمال کیا ہے، محاورہ اس کے مساعد نہیں۔“ پھر اس کا جواب بیچود یوں دیتے ہیں کہ ”جب ’منظور نہیں‘ کے معنی ’ہم نہیں مانتے‘ موجود ہیں تو پھر ہم کو دکھائی نہیں دیتی یہ معنی لینا کیا ضروری ہے؟ ہاں لفظ ’منظور‘ سے صفت ایہام ضرور پیدا ہوگئی ہے، اس کو محاورے سے کیا تعلق؟“

بیچود کی شرح اور استدراک دونوں بہت عمدہ ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ’منظور‘ میں صرف ایہام نہیں ہے۔ ہم نہیں مانتے‘ کا مفہوم بھی اتنا ہی حاوی ہے جتنا ’ہمیں دکھائی نہیں دیتا‘۔ لیکن شعر کی ایک اور شرح ممکن ہے، جس کی رو سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ متداول شروح کی رو سے مصرع ثانی کے ’ہے‘ کا بھی قائل ’عالم‘ ہے۔ یعنی ان کے اعتبار سے شعر کی نثر یوں بنتی ہے: ”عالم شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ (عالم) ہے، مگر ہمیں منظور نہیں۔“ لیکن اگر ’عالم‘ کے بجائے ’کمر‘ کو فاعل قرار دیں تو شعر کی منطق بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ یعنی شعر کی نثر یوں کیجیے: ”شاہد ہستی مطلق کی کمر عالم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ (کمر) ہے۔ مگر ہمیں منظور نہیں۔“

ظاہر ہے کہ معشوق کی کمر کو (یوہ نزاکت و سگی) معدوم فرض کیا جاتا ہے۔ معشوق کے کمر تو ہوتی ہی ہے، لیکن عاشق اس کا (کمر کا) وجود تسلیم نہیں کرتا۔ اب یوں دیکھیے کہ ہستی مطلق (یعنی حق تعالیٰ) معشوق ہے۔ تو اگر وہ معشوق ہے تو اس کی کمر بھی ہوگی۔ لیکن یہ کمر عاشق کے لیے معدوم ہوگی۔ یہ دنیا کیا ہے؟ شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ہے (جس طرح سے عام لوگ کہتے ہیں کہ معشوقوں کے کمر ہوتی ہے) لیکن ہم اسے نہیں مانتے (جس طرح عاشق کی نظر میں معشوق کی کمر معدوم ہوتی ہے۔) حق تعالیٰ شاہد (معشوق) ہے، ہم اس کے عاشق ہیں۔ معشوق کے کمر تو ہوتی نہیں، لہذا دنیا، جسے ہم معشوق حقیقی کی کمر کہتے ہیں، بے وجود ہے۔ اور لوگوں کے نزدیک دنیا کا وجود ہوگا، لیکن ہمارے لیے وہ معدوم ہے۔

اب تین نکلتے اور نکلتے ہیں: (۱) ہم معشوق حقیقی کے عاشق ہیں۔ یہ بات شعر میں صراحتاً نہیں لیکن بالکلنا یہ مذکور ہے۔ (اگر ہم حق تعالیٰ کو معشوق نہ سمجھتے تو کمر کے وجود یا عدم کی کوئی بحث ہی نہ ہوتی۔) (۲) معشوق حقیقی کی کمر کا نہ ہونا اس طرح ثابت ہے کہ وہ ہستی مطلق ہے۔ مطلق وہ ہوتا ہے جو تمام ممکن چیزوں (مثلاً زمان، مکان، اعضا و جوارح وغیرہ) سے ماورا ہو۔ (۳) کمر کا موجود ہونا یا معدوم ہونا دونوں معشوق حقیقی کے وجود پر دال ہے۔ عام لوگ تو موجودات (دنیا) کو وجود خدا کی دلیل مانتے ہیں اور ہم دنیا کو معدوم سمجھتے ہیں، اس لیے خدا موجود ہے۔

لہذا یہ شعر وجود اعتباری کی تفسیر سے زیادہ وجود حقیقی کی تصدیق کرتا ہے۔ خوب معنی آفرینی ہے۔

(۶۱)

کم نہیں جلوہ گری میں ترے کوچے سے بہشت  
یہی نقشہ ہے ولے اس قدر آباد نہیں  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۶ء، قبل ۱۸۲۸ء)

سب سے پہلے تو 'ولے' پر غور کیجیے۔ غالب کی فارسیت نے 'مگر' کا مستعمل لفظ چھوڑ کر 'ولے' کا خالص فارسی لفظ منتخب کیا۔ میں نے ایک اور جگہ اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غالب کی غیر شعوری فارسیت ان کے کلام کو پیمانے کا اچھا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اب معنی پر آئیے۔

جہاں تک 'جلوہ گری' کا تعلق ہے، بہشت اور کوچہ محبوب میں کوئی فرق نہیں، لیکن کوچہ محبوب میں بہشت سے زیادہ آبادی ہے۔ شعر میں تین کلیدی الفاظ ہیں، ہر ایک کی نوعیت جدلیاتی ہے۔ جلوہ گری، نقشہ، آباد۔ جلوہ گری کس کی ہے؟ کوچے میں محبوب کی، بہشت میں خدا کی یا حوروں کی۔ لیکن 'جلوہ گری' (بمعنی مناظر کی جلوہ گری) 'بہشت' اور 'کوچہ' کی صفت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی مناظر اور حسین نظاروں کی جلوہ گری۔ اب مفہوم یہ نکلا کہ مناظر کی خوب صورتی کے اعتبار سے بہشت اور کوچہ محبوب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ دو مقامات ہیں جو فی نفسہ خوب صورت ہیں۔ اس مفہوم کو 'نقشہ' کے دوسرے معنی سے تقویت پہنچتی ہے۔ 'نقشہ' بمعنی 'کیفیت'، 'حالت' تو ہے ہی، لیکن 'نقشہ' بمعنی Design (شہر کا نقشہ، عمارت کا نقشہ) بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جنت اور کوچہ معشوق کا طرز تعمیر ایک طرح کا ہے، برابر کا حسن رکھتا ہے۔

'آباد' بمعنی 'چہل پہل سے بھرا ہوا، بھیڑ بھاڑ والا، جہاں لوگ رہتے ہیں، یعنی ویران کا متضاد' ہے۔ یعنی کوچہ محبوب میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، جیسا کہ میر کے شعر میں ہے:

اس کی گلی کی خاک سسوں کے دامن دل کو کھینچے ہے  
ایک اگر جی لے بھی گیا تو آتے ہیں مر جانے دو

یہ بھی ہے کہ کوچہ محبوب میں ہجوم عشاق ہے، لوگ جوق در جوق وہاں پہنچتے رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف بہشت میں وہ جم غیر نہیں ہے، وہاں چند ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ 'آباد' کا اشارہ 'جلوہ گری' کی طرف بھی ہو سکتا ہے، بمعنی 'جلووں سے بھرا ہوا'۔ اب مفہوم یہ نکلا کہ بہشت اگرچہ حسن ذاتی میں کوچہ یار سے کم نہیں ہے، لیکن اس میں معشوق (خدا یا معشوق مجازی) کے جلووں کی فراوانی ہے۔

اگر یہ فرض کیا جائے کہ 'آباد' کے صرف ایک معنی ہیں، یعنی 'ویران کا متضاد' تو بھی مندرجہ ذیل نکات پیدا ہوتے ہیں:

(۱) کوچہ یار تک رسائی زندگی ہی میں ہو سکتی ہے۔ بہشت میں پہنچنے کے لیے مرنا شرط ہے۔ غالب ع:

گر بہ معنی نہ رسی جلوہ صورت چہ کم است

کے مصداق لوگ کوچہ یار کو جنت کے مقابلے میں اہل المصول پا کر کوچہ یار ہی میں ہنگھٹ کیے رہتے ہیں۔

(۲) بہشت اس لیے مقابلہ ویران معلوم ہوتی ہے کہ جگہ بڑی ہے اور وہاں جانے والے تھوڑے ہیں۔

(۳) بہشت کی تمنا کرنے والے اور اس میں داخل ہونے والے بے چارے زاہد خشک ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ دنیا ہی میں جنت موجود ہے۔ ان کی طرح کے چند احمق جنت کی راہ لیتے ہیں۔ مرجع خلائق تو کوچہ یار ہے۔

(۴) بہشت کے سانسوں میں وہ درد و سوز ہی نہیں کہ ہائے و ہو کریں۔ وہ چپ چاپ پڑے رہتے ہیں۔ وہاں ہنگامہ اور چہل پہل کہاں؟ تیرے کوچے کے ساکن درد و سوز و مستی سے بھر پور ہیں۔ یہاں ہر وقت ہنگامہ گرم رہتا ہے۔

بظاہر معصوم اور بے ارادہ شوخی کی مثال کے لیے اس سے بہتر شعر ملنا مشکل ہے اور معنویت کے ابعاد بھی نادر اور لذیذ ہیں۔



(۶۲)

دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا  
یاں آپڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کریں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۲ء)

تمام شارحین نے یہ فرض کیا ہے کہ وہ کی ضمیر خدا کی قائم مقام ہے اور اس طرح شعر کا مطلب یہ نکالا ہے کہ اللہ میاں نے مجھے دونوں جہان بخش دیے اور سمجھے کہ میں اس عطاء بے نہایت سے خوش ہو جاؤں گا، لیکن مجھے جھگڑا اور رد و قدح کرتے شرم آئی، اس لیے میں چپ رہا۔ اس شرح میں دو قباحتیں ہیں۔

پہلی قباحت یہ ہے کہ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ ہمارے یہاں صرف اللہ میاں کے ساتھ مستعمل ہے۔ (اللہ میاں کہتے ہیں، اللہ میاں بندوں پر مہربان ہیں وغیرہ) پہلے اللہ صاحب بھی مستعمل تھا (ملاحظہ ہو ترجمہ قرآن از حضرت شاہ عبدالقادر) لیکن انیسویں صدی کی تیسری دہائی تک متروک ہو چکا تھا۔ مجرد ضمیر وہ کے ساتھ صیغہ جمع معشوق کے لیے تو بولتے ہیں (وہ آئے، وہ گئے، وہ بیٹھے وغیرہ) لیکن لفظ اللہ یا خدا کے ساتھ ہمیشہ فعل واحد استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، خدا بڑا کارساز ہے، وغیرہ۔ لہذا وہ سمجھے اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا بشرطیکہ یہ فرض نہ کیا جائے کہ غالب نے خلاف محاورہ لکھا ہے۔ لیکن چون کہ ایسا فرض کیے بغیر بھی شعر یا معنی رہتا ہے، اس لیے غالب پر خواہ مخواہ خلاف محاورہ لکھنے کا الزام لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر وہ سمجھے کی جگہ وہ سمجھا ہوتا تو اللہ کی طرف گمان اور بھی مستبعد ہوتا، کیوں کہ مجرد ضمیر اگر حق تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس جگہ پر جہاں شک اور گمان بالکل ممکن نہیں ہوتا، مثلاً ”وہ بڑا کارساز ہے، اس پر بھروسہ رکھو“ یا ”وہ مسبب الاسباب ہے، کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا“ وغیرہ۔ یعنی جب حق تعالیٰ کی صفات کا بیان ہو تو مجرد وہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے افعال و احکام کا ذکر ہو مثلاً ”وہ

کہتا ہے، جموٹ نہ بولو“ تو اس کا لازمی مفہوم یہ نہیں نکلتا کہ وہ بمعنی اللہ ہی ہے۔ شعر زیر غور میں وہ کے ساتھ صیغہ جمع کی باعث ایک خفیف سا اشتباہ تو ہوتا ہے کہ وہ بمعنی اللہ ہے۔ لیکن اس معنی میں دوسری قباحت اتنی بڑی ہے کہ اس اشتباہ کو بھی باقی نہیں رکھتی۔

دوسرے مصرعے کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ میاں نے مجھے دونوں جہان بخشے اور یہ سمجھے کہ مجھے خوش کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس شرح کی رو سے اللہ تعالیٰ کے علم کامل اور حاضر و غائب کے مکمل وقوف پر ضرب پڑتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں مصرعے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو میرے بارے میں مخالفہ ہوا کہ میں دونوں جہان لے کے خوش ہو گیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے علم میں کسی نقص اور اس کے مشاہدے میں کسی مغالطے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس لیے دونوں جہان بخشے والا اور اس دھوکے میں پڑنے والا کہ جس کو دونوں جہاں بخشے گئے ہیں وہ خوش ہوا، حق تعالیٰ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ ہی ہو سکتا ہے۔

جب یہ بات طے ہو گئی کہ وہ کی ضمیر خدا کی نہیں بلکہ کسی بندے کی قائم مقام ہے، تو یہ بھی طے ہو گیا کہ وہ بندہ یا تو معشوق ہو گا یا کوئی ممدوح ہو گا۔ لیکن معشوق کو تو دونوں جہان پر متصرف نہیں فرض کر سکتے، پھر اس داد و دہش کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معشوق کے پاس بھی دو دنیائیں ہیں، ظاہر (یعنی اس کا جسم) اور باطن (یعنی اس کا دل)۔ معشوق نے ظاہر و باطن سب بخش دیا اور سمجھا کہ میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ لیکن میں مطمئن نہ ہوا، بس اس لیے چپ رہا کہ تکرار (یعنی بحث یا بحثی دہرانا) کیا کروں، زیادہ لالچی بنا آداب کے منافی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ظاہر و باطن سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا جس کی طلب تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عاشق تو دراصل معشوق کی ذات کا طالب تھا، یعنی خود کو معشوق کی ہستی میں گم کرنا چاہتا تھا نہ کہ اس پر قبضہ و تصرف کا جو یا تھا۔ بود لیتر نے ایک خاتون سے اپنی نظموں کے ذریعے اظہار عشق کیا اور اسے اپنی شخصیت سے اس درجہ مسحور کر دیا کہ خاتون نے اپنے آپ کو بود لیتر کے حوالے کر دینے کی پیش کش کی۔ بود لیتر نے اسی دن سے اس سے ملنا ترک کر دیا اور کہا کہ میں آپ کو دیوی بنا کر رکھنا چاہتا تھا، داشتہ بنا کر نہیں۔

اگر یہ فرض کریں کہ وہ کی ضمیر کسی ممدوح، مثلاً کسی بزرگ یا پیر کی قائم مقام ہے تو بھی مفہوم قائم ہو جاتا ہے۔ دونوں جہان کا فقرہ اب دنیا اور عقبی کے مفہوم میں بھی ہو سکتا

ہے اور غیر معمولی بخشش و عطا کے مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے۔ مشہور روایت ہے کہ ایک بار خواجہ بختیار کاکی نے کسی غیر معمولی روحانی کیفیت سے مغلوب ہو کر حضار مجلس سے کہا کہ اس وقت جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ کسی نے جنت مانگی، کسی نے معرفت، کسی نے دنیا۔ لیکن بابا فرید نے کہا کہ میں تو صرف آپ کو مانگتا ہوں۔ ممکن ہے یہ شعر کہتے وقت اس واقعے یا کسی ایسے ہی واقعے کا دھندلا سا تاثر غالب کے ذہن میں رہا ہو۔

قاسم کا ہی کا شعر ہے:

کو تاہ ہمتے کہ پے حاصل دو کون

دست طمع بہ حضرت بیچوں کند دراز

غالب کا بھی مضمون یہی ہے، لیکن غالب نے بات کو بہت بلند کر دیا ہے، کیوں کہ ان کے یہاں دست طمع دراز نہیں کیا گیا ہے بلکہ دو کون خود ہی مل گئے ہیں، اور متکلم کو پھر بھی انہیں قبول کرنے میں پس و پیش ہے۔ معنی آفرینی بھی غالب کے یہاں زیادہ ہے کیوں کہ قاسم کا ہی کے یہاں ایک ہی معنی ہیں، جب کہ غالب کے شعر میں کم سے کم دو معنی ہیں۔

(۶۳)

کیا شمع کے نہیں ہیں ہوا خواہ اہل بزم  
ہو غم ہی جاں گداز تو غم خوار کیا کریں

(زمانہ تحریر: ۱۸۵۲ء)

تمام شرح اس شعر کے مفہوم پر متفق ہیں۔ یعنی یہ کہ اہل محفل شمع کے ہوا خواہ تو ہیں لیکن کیا کریں، شمع کا غم ہی ایسا ہے جس کا علاج کسی سے ممکن نہیں اور یہ کہ شمع کا ذکر صرف تمثیل کے لیے کیا گیا ہے ورنہ اظہار اپنی حالت کا منظور ہے (یا کسی بھی ایسے شخص کی حالت کا جس کا درد لا علاج ہو اور جس کے چارہ گر بالکل مجبور ہوں)۔ میں صرف چند مضمرات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) پہلا مصرع تمثیل اور دوسرا مصرع بیان ہو سکتا ہے۔ یعنی دوسرے مصرعے میں عام بات کہی گئی کہ جب غم جاں گداز ہو تو غم خوار مجبور ہوتے ہیں۔ مصرع اولیٰ میں اس کی مثال دی گئی کہ شمع کو دیکھیے کس طرح گھلتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل بزم اس کے ہی خواہ نہیں ہیں، لیکن کریں تو کیا کریں، شمع کا درد ایسا ہے کہ اس پر کسی کی کچھ چلتی نہیں۔ عام شرح کے مطابق مصرع اولیٰ میں بیان کردہ Particular (مقدمہ صغریٰ) سے General (مقدمہ کبریٰ) مستنبط کیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا شرح کے مطابق کبریٰ سے صغریٰ کی طرف صعود ہے۔

(۲) شمع رات بھر جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، اس لیے اس کا غم جاں گداز کہا گیا ہے لیکن اس کے جلنے اور پگھلنے کا آسان علاج یہ ہے کہ اس کو بجھا دیا جائے، یعنی اس کی زندگی ختم کر دی جائے۔ رات ختم ہوتے ہوتے اس کو جل مرنا تو ہے ہی، پھر اسے ساری رات کا کرب برداشت کرنے پر کیوں مجبور کیا جائے؟ ایک پھونک مار کر اس کو بجھا ڈالیں تو شمع کی تکلیف ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی مریض کو لا علاج مرض کی

شدید اور طویل تکلیف یا ذہنی اور جسمانی انحطاط کے باعث مردہ بدست زندہ والی زندگی گزارنے سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ اسے موت کی نیند سلا دیا جائے۔ Euthanasia یعنی لاعلاج مریض کی زندگی ڈاکٹر کے ہاتھوں ختم کر دینا (جسے Mercy Killing بھی کہتے ہیں) اخلاقی اور مذہبی طور پر غلط ہے یا صحیح؟ یہ سوال تمام دنیا اور ہر زمانے کے اطباء کے لیے لائٹل مسئلہ رہا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جب کوئی سبیل افاقے یا تخفیف درد کی نہ ہو تو مریض کو مار ڈالنا اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ آخر پاشکتہ گھوڑے یا کمر شکستہ کتے کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ انسانی جان محترم اور مقدس شے ہے۔ طبیب کا کام جان بچانا ہے نہ کہ جان لینا۔ مرض چاہے کیسا ہی لاعلاج ہو، لیکن طبیب کا فرض ہے کہ وہ مریض کی آخری سانس تک اس کے معالجے کی کوشش کرتا رہے۔ شمع کی لاعلاج جاں گدازی اور اس کی حتمی موت کی تمثیل کے ذریعے غالب نے اس مسئلے کو بڑی خوبی سے واضح کیا ہے۔

(۳) اگر شمع کا سر قلم کر دیا جائے تو اس کا کرب ختم ہو جائے گا۔ شمع کا بجھ جانا اس کے حق میں اچھا ہی ہوگا لیکن جب شمع بجھے گی تو اندھیرا ہو جائے گا۔ پھر اہل بزم، جنہیں شمع کی بھی خواہی کا دعویٰ ہے، اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ اہل بزم کو روشنی درکار ہے، اپنی غرض پوری کرنے کے لیے وہ شمع کو تمام رات جلاتے ہیں۔ ورنہ ان کے ایک اشارے پر شمع کو اس طویل غسل آہستہ سے نجات مل سکتی ہے۔ لہذا اہل بزم دراصل شمع کے ہوا خواہ نہیں ہیں بلکہ اس کے خود غرض دشمن ہیں۔

(۴) غم ایسا جاں گداز ہے کہ اس کا نتیجہ موت ہی ہوگا۔ لیکن یہی موت اس غم کا علاج بھی ہے۔ یعنی علاج مرض سے بدتر ہے۔ انسان کی تقدیر ہی ایسی منحوس ہے کہ یا تو وہ بے اندازہ کرب سے یا طبیب مرگ کی بمیانک چارہ گری قبول کرے۔

(۵) پہلے مصرے میں استفہام انکاری نہیں، محض استفہام ہے۔ شمع کی بری حالت دیکھ کر کوئی پوچھتا ہے کہ کیا بزم کے لوگ اس کے ہوا خواہ نہیں ہیں کہ اس کو اتنی تکلیف میں دیکھتے ہیں مگر کچھ کرتے نہیں؟ دوسرے مصرے میں مجیب غم کی جاں گدازی

اور غم خواروں کی بے چارگی بیان کرتا ہے اور اس طرح اہل بزم کی طرف سے رنجیدہ اور محزون بیان صفائی دیتا ہے۔

(۶) 'شمع' کے اعتبار سے 'جاں گداز' بہت خوب ہے۔ 'ہوا' بمعنی 'باد' کا بھی اشارہ خوب ہے۔ اگر ہوا تیز ہو تو شمع بجھ جائے گی اور اسے جلنے سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن اگر ہوا نہ ہو تو شمع جل بھی نہیں سکتی، کیوں کہ جلنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے۔ لہذا 'ہوا خواہ' میں غالب کا مخصوص قول حال بھی موجود ہے۔ غضب کا شعر ہے۔

(۶۴)

ہیں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام  
مہر گردوں ہے چراغ رہ گزار بادیاں  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۱ء، قبل ۱۸۲۶ء)

استعارہ اور پیکر کی بے نظیر خوبی کے باعث یہ شعر کلام غالب میں بھی جگمگاتا ہوا معلوم ہوتا ہے، حالاں کہ دیوان غالب میں استعارہ و پیکر کی وہ رنگارنگی ہے کہ شہنشاہان میں پر تو خورشید کا عالم نظر آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شعر کا مفہوم کیا ہے؟  
محمد حسن عسکری کا خیال تھا کہ تصوف کے بارے میں غالب کا علم سطحی تھی، پھر بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب نے تصوف کے مضامین کثرت سے نظم کیے ہیں، چاہے انہوں نے خود ہی یہ بھی کہا ہو کہ ”آرائش مضامین شعر کے واسطے کچھ تصوف کچھ نجوم لگا رکھا ہے، ورنہ سوائے موزون طبع کے یہاں اور کیا رکھا ہے؟“ (بنام انوار الدولہ شفق)  
لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ غالب کو تصوف سے شغف تھا اور گہرا شغف تھا۔ اس کی دلیل ان کے مکتوبات ہی میں جگہ جگہ موجود ہے۔ اسی بنا پر اکثر شراح غالب کے مابعد الطبیعیاتی اشعار میں تصوف تلاش کرتے ہیں۔ شعر زیر بحث بھی اسی زمرے میں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس شعر کا مضمون تصوف پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس میں جدید سائنسی مادیت کا سارنگ ہے۔ تصوف کے اعتبار سے کائنات میں حق تعالیٰ کے اسمائے حسیٰ ہر وقت کارگر رہتے ہیں۔ بقول حضرت شاہ وارث حسن، کائنات میں یا مٹی اور یا ممیت کی جلوہ افروزی ہر وقت اور ہر جگہ ہے۔ ہر آن فنا ہے اور ہر آن فیضان وجود۔ ایسی صورت میں کائنات کے اجزا کے زوال آمادہ ہونے کا سوال نہیں اٹھتا۔

کیا غالب نے سورج کے طلوع و غروب سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اجزائے آفرینش روبہ زوال ہیں اور مہر گردوں کی حقیقت ہوا کے جھونکے کی راہ میں جلتے ہوئے چراغ سے

زیادہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ خیال درست نہیں، کیوں کہ سورج غروب ہو کر پھر طلوع ہوتا ہے۔ ملٹن نے اپنی نظم میں اسی وجہ سے سورج کے غروب و طلوع کو روح انسانی کے دوام کا استعارہ کیا ہے۔ لہذا اتنی سامنے کی بات سے ایسا اُلٹا نتیجہ مرتب کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔

مشہور سائنس دان سر جیمز جینس (Sir James Jeans) نے اپنی کتاب ’خورشید مرگ پذیر‘ (The Dying Sun) میں یہ نظریہ پیش کیا ہے (جواب متفق علیہ ہو چکا ہے) کہ سورج میں ہمہ وقت جوہری افتراق و امتزاج ہوتا رہتا ہے اور جوہری طوفان کے باعث سورج کی قوت اور گرمی پروٹان کی شکل میں سورج سے خارج ہوتی رہتی ہے۔ لہذا سورج کی تاب کار قوت کم ہوتی جا رہی ہے اور ایک وقت وہ آئے گا جب سورج بالکل بجھ کر رہ جائے گا۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ غالب کے غیر معمولی وجدانی علم نے جہاں ان سے بجز اگر بحر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا اور ہو گئے ہیں حج اجزائے نگاہ آفتاب جیسے شعر کہلائے، وہاں یہ شعر بھی کہلوا لیا جس کی بنیاد ایک ایسی سائنسی حقیقت پر ہے جس کی خبر اس زمانے میں اہل مشرق و مغرب کو نہ تھی۔

ایک نکتہ اور ہے۔ ’چراغ رہ گزار باؤ کو مرکب اضافی اور مرکب تو صغی فرض کیجئے۔ یعنی چراغ رہ گزار تو اضافی ہے اور چراغ رہ گزار اور باؤ کا ربط تو صغی ہے۔ لہذا اس کی نثر یوں ہوگی: وہ چراغ رہ گزار جس کا نام باد ہے۔ (مثلاً) کاغذ سادہ تقدیر کی نثر ہو سکتی ہے۔ ”وہ سادہ کاغذ جس کا نام تقدیر ہے“۔ اب مفہوم یہ نکلا کہ مہر گردوں یہاں اس چراغ رہ گزار کے مانند ہے جسے یاد کہتے ہیں۔ سورج کو زوال آمادہ کہہ کر اسے چراغ رہ گزار اور خود چراغ رہ گزار کو ہوا کے مماثل ٹھہرانا مرگ پذیر کی لیے نہایت لطیف و نازک اور مناسب استعارہ ہے۔ لیکن یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہوا کو چراغ سے تشبیہ کیوں کر دے سکتے ہیں؟ بظاہر ہوا اور چراغ میں کوئی مناسبت نہیں، لیکن غالب کا ہی شعر ہے:

’موجہ گل سے چراغاں ہے گذر گاہ خیال

ہے تصور میں زبس جلوہ نما موج شراب

ظاہر ہے کہ موجہ گل اور ہوا ایک ہی شے ہیں۔ ہوانے گذر گاہ کو چراغاں کر رکھا ہے، لہذا ہوا اور چراغ میں مناسبت ہے۔ جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ گل کو چراغ سے تشبیہ دیتے

ہیں، اس لیے موجہ گل سے چراغاں ممکن ہے۔ لیکن صرف لفظ 'ہوا' کو چراغ سے کیا مناسبت ہے؟ یہاں پھر غالب کا وجدانی علم کام آتا ہے۔ اوپر میں نے سورج کی سطح پر مسلسل بر بار رہنے والے جوہری طوفان کا ذکر کیا ہے۔ اس طوفان کے نتیجے میں پروٹان کا جم غفیر روشن گیس کی شکل میں سورج کے گرد کئی لاکھ میل تک پھیل جاتا ہے۔ اس روشن گیس کو 'بادخورشید' یعنی Solar wind کہتے ہیں۔ اب یہ بالکل ممکن ہے کہ بادخورشید کے اعتبار سے سورج کو ایسا چراغ کہا جائے جس کا نام 'باڈ' ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ چراغ کی لوہو کے زیر اثر بھڑک اٹھتی ہے۔ گویا چراغ کو روشن کرنے اور روشن رکھنے کے لیے ہوا خود آگ بن جاتی ہے۔ (آگ آکسیجن کے بغیر نہیں جل سکتی، یہ بھی سائنسی مسئلہ ہے۔ لہذا آگ کی بنیاد ہوا پر ہے)۔

ایک اور نکتہ غور طلب ہے۔ 'مہر گردوں' بھی مرکب تو صغی ہو سکتا ہے، بمعنی دھومتا ہوا سورج۔ سورج اپنے محور پر گردش کرتا ہے۔ اس کی یہ مسلسل گردش اس کے شعلے کو بھڑکاتی ہے۔ شعلہ جتنا زیادہ بھڑکتا ہے اتنی ہی جلدی وہ فرو بھی ہوتا ہے۔ اس طرح سورج کا گردش میں ہونا (یعنی مہر کو گردوں کہنا) خالی از علت نہیں۔ یہیں پر 'آفرینش' کی معنویت مزید واضح ہوتی ہے۔ آفرینش بمعنی تخلیق، یعنی از عدم در وجود آمدن۔ سورج کی قوت اس کے ذروں میں پنہاں ہے اور ان ذروں کی ٹوٹ پھوٹ اور تصادم و امتزاج کے باعث یہ قوت، روشنی اور گرمی کی شکل میں معرض وجود میں آتی رہتی ہے۔ لیکن اس مسلسل وجود میں بھی موت کی دلیل پوشیدہ ہے، کیوں کہ سورج گردش میں ہے۔ گردش تاب کار ذروں کو بھڑکاتی اور منتشر کرتی ہے، اس طرح ان کی قوت زائل ہوتی رہتی ہے۔ لہذا آفرینش بحیثیت آفرینش ہی زوال پذیر ہے۔ لفظ 'اجزا' بھی اب غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیوں کہ یہ سورج کے جوہری ذروں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔

ایک آخری نکتہ: "چراغ رہ گزار باد" کو مبتدا قرار دیجیے اور "مہر گردوں" کو خبر۔ اب مفہوم یہ نکلا کہ یہاں پر چراغ رہ گزار باد کی مثال مہر گردوں کی سی ہے۔ ہوا کے سامنے جلتا ہوا چراغ بھڑک اٹھتا ہے۔ لہذا یہ دھوکا ہو سکتا ہے کہ چراغ کی روشنی بڑھ رہی ہے۔ لیکن دراصل اس کی صورت حال اس سورج کی سی ہے جو اپنے نقطہ کمال یعنی نصف

النہار پر آتے ہی زوال پر مائل ہو جاتا ہے۔ اس زمین و بحر میں غالب نے اٹھارہ انیس برس کی عمر میں پانچ شعر کی غزل کہی تھی۔ اس میں سے کوئی شعر انتخاب میں نہ آسکا، لیکن ۱۸۲۱ء کے بعد پچیس چھتیس برس کے غالب نے زیر بحث شعر اور ایک شعر اور کہا، غزل کی صورت نہ بنی لیکن یہ دونوں شعر داخل دیوان ہوئے۔ (ملاحظہ ہو دیوان غالب، کمال از کالی داس گپتا رضا)۔ زیر بحث شعر کے رتبے کا کوئی شعر نہیں بلکہ اس کے نزدیک بھی کوئی شعر نہیں پہنچتا۔ یہ شعر تو رنگ سنگ ڈھنگ میں شاہوار ہے اور غالب جیسوں سے بھی بہ آسانی نہیں بن سکتا۔

(۶۵)

کوئی کہے کہ شب مہ میں کیا برائی ہے  
بلا سے آج اگر دن کو ابر و باد نہیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۵ء)

شعر کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ روز ابر یا شب ماہتاب ہو تو میں شراب پیتا ہوں۔ آج کے دن ابر و باد نہیں تو کیا ہوا؟ رات تو چاندنی ہوگی۔ رات میں شراب پینے کے مصرع اولیٰ کا ذوق و شوق، اس کا کنایاتی انداز (کہ شراب پینے کے بارے میں براہ راست ایک حرف نہ کہا، لیکن بات صاف کر دی کہ شراب کا ذکر ہے۔ یہ انتہا سے بلاغت ہے) اور خبر یہ کی جگہ انشائیہ اسلوب، یہ سب بہت خوب ہیں۔ لیکن کسی شارح نے یہ واضح نہیں کیا کہ ابر و باد نہ ہونے سے یہ کب ثابت ہوا کہ رات بھی چاندنی ہوگی؟ یہ صحیح ہے کہ اگر مطلع صاف ہوا اور تاریخیں مناسب ہوں تو حکم لگایا جاسکتا ہے کہ رات چاندنی ہوگی۔ لیکن صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ آج آسمان صاف ہے اس لیے رات چاندنی ہوگی۔ تعجب ہے کہ طباطبائی نے اس شعر کو مہمل نہ کیا اور یہ عقده بھی حل نہ کیا کہ دن کو ابر و باد کا نہ ہونا رات کی چاندنی کا ثبوت کیوں کر ہو سکتا ہے؟

واقعہ دراصل یہ ہے کہ رات چاندنی ہونے کا کوئی قرینہ نہیں، کوئی واضح امکان نہیں۔ متکلم اپنا جی خوش کرنے کو اپنے کو طفل تسلی دے رہا ہے کہ میاں دن کو ابر و باد نہیں تو کیا ہوا؟ گھبراؤ مت، رات کو پنی لیتا۔ چوں کہ دن کو آسمان صاف ہے اس لیے رات کو چاند بھی نکلے گا اور روشنی بھی ہوگی۔ اس طفل تسلی میں ایک طرح کی الم ناک بلکہ Desperate معصومیت ہے، جسے شراب کے عادی ہی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ یہی الم ناک معصومیت بچوں اور بوڑھوں کے بھی پُر امید اعتقادات میں نظر آتی ہے۔ اس کی بہترین مثال شیکسپیر کے ڈرامے 'کنگ لیئر' کا وہ منظر ہے جب بوڑھا بادشاہ اپنی مردہ بیٹی کارڈیلیا

کے منہ پر چڑیا کا پر رکھ کر معلوم کرنا چاہتا ہے کہ سانس کی آمد و شد باقی ہے کہ نہیں۔ (جس طرح ہمارے یہاں ناک کے آگے آئینہ رکھتے ہیں)۔ لیئر اپنی ہی سانس کے جوش سے پرکولرزاں دیکھ کر پکار اٹھتا ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ شیکسپیر اور غالب کے یہاں فرق صرف اتنا ہے کہ شیکسپیر کا مضمون المیاتی کیفیت سے بھرپور ہے اور غالب کے یہاں سادہ لوح معصومیت کا دور دورہ ہے۔ انسانی نفسیات پر دونوں کی گرفت ایک سی ہے۔

(۶۶)

جہاں میں ہوں غم و شادی بہم ہمیں کیا کام  
دیا ہے ہم کو خدا نے وہ دل کہ شاد نہیں

(زمانہ تحریر: ۱۸۵۵ء)

پہلے مصرعے میں نون غنہ اور میم کی آوازوں کے اجتماع نے اس کی غنائیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ جہاں تک سوال شرح کا ہے تو اس شعر کی بہت عمدہ شرح طباطبائی نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”مصنف نے یہ تازگی پیدا کی ہے کہ غم و شادی کے بہم ہونے پر حسرت ظاہر کی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں کیا کام، یعنی ہم تو محروم ہیں، ہمیں تو کبھی ایسی خوشی بھی حاصل نہیں ہوئی جو غم سے متصل ہو۔ اور شادی مخلوط بہ غم کی حسرت کرنے سے یہ معنی نکلتے ہیں کہ شاعر کو انتہائی غم زدگی ہے کہ اس بیچ و نا کارہ خوشی کی تمنا کرتا ہے۔“

لیکن ایک پہلو اور بھی ہے۔ غم و شادی کا بہم ہونا قانونِ فطرت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے: **إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا** (بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے)۔ اگر غم ہوگا تو خوشی بھی ہوگی اور خوشی ہوگی تو غم بھی ہوگا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ نہیں کہ ہمارے دل میں غم ہی غم ہے۔ دیا ہے ہم کو خدا نے وہ دل کہ شاد نہیں، انتہائی بلیغ عبارت ہے۔ اگر یہ کہا ہوتا کہ خدا نے ہم کو وہ دل دیا ہے جو سراسر مملو از غم ہے تو اور بات ہوتی۔ کہا یہ ہے کہ ہمارا دل وہ دل ہے جو شاد نہیں۔ تحت مفہوم یہ نکلا کہ دل بیکسر خالی ہے۔ اس میں غم بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر خدا نے غم دیا ہوتا تو خوشی بھی عطا کرتا۔ جب غم نہیں دیا تو گویا کچھ نہیں دیا۔ اس مفہوم کی پشت پناہی غالب کے ایک فارسی شعر سے بھی ہوتی ہے جو بے خود موہانی نے نقل کیا ہے،

لیکن اس نکتے کو وہ بھی نظر انداز کر گئے ہیں:

از درختان خزاں دیدہ نہ باشم کیس ہا  
ناز بر تازگی برگ و نوا نیز کنند

میں خزاں رسیدہ درخت بھی نہیں ہوں، کیوں کہ جس درخت پر خزاں آتی ہے اس پر بہار بھی کبھی آتی ہی ہے اور کبھی تو وہ اپنی سرسبزی پر ناز کرتا ہے۔ میں تو وہ درخت ہوں جس پر خزاں آئی نہیں جو بیکسر محروم رہا۔ اردو کا شعر بلیغ تر ہے، کیوں کہ اس کا مصرع ثانی مکمل نفی کی مثال ہے۔

(۶۷)

دائم پڑا ہوا ترے در پر نہیں ہوں میں  
خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۰ء)

یہ شعر بظاہر جتنا سادہ ہے، یہ باطن اتنا ہی معنی خیز ہے۔ اب تک جتنے معنی بیان کیے گئے ہیں سب دلچسپ اور مناسب ہیں۔ (۱) مجھ پر لعنت ہے کہ میں پتھر نہیں ہوں۔ اگر ہوتا تو تیرے در پر دائم پڑا رہنے کی سعادت نصیب ہو سکتی تھی۔ (۲) دیکھ، کیا میں تیرے در پر دائم پڑا ہوا نہیں ہوں؟ مجھ پر لعنت ہے، میں پتھر تو ہوں نہیں کہ اس طرح سب کے قدموں تلے روند جاؤں۔ (۳) لوگ مجھ کو طعن و تشنیع کا ہدف بناتے ہیں کہ تو معشوق کے دروازے پر کیوں نہیں جا کر پڑ رہتا۔ میں انسان ہوں پتھر تو نہیں ہوں۔ اگر پتھر ہوتا تو اس طعن و تشنیع کو سہا سکتا اور شاید تیرے در تک پہنچنا ممکن بھی ہو جاتا۔ (۴) مجھے صرف دروازے تک رسائی ہے، یعنی بس اتنی جتنی سنگ در کی ہوتی ہے۔ لیکن میں تو انسان ہوں، مجھے تو حریم ناز میں باریاب ہونا چاہیے تھا۔ لعنت ہے اس زندگی پر جو انسان ہوتے ہوئے بھی سنگ در کی طرح جی رہا ہوں۔

اچھا اب دیکھیے اس شعر میں حسب ذیل نکتے اور نکل سکتے ہیں۔ چوتھا مفہوم بیخود موبانی نے بیان کیا ہے۔ یہ لطیف مفہوم لفظ 'در' پر توجہ کرنے سے حاصل ہوا ہے۔ پیش تر شرح لفظ 'پتھر' کو توجہ کا مرکز بناتے رہے ہیں۔ ایک تیسرا لفظ جو غور و تفحص کا مستحق ہے، 'دائم' ہے۔ 'دائم' بمعنی 'ہمیشہ'، مستقل، جس کو دوام ہو، فنا نہ ہو۔ اس آخری معنی کے اعتبار سے 'دائم' اللہ کا اسم صفت بھی ہے۔ 'دائم' کو لفظ 'زندگی' سے ملائیے تو کیا صورت بنتی ہے؟ مضمرات کے اعتبار سے 'زندگی' میں فنا کا مفہوم بھی شامل ہے، کیوں کہ زندگی

مخلوقات کی صفت ہے اور مخلوقات فانی ہیں۔ لیکن بعض مخلوقات کو دوام زیادہ ہے اور بعض بہت جلد فنا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً انسان کی زندگی کو دوام بہت نہیں۔ یہی کوئی سو ڈیڑھ سو برس۔ پتھر کو انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ بقا ہے سگی مجسمہ ہزاروں نہیں تو سیکڑوں برس ضرور قائم رہتا ہے، جب کہ انسان کی عمر صدیوں میں نہیں بلکہ دہائیوں میں گئی جاتی ہے۔ میری زندگی (جو انسانی ہونے کے باعث کم دوام رکھتی ہے) کس قابل ہے؟ کاش کہ میں پتھر ہوتا تو مجھے تیرے در پر سیکڑوں سال پڑے رہنے کی سعادت تو نصیب ہو سکتی تھی۔ پھر پتھر میں یہ خوبی بھی ہے کہ جب پڑا تو پڑا رہ گیا۔ انسان کی طرح اسے ہلنے چلنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ میں اس انسانی زندگی کے بجائے پتھر کی زندگی لے کر آتا تو بہتر تھا۔

اب لفظ 'زندگی' پر غور کیجیے۔ 'زندگی' بمعنی حیاتیاتی مفہوم میں جاندار ہونا۔ یعنی خدا نے مجھے زندگی عطا کی، جاندار بنایا۔ خاک ہے ایسی زندگی بخشے جانے پر۔ یہ زندگی میرے کس کام کی ہے؟ یہ فانی بھی ہے اور لا حاصل بھی۔ لا حاصل اس لیے کہ اس کا مقصد (در محبوب پر پہنچ جانا) پورا نہیں ہو سکتا۔ پتھر بنایا گیا ہوتا تو مجھ میں عشق اور تمنا کی صلاحیت نہ ہوتی۔ اور اگر رگ سنگم شرارے می نو یسم کے مصداق مجھ میں شرار عشق ہوتا بھی تو اس کا امکان تو رہتا کہ میں تیرا سنگ در بن جاؤں گا اور دائم تیرے در پر پڑا رہوں گا۔ مجھے انسان بنا کر خلق کیا گیا ہے، اس لیے یہ امکان بھی نہ رہا۔

لفظ 'دائم' میں ایک پہلو اور بھی ہے اور اس کا تعلق 'زندگی' سے ہے۔ اگر میں پتھر بنایا گیا ہوتا تو انسانی زندگی کے مقابلے میں دیر پا ہوتا۔ لہذا میرے اندر شرار عشق کو طویل تر مدت حیات ملتی اور اس طرح مجھے طویل تر عرصہ آرزو مل جاتا۔ دنیا میں آرزو کے سوا دھرا ہی کیا ہے جس کے لیے جیا جائے؟ اس طرح یہ شعر سورہ نجم کی مشہور آیت امّ لیلانسان مآتمنی (کیا انسان کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟) کی انتہائی بلیغ و جمیل تفسیر بن جاتا ہے۔

چلتے چلتے 'خاک' اور 'پتھر' کی لطیف رعایت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ نکتہ بھی عام شارحین کی نظر سے بچ نکلا ہے۔



(۶۸)

سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں  
خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۲ء)

میر نے اس مضمون کو کئی بار باندھا ہے اور ہر بار کوئی نیا انداز اختیار کیا ہے۔ ناسخ  
نے بھی اس مضمون کو اختیار کیا ہے۔ ممکن ہے ان سب کا سرچشمہ خسرو کا مندرجہ ذیل شعر  
رہا ہو:

اے گل چو آمدی بہ زمیں گو چگونہ اند  
آں روے ہاکہ در تہ گرد فنا شدند

خسرو کا مضمون ذرا مختلف ہے، لیکن اس میں جو اشارہ ہے کہ پھول وہیں اگتا ہے جہاں  
چہرے در تہ گرد فنا ہیں۔ اس سے میر، ناسخ اور غالب کے اشعار کی راہ کھلتی ہوئی معلوم  
ہوتی ہے۔ فی الحال میر کا صرف ایک شعر اٹھاتا ہوں اور ناسخ و غالب کے شعروں کے  
ساتھ محاکمہ کرتا ہوں:

ہیں مستحیل خاک سے اجزائے نو خطاں  
کیا سہل ہے زمیں سے کلنا نبات کا

(میر)

ہو گئے ذن ہزاروں ہی گل اندام اس میں  
اس لیے خاک سے ہوتے ہیں گلستاں پیدا

(ناسخ)

سب سے پہلی بات تو یہ کہ غالب کے دونوں مصرعے انشائیہ (استفہامیہ) ہیں۔ میر کا

مصرع ثانی استفہامیہ (انشائیہ) ہے۔ ناسخ کے دونوں مصرعے خبریہ ہیں۔ عام قاعدہ ہے  
کہ خبر کے مقابلے میں انشا بہتر ہوتی ہے۔ لہذا ناسخ کا شعر اس خوبی سے بالکل محروم ہے  
اور میر کا ایک مصرع اس خوبی سے مصحف ہے، غالب کے دونوں مصرعوں میں یہ خوبی  
ہے۔ میر کے یہاں ایک لطیف رعایت ہے۔ 'خط' کو چوں کہ سب فرض کرتے ہیں اس لیے  
'نو خطاں' اور 'نبات' (یعنی ہر ہالی) میں عمدہ مناسبت ہے۔ غالب کے یہاں کوئی رعایت  
نہیں۔ ناسخ کے یہاں 'گل اندام' اور 'گلستاں' میں رعایت ہے، لیکن اس میں کوئی ندرت  
نہیں اور شعر میں کوئی معنوی حسن اس رعایت کے باعث نہیں پیدا ہوتا ہے۔

ناسخ کے شعر میں وضاحت کی کوشش اس قدر ہے کہ اہمال پیدا ہو گیا ہے۔ تنخیل  
اور معنی آفرینی کے لیے کچھ چھوڑا نہیں گیا۔ خاک سے گلستاں پیدا ہونے کی قید بے معنی  
ہے، کیوں کہ گلستاں تو صرف خاک ہی سے پیدا ہوتے ہیں، سمندر یا آسمان پر تو گلستاں  
اُگتے نہیں۔ اور اگر خاک سے گلستاں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اس میں گل اندام ذن  
ہیں تو سمندر میں بھی ہزاروں گل اندام ذن ہیں۔ پھر سمندر سے گلستاں کیوں نہیں پیدا  
ہوتے؟ پھر 'ہو گئے ذن' سے کیا مراد ہے؟ کیا اب خاک میں گل اندام نہیں ذن ہو رہے  
ہیں؟ پھر ہزاروں ہی میں 'ہی' کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ لفظ 'ہی' صرف وزن کو  
پورا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔

میر کے شعر میں 'مستحیل' کے معنی معلوم ہوں تو شعر مشکل نہیں رہ جاتا، لیکن ابہام  
باقی ہے 'کیا سہل ہے' پر غور کیجیے۔ مقصود یہ ہے کہ جب نو خطوں کے اجزائے جسم خاک  
میں بالکل حل ہو جاتے ہیں تب جا کر نبات اُگتی ہے۔ انسان اور وہ بھی نوجوان، حسین  
انسان، جب خاک میں مل چکے ہیں تو سبزہ اپنا سر باہر نکالتا ہے۔ 'کیا سہل ہے' میں اشارہ  
یہ ہے کہ انسانی زندگی اس قدر کم قیمت ہے اور انسان اس قدر رانگاں جاتے ہیں کہ جب  
نوجوان اور حسین انسان خاک میں حل ہو جائیں تب کہیں گھاس اُگتی ہے۔ یعنی ایک  
قطعہ گھاس کی قیمت اُن گنت حسین انسانوں کے جسم و جان کی صورت میں ادا ہوتی  
ہے۔ 'ہو گئے ذن اس میں' کی جگہ ہیں مستحیل خاک سے، کہہ کر میر نے اس پر اسرار عمل کی  
طرف اشارہ کیا ہے جس کے ذریعے نامیاتی مادہ آہستہ آہستہ گل سر کر غیر نامیاتی، یعنی مٹی  
بن جاتا ہے۔ (اس زراعتی نکتے کو بھی ذہن میں رکھیے کہ مردہ جسم کی ہڈی اور گوشت

پوست کی کھا دنہایت عمدہ ہوتی ہے۔ ممکن ہے میر کو اس بات کا علم ہو یا محض وجدان ہو۔ یہ مٹی جب مردہ مٹی میں جذب ہو جاتی ہے تو ایک اور طرح کا نامیاتی وجود (جبات) وجود میں آتا ہے۔ اس طرح یہ شعر موت و زینت کی سائیکل کا استعارہ بھی بن جاتا ہے۔

’نکلنا‘ اُگنے کا بھی استعارہ ہے اور غیب سے ظہور میں آنے کا بھی۔  
 ناسخ کا شعر ان سب ايجاد سے خالی ہے۔ اب غالب کو دیکھیے۔ حسینوں کے لیے ناسخ نے ’گل اندام‘ کا سٹی اور روایتی پیکر استعمال کیا تھا۔ میر نے ’نوحطائ‘ کہہ کر جوانی اور کم عمری پر بھی دلالت کی اور ’جبات‘ کے ساتھ مناسبت بھی پیدا کی ہے۔ غالب نے کیا صورتیں کہہ کر چند در چند امکانات پیدا کیے ہیں۔ مثلاً مندرجہ ذیل پر غور کیجیے:

- (۱) وہ کیا صورتیں ہوں گی؟ (تجسس، استفہام)
- (۲) کیا (عمدہ) صورتیں ہوں گی (جن کا بدل حسین پھول ہیں) (تخیر)
- (۳) کیا کیا صورتیں ہوں گی؟ (تخسین)
- (۴) کیا صورتیں ہوں گی؟ (کون سی؟ کن لوگوں کی؟) (استفہام)
- (۵) بھلا کیا صورتیں ہوں گی؟ (کس طرح کی ہوں گی؟) (لاعلیٰ)
- (۶) جانے کیا صورتیں ہوں گی کہ پہاں ہو گئیں (تفکر)

یہ ہے انشائیہ انداز بیان کی معراج۔ لیکن ابھی صرف و نحو کے باعث پیدا ہونے والے امکانات کا تذکرہ باقی ہے۔ ملاحظہ ہو کہ دونوں مصرعوں میں تعہید کی وجہ سے ان کی تشریح و طرح سے ہو سکتی ہے اور دونوں صورتوں میں مفہوم مختلف پیدا ہوتا ہے۔

- (۱) سب کہاں نمایاں ہوئیں؟ صرف کچھ ہی صورتیں لالہ و گل کی شکل میں نمایاں ہو سکیں۔
- (۲) کچھ ہی لالہ و گل (ہیں، ان) میں سب صورتیں کہاں نمایاں ہو گئیں (یعنی ہو سکیں؟)

(۳) کیا صورتیں ہوں گی کہ خاک میں پہاں ہو گئیں۔

(۴) خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو کہ پہاں ہو گئیں۔

مصرع ثانی کی دوسری قرأت کا مفہوم یہ ہے کہ خاک بھی اپنی صورتیں رکھتی ہے۔ کچھ صورتیں تو لالہ و گل کی شکل میں نمایاں ہو سکیں، لیکن خدا جانے کتنی صورتیں اور ہوں گی جو

کہ پہاں ہو گئیں (بمعنی چھپ گئیں، ہم پر کبھی ظاہر نہ ہوں گے)۔ گویا اس صورت میں مدعا یہ نکلا کہ خاک، جو بظاہر مردہ ہے، دراصل نامیاتی وجود ہے۔ لالہ و گل اس کے مظاہر ہیں۔ ایسے ہی ہزاروں مظاہر اور بھی ہوں گے جو ہم پر ظاہر نہ ہوئے۔ تیر کے شعر کی طرح موت و حیات کی سائیکل کی جھلک یہاں بھی موجود ہے۔ یہ سب امکانات اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ غالب نے ابہام قائم رکھا ہے، وضاحت کی کوشش نہیں کی ہے، جیسا کہ ہم نے ناسخ کے یہاں دیکھا ہے۔

تیر کے شعر میں ایک جہت ایسی ہے جس سے غالب کا شعر خالی ہے۔ یعنی ایک طرح کی موت کے بدلے ایک طرح کی زندگی وجود میں آتی تو ہے، لیکن آسانی سے نہیں۔ نوحطوں کے اجزا خاک میں گھل مل جائیں تب ہی جا کر جبات اُگتی ہے۔ تخلیق اتنی آسان اور مشینی قسم کی حرکت نہیں ہے جو بلا کسی کرب کے یا کسی پہلے سے موجود نظام کو برہم کیے بغیر ہی وجود میں آجائے۔

غالب کے شعر میں لفظ ’نمایاں‘ بھی توجہ طلب ہے۔ ’نمودن‘ بمعنی ’کردن‘ و ’دیدہ شدن‘ ہے اور ’نمایاں‘ کے معنی ’دراز و عمیق‘ بھی ہیں۔ (اول الذکر بحوالہ ’برہان قاطع‘ مؤخر الذکر بحوالہ ’بہارِ عجم‘) نمائین، نمودن دونوں مصادر میں اُگانے یا اُگنے کے عمل کا شائبہ موجود ہے۔ لالہ و گل کی شکل میں حسین صورتوں کا نمایاں ہونا دراز قامتوں کے بالیدہ ہونے کی یاد دلاتا ہے۔ حسین پھولوں کے پودے جوں جوں اُگتے اور لمبے ہوتے ہیں، گم شدہ حسینوں کی بالا قامتی کا استعارہ مستحکم ہوتا جاتا ہے۔

’نمایاں ہو گئیں‘ سے ایک خیال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حسین صورتوں کا لالہ و گل کی شکل میں ظاہر ہونا محض اتفاقی اور ضمنی ہے۔ اس میں لالہ و گل کے ارادے کو دخل ہے اور نہ ان حسینوں کو، جن کی علامت بن کر لالہ و گل ظاہر ہوئے ہیں۔ اتفاقاً ظہور کا یہ اشارہ شعر کے مرکزی معنی (زندگی یا اس کا حسن، رائگاں جاتا ہے۔ وہ ایک صیدزبوں ہے وقت یا موت کا) کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ اس مفہوم کی تصدیق غالب کے مندرجہ ذیل شعر سے بھی ہوتی ہے:

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم

تو نے وہ گنج ہائے گراں مایہ کیا کیے

آخری بات یہ کہ خیام سے ایک رباعی منسوب ہے، ممکن ہے میر نے اس سے استفادہ کیا ہو، لیکن غالب کے شعر پر خیام کا کوئی اثر ظاہر نہیں۔ اگر غالب نے میر سے استفادہ کیا (جو اغلب ہے) تو اس رشتے سے غالب کا شعر خسرو اور خیام کے سلسلے کا بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ خیام:

ہر سبزہ کہ برکنار جوے رست است  
گویا زلب فرشتہ خوے رست است  
پا بر سر سبزہ تا بہ خواری نہ نہی  
کان سبزہ ز خاک ماہر وے رست است

(۶۹)

یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں  
لیکن اب نقش و نگار طاق نسیاں ہو گئیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۲ء)

تمام شرح اس شعر کی تشریح میں متحد الخیال ہیں۔ متداول شروع کا خلاصہ یوں بیان کیا جاسکتا ہے:

مصرع اولی: ایک زمانہ تھا جب ہم کو بھی طرح طرح کی بزم آرائیاں یاد تھیں یا طرح طرح کی بزم آرائیاں کرنے کا فن ہمیں آتا تھا۔  
مصرع ثانی: لیکن اب تو سب کچھ بھول گیا ہے۔

اس شعر کی بے مثال خوب صورتی نے سب کو اس درجہ مبہوت کر رکھا ہے کہ کسی کو یہ خیال نہ گزرا کہ متداول شرح کی روشنی میں شعر ناقص ٹھہرتا ہے، کیوں کہ اس میں تکرار ناروا پائی جاتی ہے۔ اس تکرار کا نتیجہ یہ ہے کہ مصرع ثانی بالکل بے کار ہوا جاتا ہے۔ مصرع اولیٰ میں کہا گیا کہ مجھے کچھ چیزیں بھی یاد تھیں۔ دوسرے مصرعے میں کہا جا رہا ہے کہ لیکن اب میں انھیں بھول چکا ہوں۔ تکرار واضح ہے۔ جب یاد تھیں کہہ دیا تو یہ بات از خود صاف ہو گئی کہ اب یاد نہیں رہ گئیں۔ لہذا دوسرے مصرعے میں نقش و نگار طاق نسیاں کی چمک دمک کے باوجود کوئی اصلی بات نہیں کہی گئی ہے۔ عام بول چال میں تو ایسی تکرار عام ہے۔ (سوال: کیا آپ کو غالب کی فلاں غزل یاد ہے؟ جواب: یاد تھی لیکن اب بھول چکا ہوں یا بھول گیا ہوں)۔ لیکن شعر کی دنیا میں جہاں ہر حرف قیمتی اور معنی خیز ہونا چاہیے، ایسی تکرار کو داخلہ دینا فن کا خون کرتا ہے۔ ہوا یہی ہے کہ عام بول چال کا تکراری کردار ہمارے تحت شعور میں جا گزریں ہے اور اسی وجہ سے ہمیں یہ محسوس نہ ہوا کہ مروج شرح کی

رو سے شعر زیر بحث مہلک تکرار کا شکار ہو گیا ہے۔

اب یا تو اس شرح کو تسلیم کیا جائے اور یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ اس شعر کے بارے میں جو رائے عام ہے کہ یہ نہایت عمدہ شعر ہے، وہ رائے غلط ہے۔ یا اس کی کوئی اور شرح تلاش کی جائے جو شعر کا حسن تو برقرار رکھے لیکن تکرار کے عیب کو دور کر دے۔ یہ اس لیے کہ شاعری کے عمدہ یا کمزور ہونے کے بارے میں جو رائے عام طور پر مشہور ہو جاتی ہے وہ اکثر صحیح ہوتی ہے، لیکن اس میں تنقیدی تجزیے کو دخل نہیں ہوتا بلکہ ایک طرح کا جبلی احساس ہو جاتا ہے کہ شعر اچھا ہے۔ چنانچہ شعر زیر بحث اگر سب لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو کوئی بات ضرور ہوگی۔ اگر واقعی تکرار ہوتی تو شعر کے بارے میں سب لوگوں کی رائے یہ نہ ہوتی کہ شعر اچھا ہے۔

اس شعر کی کلید طاق نسیاں ہے۔ رنگارنگ بزم آرائیاں اب طاق نسیاں کے نقش و نگار ہو گئی ہیں۔ اگر صرف یہ کہا ہوتا کہ بھول گئی ہیں تو تکرار کا الزام لازم آتا۔ لیکن کسی چیز کا طاق نسیاں کے نقش و نگار میں تبدیل ہو جانا، بھول جانے کے مرادف نہیں ہے۔ فارسی میں یہ محاورہ جس طرح مستعمل ہے (مثلاً بر طاق نسیاں زدن یا بر طاق نسیاں نہادن بحوالہ 'بہارِ عجم') وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ طاق نسیاں پر کوئی چیز آپ سے آپ نہیں پہنچ جاتی بلکہ ارادتا رکھی جاتی ہے۔ وہ بزم آرائیاں جو طاق نسیاں کے نقش و نگار بن گئی ہیں، آپ سے آپ اس منزل پر نہیں پہنچتی تھیں۔ میں نے انھیں طاق نسیاں پر رکھا، یعنی جان بوجھ کر بھلا دیا۔

لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ بزم آرائیاں اب طاق نسیاں پر بھی موجود نہیں ہیں۔ ان کی جگہ صرف نقش و نگار رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزم آرائیوں کو پہلے تو طاق نسیاں پر رکھا، پھر اس کے بعد اتنا عرصہ گزرا یا انھیں اتنی حدت سے بھلا دیا کہ ان یادوں کا بھی وجود عالم نسیاں میں نہ رہ کر صرف چند نقش و نگار کی صورت میں رہ گیا۔ طاق کی تزئین کے لیے اس پر یا اس کے چاروں طرف نقش و نگار بنا دیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نقش و نگار اصل شے نہیں ہوتے بلکہ اس کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ لہذا طاق نسیاں کے نقش و نگار گزشتہ بزم آرائیوں کی یادیں نہیں ہیں بلکہ ان یادوں کی یادیں ہیں۔ یعنی اب بس یہ یاد ہے کہ کچھ یاد تھا، کیا یاد تھا اب وہ بھی نہیں یاد رہ گیا۔

مختصراً: ایک زمانہ تھا جب مجھے بزم آرائیوں کا فن یاد تھا یا بزم آرائیاں یاد تھیں۔ اب یہ عالم ہے کہ میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے اور اس طرح کہ اب یہ بھی یاد نہیں کہ مجھے کیا یاد تھا۔

آخری بات یہ کہ 'طاق نسیاں' کے ساتھ 'نقش و نگار' کی مناسبت ظاہر ہے۔ لیکن 'رنگارنگ' اور 'نقش و نگار' میں جو مناسبت ہے اسے بھی ملحوظ رکھیے۔

(۷۰)

میں چمن میں کیا گیا گویا دبستان کھل گیا  
بلبلیں سن کر مرے نالے غزل خواں ہو گئیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۲ء)

بلبلوں کے غزل خواں ہو جانے کی کئی وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ بیخود موبہانی نے کہا ہے کہ یہ سب توجیہات دور از کار ہیں، کیوں کہ ان میں لفظ دبستان کو مرکزی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ بات سچے کی ہے، لیکن بیخود موبہانی کی اپنی تشریح بھی لفظ دبستان کے ساتھ انصاف نہیں کرتی۔ ان کا قول ہے کہ بلبلوں نے مجھے دیکھ کر نغمہ سرائی شروع کر دی، جس طرح استاد کو دیکھ کر بچے سبق پڑھنے لگتے ہیں۔ یہی بیان بیخود دہلوی کا بھی ہے، اس اضافے کے ساتھ کہ ”بلبل آواز خوش سن کر نغمہ سرائی کرنے لگتی ہے“۔ ان دونوں اقوال میں دبستان کو وہ مرکزی حیثیت نہیں حاصل ہو سکی جس کا تقاضا بیخود موبہانی نے کیا۔ اسی کی توجیہات سے بیخود موبہانی مطمئن نہیں ہیں، لیکن بعض باتیں اسی نے سچے کی کہی ہیں۔ مثلاً یہ کہ میں فصیح البیان تھا، اس لیے بلبلوں نے بھی میری نقل شروع کر دی۔ (یہ کم و بیش وہی نکتہ ہے جو بیخود دہلوی نے بیان کیا ہے۔) گویا کالفاظ اس نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بلبلوں کا نغمہ رنج ہونا اصل دبستان کا نقشہ نہیں ہے بلکہ ان کی زمزمہ سنجی سے جو شور پیدا ہوا وہ دبستان میں اٹھنے والے اس شور کی طرح تھا جب بہت سے بچے مل کر یہ آواز بلند سبق یاد کرتے ہیں۔ مولانا غلام رسول تہر فرماتے ہیں کہ میرے نالوں سے بلبلوں پر اتنا اثر پڑا کہ وہ زمزمہ بار ہو گئیں، گویا چمن نہ تھا ایک کتب تھا جس میں بچے آموختہ یاد کر رہے ہیں۔ یعنی مولانا تہر کے خیال میرے نالے میں اس قدر اثر انگیزی تھی کہ بلبلوں کا دل متاثر ہو گیا۔ یہ سب درست ہے، لیکن لفظ دبستان میں ابھی مزید امکانات ہیں۔

دبستان کو اگر غزل خواں سے ملائیے تو یہ خیال لامحالہ آتا ہے کہ دبستان دراصل دبستان کا مخفف ہے اور دبستان کے لغوی معنی مکتب نہیں ہیں بلکہ یہ معنی مجازی ہیں۔ شعر یقیناً تعلی کے مضمون میں ہے۔ لیکن یہ تعلی نالہ زنی سے زیادہ شاعرانہ مرتبے کے بارے میں ہے۔ میں نالہ کرتا ہوا چمن میں گیا۔ میرا نالہ بھی اس قدر موزوں اور شاعرانہ تھا کہ بلبلوں کو اس کے جواب میں غزل خواں ہونا پڑا۔ اس طرح دبستان کے معنی ہوئے ادب کدہ یعنی دبستان وہ جگہ ٹھہری جہاں شعر و ادب کا چرچا ہوتا ہے۔ میری نالہ زنی اس قدر حسین اور موزوں تھی کہ اس کے فیضان سے یا اس کی نقل میں یا اس کے رشک کی وجہ سے بلبلوں کو غزل سرائی کرنی پڑی۔ لفظ غزل خواں کی یہاں خاص اہمیت ہے کیوں کہ بلبل تو نغمہ زن یا نالہ زن ہوتی ہی ہے۔ اب جو اس نے میرا نالہ موزوں سنا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے جواب میں عام نغمہ سرائی کافی نہیں بلکہ غزل خوانی درکار ہے۔ دل سے اٹھنے والے نالے کو غالب نے ایک جگہ کلام موزوں اور موسیقی پر فوقیت دی ہے:

موزونی دو عالم قربان ساز یک درد  
مصراع نالہ نے سکتے ہزار جا ہے

شعر زیر بحث میں وہ اپنے نالے کو نالہ بلبل پر ہی نہیں بلکہ اس کی غزل سرائی پر بھی فوقیت دے رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل فارسی اشعار میں یہ نکتہ نہیں ہے اور معنی کے چند در چند پہلو بھی نہیں ہیں۔ لہذا ان کے مقابلے میں غالب کا شعر برتر ٹھہرتا ہے۔  
نعت خاں عالی:

آب و رنگ گلستان عشق اکتوں از من است  
عند لیباں ہر چہ گویند مضمون از من است

شیخ علی حزیں:

بہار عکس رویت در چمن جو شے زد و گل شد  
فقاں از سینہ ام برخاست شکلے بست و بلبل شد

لیکن حکیم حسین شہرت نے اس مضمون کا ایک پہلو لے کر اس پر ایک اور مضمون بڑھایا

ہے اور وہ کیفیت و عذرت حاصل کی ہے کہ اس کے سامنے سب پھیکے پڑ گئے ہیں:

یک نفس و اشدنی داشت دلم گل زد و برد  
مصرع ناله زمن بود کہ بلبیل زد و برد

ناتخ نے البتہ اپنے خاص رنگ میں مزے دار شعر اس مضمون پر کہا ہے:

عند لیبیں کہتی ہیں سن کر صریر کلک کلک  
توڑیں منقاروں کو اب اس داغ کی منقار پر

(۷۱)

وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار  
جو مری کوتاہی قسمت سے مڑگاں ہو گئیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۲ء)

اس شعر میں نظا ہر کوئی پچھیدگی نہیں ہے۔ بیخود موہانی نے بڑی حد تک صحیح لکھا ہے: ”اس نے مجھے کبھی نظر بھر کر نہ دیکھا..... پھر بھی میرے دل کا یہ حال ہوا جاتا ہے۔ کبھی آنکھ ملا کے دیکھتا تو دل کی کیا حالت ہوتی؟“ اسی نے بھی کم و بیش ٹھیک کہا ہے کہ دل میں ہر وقت ایک کھٹک سی رہتی ہے، اگرچہ نگاہیں چھوٹی ہیں۔ دونوں کے بیان کردہ مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں، لیکن دونوں ہی کو یہ غلط فہمی ہے کہ نگاہیں جب مختصر ہوتیں تو مڑگاں بن گئیں۔ حالاں کہ شعر کے بموجب اختصار کا تعلق کوتاہی قسمت سے ہے نہ کہ نگاہوں سے۔ ”میری قسمت کوتاہ تھی“ اس فقرے کے معنی ہوتے ہیں ”میں بد نصیب تھا“ لغوی مفہوم یہ ہوا کہ میری قسمت چھوٹی تھی۔ چھوٹی قسمت سے مراد یہ ہوئی کہ اس کی پہنچ محدود تھی۔ (اسی لیے قسمت کی یادری کو قسمت کی رسائی بھی کہتے ہیں۔) شعر زیر بحث میں نکتہ یہ ہے کہ قسمت اس قدر کوتاہ تھی کہ نگاہیں مبدل بہ مڑگاں ہو گئیں۔ یعنی جہاں عام حالات میں نگاہ سے کام لیتے ہیں (یعنی نگاہ کو آنکھ سے باہر بھیجتے ہیں) وہاں معشوق نے مڑگاں سے کام لیا۔

جوش ملیحانی نے بالکل درست لکھا ہے کہ ”نگاہیں میری قسمت کی کوتاہی کے سبب سے بوجہ شرم مڑگاں بن کر رہ گئیں“۔ اگرچہ ”شرم“ کی قید ضروری نہیں، لیکن مصرع ثانی کا بہترین مفہوم یہی ہے۔ نگاہوں کے مڑگاں بننے سے مراد یہ ہوئی کہ نگاہوں کا وجود باقی نہیں رہا۔ آنکھ سے نگاہ نکلتی ہے۔ نگاہ کی صفت طوالت ہے، لیکن میری قسمت اتنی چھوٹی

(تارسا) ہے کہ اس کے اعتبار سے معشوق کی نگاہ بھی چھوٹی ہی رہی اور اتنی چھوٹی کہ آنکھ سے نکلی نہیں۔ اس کی جگہ صرف مڑگاں کا عمل دخل رہا۔ یعنی جب اس نے میری طرف رخ کیا بھی تو دیکھا نہیں، میں نے صرف اس کی مڑگاں کو متوجہ پایا، اس کی نگاہ کو نہیں۔  
غالب نے یہ مضمون تیر سے لیا ہے:

بڑھتیں نہیں پلک سے تاہم تلک بھی پہنچیں  
پھرتی ہیں وہ نگاہیں پلکوں کے سائے سائے

تیر کے یہاں پردہ، تاریکی، سایہ اور ان کے ساتھ ساتھ حرکت کا پیکر اس طرح جمع ہو گئے ہیں کہ لاجواب شعر بن گیا ہے۔ غالب نے اگر مصرع اولیٰ کو استفہامی (انشائیہ) اسلوب نہ دیا ہوتا اور تجربے کو قول محال کے رنگ میں نہ پیش کیا ہوتا تو تیر کے سامنے ٹھہرنا محال تھا۔ غالب نے جہاں جہاں تیر سے یا کسی اور سے استفادہ کیا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات معنی یا مضمون کی ضرور رکھ دی ہے جس کی بنا پر ان کی انفرادیت قائم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے تیر کے مضامین کو بہت استعمال کیا ہے، ان میں غالب کے علاوہ آتش بھی ہیں۔ آتش نے تقریباً ہمیشہ تیر کا مضمون پست کر کے باندھا ہے اور غالب نے یا تو تیر سے برابری قائم رکھی ہے یا کوئی پہلو ڈال کر اپنا شعر تیر کے شعر سے اس قدر منفرد کر لیا ہے کہ اکثر تو گمان بھی نہیں گزرتا کہ تیر بھی یہ مضمون باندھ چکے ہیں۔

(۷۲)

بس کہ روکا میں نے اور سینے میں ابھریں پے بہ پے  
میری آپیں عجزِ چاک گریباں ہو گئیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۲ء)

جوشِ ملیحانی کا خیال ہے کہ آہوں کی نئی اور اچھوتی تشبیہ کے سوا شعر میں کچھ نہیں (گویا نئی اور اچھوتی تشبیہ کسی شعر کو خوب صورت بنانے کے لیے کافی نہیں)۔ طباطبائی اس شعر کو مضمون کے اعتبار سے مہمل کہتے ہیں، لیکن سینے اور سینے میں ضلع کا جو لطف ہے اس کی طرف سب سے پہلے اشارہ بھی انھیں نے کیا ہے۔ یہ طباطبائی کے تعصب اور منصف مزاجی کا مخصوص اظہار ہے کہ جو شعر ان کی منطق پر پورا نہ اترتا اُسے مہمل کہہ دیا اور جو پہلو اس میں لطف کا نظر آیا اس کا ذکر بھی بے تکلف کر دیا۔ شعر بہر حال مہمل نہیں، کیوں کہ اس کی پیچیدہ تشریح (جو اسے واقعی مہمل بنائے دیتی ہے) سے قطع نظر کریں تو مندرجہ ذیل مفہیم جو باقر، یخود موہانی، جوشِ ملیحانی وغیرہ نے بیان کیے ہیں، اس کی معنویت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔

- (۱) بار بار ابھرتی ہوئی آہوں کو روکنے کے باعث آہوں کا زنجیرہ سا بن گیا۔
  - (۲) آہوں کے پیہم ابھرنے اور ضبط کیے جانے کی وجہ سے چاک گریباں (جو دل تک ہوا پہنچانے میں معاون ہوتا ہے) بے کار ہو گیا اور دم گھٹنے لگا۔
  - (۳) میں نے آہوں کو ضبط کیا، گویا چاک گریباں کو بجیہ کر لیا۔
- یہ سب اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن شعر میں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ مندرجہ ذیل نکات پر غور کیجئے:
- (۱) ضبط آہ کے باوجود ضبط نہ ہو سکا (ابھریں پے بہ پے) اس طرح آہوں کا

پے بہ پے اوپر آنا اور ان کا دابا جانا چاک کے بچنے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس میں بارہ کی یہ ہے کہ چاک گریباں کا بچہ بظاہر تو اس بات پر دال ہے کہ جنوں میں تخفیف ہوگی (کیوں کہ دیوانہ بچے پر راضی ہو گیا یا بچہ گروں کے قبضے میں آ گیا) لیکن یہ دراصل افزائش جنوں کی تمہید ہے، کیوں کہ آپس جب روکی گئیں تو بار بار ابھریں، یعنی اور بھی تند ہوئیں، کیوں کہ: ع

پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے

کے مصداق جب آہوں (= جنوں) کو روکا جائے گا تو ان میں افزائش ہی ہوگی۔ آپس زنجیر کی شکل میں چاک گریباں کے لیے بچنے کا کام کر رہی ہیں (بہت سے بٹن بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں زنجیر لگی ہوتی ہے) گویا سینے پر ایک بوجھ ہیں۔ میں اور زور سے آہ کروں گا، یعنی اس زنجیر کو ہٹاؤں گا اور گریباں پھر چاک ہوگا۔ پھر میں آہوں کو روکوں گا، لیکن وہ تو ابھرتی ہی جائیں گی۔ اس طرح چاک گریباں کا ایک سلسلہ بن جائے گا۔

(۲) آہ اگر لب تک آجائے تو منتشر ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ بار بار دبائی اور روکی گئی تو زنجیر کی شکل اختیار کر گئی، گویا مضبوط اور دیر پا اور مزید دل خراش ہو گئی۔

(۳) دیوانے کا گریباں بند ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ چاک گریباں کا بچہ ہو چکا ہے۔ وہ سمجھاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ آہوں کے بار بار ابھرنے اور دبائے جانے کی وجہ سے آپس سینے میں اس طرح پیوست ہو گئی ہیں کہ گریباں، جو چاک چاک پڑا ہوا تھا، سینے کے ساتھ سل گیا ہے اور بچہ چاک کی سی شکل بن گئی ہے۔ (آہ دل خراش ہوتی ہے، اس لیے سوئی کی طرح نوک دار ہو سکتی ہے۔ آہ کو جگر دوزا سی لیے کہا جاتا ہے اور آہ کو اسی نوک داری کے باعث دشنہ تیر، خدنگ وغیرہ سے تشبیہ بھی دیتے ہیں۔ سینے سلانے کی مناسبت سے آہ کو رشتہ [بمعنی دھاگا] سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو بہارِ عجم)۔

اس طرح یہ شعر حسنِ تعلیل کا اعلیٰ نمونہ ٹھہرتا ہے۔ مولانا سہانے 'آہ اور رشتہ' کی مناسبت کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن انھوں نے تعلیل کی طرف دھیان نہیں دیا ہے۔

(۴) گریباں چاک کی علامت ہے وحشت اور جنوں کی۔ آہ کو روکنا علامت ہے تمکین و ہوش کی۔ جب ہم پر وحشت کا زور تھا تو ہم نے گریباں کو چاک چاک کیا۔ جب ہم عالم تمکین و ہوش میں آئے تو ہم نے آہوں کو ضبط کیا، وہ ابھرتی رہیں اور ہم

انھیں دباتے رہے۔ اس طرح آہوں نے زنجیر بنا کر ہمارے چاک گریباں کو بچہ کر دیا۔ ہمیں بچہ گر کی حاجت نہ رہی۔

(۵) آہ علامت ہے انتشار کی اور بچہ علامت ہے حزم و ضبط کی۔ یہاں لطف یہ ہے کہ بچہ شدید انتشار یعنی شدت آہ کی علامت ٹھہرایا گیا۔ یہ غالب کا مخصوص قولِ محال کا انداز ہے۔ آہ کو روکنا گویا جنوں اور انتشار کو روکنا ہے اور اس کی علامت بچہ چاک ہے۔ لیکن غالب بچہ چاک کو آہوں کے بار بار ابھرنے کا نتیجہ بتاتے ہیں اور اس طرح معمول ثابت کرتے ہیں کہ اشیا کا نہ ہونا دراصل ان کے ہونے کی دلیل ہے۔



(۷۳)

جاں فزا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آگیا  
سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگ جاں ہوئیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۲ء)

طباطبائی لکھتے ہیں کہ 'گویا' کا لفظ عام طور پر بھرتی کا ہوتا ہے، لیکن یہاں کارآمد ہے کیوں کہ اگر یہ لفظ نہ ہو تو مبالغہ حد سے تجاوز کر جائے۔ مجھے یقین نہیں کہ غالب کو اس بات کی فکر رہی ہوگی کہ مبالغہ حد سے تجاوز کر رہا ہے کہ نہیں۔ مبالغہ اور مضمون آفرینی میں چولی دامن کا ساتھ ہے، کیوں کہ مضمون بننا ہے استعارے سے اور استعارے کی اصل مبالغہ ہے۔ لہذا لفظ 'گویا' اس شعر میں مبالغہ کم کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مطلب سے ہے۔

اس بظاہر سادہ سے شعر کے معنی میں مجھے عرصے تک تامل رہا۔ شراح نے اسے دو جملوں میں تمام کر دیا ہے کہ جام شراب ہاتھ میں آجائے تو روح بالیدہ ہوتی ہے، کیوں کہ ہاتھ کی لکیریں شہ رگ بن جاتی ہیں۔ لیکن شعر میں شراب کے جاں فزا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہاتھ کی لکیریں رگ جاں بن جاتی ہیں، تو مشکل یہ آپڑتی ہے کہ ہاتھ کی لکیروں کے رگ جاں بن جانے کا کوئی ثبوت شعر میں نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے رگ جاں بن جانے کا ثبوت درکار ہی نہیں، کیوں کہ لفظ 'گویا' سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لکیریں رگ جاں بنی نہیں ہیں بلکہ لگتا ہے کہ بن گئی ہیں تو بات بڑی حد تک بنتی ہے، لیکن یہ بات محتاج وضاحت پھر بھی رہتی ہے کہ شراب کس معنی میں جاں فزا ہے؟

اب شعر کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جام میں سرخ شراب بھری ہوئی ہے۔ جام ہاتھ

میں ہے شراب کی سرخی جام سے جھلک کر ہاتھ پر آتی ہے تو ہاتھ کی لکیریں سرخ معلوم ہوتی ہیں، گویا ہر لکیر زندہ خون سے بھری ہوئی شاہ رگ دکھائی دیتی ہے۔ اور جب ہاتھ کی خشک لکیریں بھی خون رواں سے پُر نظر آئیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شراب میں افزائش جاں کی قوت ہوتی ہے۔ اس شرح کی روشنی میں شعر کے تمام الفاظ کا رگر نظر آتے ہیں اور مصرع اولیٰ کے دعوے کا ثبوت بھی مہیا ہو جاتا ہے۔

ایک پہلو اور بھی ہے۔ ہاتھ میں جام آگیا' کا فقرہ اتفاق اور حادثے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی جام کا نصیب ہونا امر اتفاقی ہے، ہوا، ہوا، نہ ہوا، نہ ہوا۔ اگر نصیب ہو گیا تو زندگی ہی زندگی ہے اور نہ نصیب ہوا تو موت ہی موت۔ (کیوں کہ جب ہاتھ میں جام نہ ہوگا تو ہاتھ کی لکیریں رگ جاں کی طرح خون سے پُر نہ دکھائی دیں گی، بلکہ خشک نظر آئیں گی اور رگ جاں کا خشک ہو جانا موت نہیں تو اور کیا ہے؟)۔

ہاتھ کی لکیریں خط جام کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ شراب جس حد تک جام میں ہے اسی حد تک ایام زندہ ہے اور جس حد تک ہاتھ کی لکیریں شراب سے منور ہیں اسی حد تک کف دست، یعنی صاحب کف، زندہ ہے۔

مصرعین میں ہاتھ کی تکرار بظاہر ناروا معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر شعر کا مفہوم قائم نہیں ہوتا۔ مصرع اول میں ہاتھ میں جام آگیا' کے ذریعے رند کا جام پر قبضہ اور وہ بھی اتفاقی قبضہ ثابت ہوتا ہے۔ مصرع ثانی میں ہاتھ کا ذکر نہ ہو تو لکیروں کا رگ جاں بننا بے معنی ہوا جاتا ہے۔ مزید تفسیر کی ضرورت ہو تو مندرجہ ذیل تحریضیں ملاحظہ ہوں:

جاں فزا ہے بادہ جس کے پاس بھی جام آگیا

سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگ جاں ہوئیں

جاں فزا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آگیا

سب لکیریں جوش سے گویا رگ جاں ہوئیں

مضمون باقی ہے، لیکن مفہوم منعقد نہیں ہوا، کیوں کہ ہاتھ کا لفظ ایک مصرعے سے غالب ہے۔ اس قدر معمولی مضمون پر ایسا اچھوتا شعر کہنا غالب ہی کے بس کی بات تھی۔

(۷۴)

ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم  
ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۲ء)

اس شعر کی تشریحات عام طور سے مصرع ثانی پر زیادہ توجہ صرف کرتی ہیں۔ بیخود دہلوی نے حالی کی شرح اختیار کی ہے، جس کی رو سے مذاہب اور ملتیں محض رسوم کی طرح ظاہری اور سطحی ہیں۔ یعنی مصرع اولیٰ میں 'رسوم' استعارہ ہے، مصرع ثانی میں لفظ 'ملتیں' رسوم ایمان کا اثبات نہیں کرتی ہیں بلکہ ایمان کی نفی کرتی ہیں۔ لہذا ان کے مٹنے کے بعد ہی ایمان قائم ہوتا ہے۔ یہ شرح کئی اعتبار سے ناقص ہے۔ اول تو یہ کہ اس میں لفظ 'موحد' پر مناسب توجہ نہیں دی گئی، دوسری بات یہ کہ ترک رسوم اور چیز ہے اور ملتوں کا ثنا اور چیز۔

یوسف سلیم چشتی 'موحد' کو 'مومن' کے معنی میں لیتے ہیں، جو ذرا تعجب انگیز ہے، کیوں کہ 'موحد' کی اصطلاح ہی اس لیے وجود میں آئی کہ موحد کا مومن ہونا شرط نہیں۔ شوکت میرٹھی کو اس نکتے کا تھوڑا سا احساس ہے، کیوں کہ وہ اس شعر کی شرح 'الصوفی لامذہب لہ (صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا) کے حوالے سے کرتے ہیں۔ لیکن اس میں قباحت یہ ہے کہ اسلامی صوفیا کی نظر میں موحد کی معرفت مشکوک ہے، لہذا اس شعر پر نئے سرے سے غور کرنا چاہیے اور چوں کہ پورا شعر اس دعوے کا تابع ہے کہ 'ہم موحد ہیں' اس لیے اس اصطلاح پر غور کرنا ضروری ہے۔

اصطلاحی اعتبار سے 'موحد' وہ شخص ہے جو خدا کی وحدانیت کا قائل ہو لیکن رسول کو نہ مانتا ہو۔ اسلامی صوفیوں کی طرح موحد بھی تعلق مع اللہ اور وصول الی اللہ کو اپنی منزل

جاتا ہے، لیکن رسالت کا قائل نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی صوفیوں کی نگاہ میں غیر معتبر اور گمراہ ٹھہرتا ہے۔ غیر اصطلاحی معنی میں 'موحد' وہ شخص ہے جو 'توحیدی' عقیدے کا ہو، یعنی جو وحدت الوجود کو مانتا ہو۔ مجازاً 'بکے مسلمان' کو بھی 'موحد' کہتے ہیں۔ غالب نے اپنے بعض خطوط میں خود کو 'موحد' اسی معنی میں کہا ہے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔

شعر میں کہا گیا ہے کہ ہم موحد ہیں اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم رسوم (یعنی ظاہری مذہبی طور طریقے) ترک کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں 'موحد' اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ شخص جو خدا کی وحدانیت کا قائل ہے، لیکن مذہب کا قائل نہیں۔ اس تشریح کی روشنی میں دوسرا مصرع کسی اصول یا قلیے کا اظہار کرنے کے بجائے ذاتی عقیدے اور عمل کا اظہار کرتا ہے کہ موحد ہونے کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں کہ مذہب نہ رکھنا ہی اصل مذہب ہے۔ اس طرح یہ شعر بھی غالب کے مخصوص انداز کا قول محال پیش کرتا ہے اور مصرع ثانی کسی تاریخی حقیقت سے زیادہ انفرادی دریافت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ نکتہ بھی دلچسپ ہے کہ مذہب کو مٹانے یا ترک کرنے کی شرط پہلے اسے حاصل کرنا ہے ورنہ جو چیز دل میں ہے ہی نہیں، اسے مٹانا کیا معنی رکھتا ہے؟

(۷۵)

شوریدگی کے ہاتھ سے ہے سر وبال دوش  
صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۶ء)

اس شعر میں دو نکتے ہیں جن کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں دی ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے مصرعے میں 'ہاتھ'، 'سر' اور 'دوش' میں مراعات النظیر ہے۔ دوسری بات یہ کہ شعر کا متداول مفہوم لطف سے عاری ہے۔ (میرا سر کا ندھے کے لیے ایک وبال ہے۔ کاش کہ صحرا میں کوئی دیوار ہوتی تو میں سر پھوڑ ڈالتا)۔ علاوہ بریں، اگر مفہوم یہی ہے تو شوریدگی کے وفور کے باعث صحرا میں آنا بے معنی ہوا جاتا ہے۔ شوریدگی کا وفور اس قدر ہے کہ سر وبال دوش ہے۔ اسے پھوڑ ڈالنے کی ذہن ہے۔ لیکن اگر ایسا تھا تو گھر سے صحرا میں آنا چہ معنی دارد؟ گھر میں دیواریں ہی دیواریں ہیں وہیں سر پھوڑ ڈالتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ گھر منہدم ہو گیا ہے، اس میں دیواریں کہاں؟ تو سر پھوڑنے کے لیے شہر کی کوئی دیوار، کوئی چوکھٹ کافی ہے۔ اس کے لیے صحرا یا دیوار کی قید غیر ضروری ہے:

دفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا  
تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو

لہذا مصرع ثانی کا تاثر تماشائی نہیں بلکہ استعجابیہ اور آشفتمندی آمیز ہے۔ (ہیں! صحرا میں کوئی دیوار بھی نہیں ہے۔ اے خدا یہ کیسا صحرا ہے؟ اوہ! یہاں تو کوئی دیوار بھی نہیں ہے، سر کہاں پھوڑوں؟) اس طرح یہ شعر جنون کی انتہائی منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صحرا میں جہاں دیوار کا کوئی محل ہی نہیں، دیوار کے نہ ہونے پر استعجاب اور شکوہ (یا صرف

استعجاب یا صرف شکوہ) کیا جا رہا ہے۔ گویا کوئی کہے اے خدا سمندر میں پانی ہی پانی ہے، خشکی کہیں نہیں، میں گھر کہاں بناؤں؟ شعر کا مضمون سر پھوڑنا نہیں بلکہ جنون کی وہ منزل ہے جہاں متوقع اور غیر متوقع، عادی و غیر عادی، منطقی و غیر منطقی کی تمیز نہیں رہ جاتی۔ اگر محض سر پھوڑنا مقصود ہوتا تو صحرا میں آنا بے کار تھا۔ صحرا میں آنا اس لیے ہوا ہے کہ جنون اب اپنے کمال پر ہے۔

(۷۶)

اس سادگی پہ کون نہ مرجائے اے خدا  
لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۶ء)

ایک مضحکہ انگیز تشریح یہ ہے کہ شعر میں وصل کے وقت کی ہاتھ پائی کا ذکر ہے۔  
(ناخ:)

وصل کی شب پٹنگ کے اوپر  
مٹل چیتے کے وہ مچلتے ہیں

برسبیل تذکرہ یہ بھی عرض کر دوں کہ وصل میں ہاتھ پائی کا مضمون صرف بے چارے زوال  
آمادہ لکھنؤ اسکول کے شعرا ہی نہیں بلکہ ترقی یافتہ اور روشن خیال مغربی شعرا کے یہاں  
بھی ہے۔ چون کہ شعر میں ہنگام وصل کا کوئی اشارہ نہیں اس لیے ہاتھ پائی والے خیال  
کو ترک کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل باتوں پر غور کرتے ہیں:

(۱) اگر عام مفہوم لیا جائے تو دوسرے مصرعے میں 'تلوار بھی نہیں' کے بجائے  
'تلوار ہی نہیں' کا محل تھا۔ یعنی وہ اس قدر سادہ مزاج ہیں کہ لڑتے ہیں (= لڑ رہے ہیں)  
لیکن تلوار (آلہ جدال) ہی ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر 'بھی' پر اصرار کیا جائے تو یہ کہنا پڑے  
گا کہ تلوار بھی نہیں ہے، محض ڈنڈا یا کاٹھ کا خنجر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم یہاں مراد نہیں۔  
لہذا 'تلوار بھی نہیں' کی کچھ دوسری توجیہ ضروری ہے۔

(۲) اگر ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے (یعنی کچھ بھی نہیں ہے) تو لڑتے کس

طرح ہیں؟

(۳) سادگی کس بات میں ہے؟ ساز و سامان سے لیس نہ ہونا سادگی ہے یا

معشوق کا یہ اعتماد سادگی ہے کہ بے تیر تلوار مد مقابل کو مار لیں گے؟  
(۴) 'لڑنے' سے اگر ہاتھ پائی مراد نہیں تو کیا مراد ہے؟ مد مقابل کون ہے؟ ان  
سوالات کا شافی جواب یہ ہے کہ 'سادگی' کے دو معنی ہیں: (۱) عاری ہونا اور (۲)  
بھولا پن۔ غالب ہی کا ایک شعر ہے:

سادگی پر اس کی مرجانے کی حسرت دل میں ہے  
بس نہیں چلتا کہ پھر خنجر کف قاتل میں ہے

اس پر طباطبائی نے بہت صحیح لکھا ہے کہ سادگی سے مراد ترک زینت و آرائش ہے۔ اب  
شعر زیر بحث پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں بھی 'سادگی' اسی معنی میں  
ہے (عاری ہونا، اسی لیے نو عمر بچوں کو 'سادہ رو' کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ خط سے عاری ہوتا  
ہے۔) لہذا لڑنے سے مراد باقاعدہ جنگ و جدال نہیں بلکہ قتل عاشق ہے۔ معشوق کا کام  
عاشق کو قتل کرنا ہے اور قتل کا ذریعہ لڑنا ہے۔ غالب نے یہ استعارہ بھی برتا ہے:

کس دل پہ ہے عزم صف مرغان خود آرا  
آئینے کی پایاب سے اتری ہیں سپاہیں

لہذا 'تلوار' بھی اصلی اور مادی نہیں بلکہ استعاراتی ہے، یعنی بناؤ سنگھار اور زیبائش و  
آرائش۔

اب صورت حال یوں بنی کہ معشوق سامنے آگیا ہے (= جنگ کے لیے آمادہ  
ہے) لیکن وہ بناؤ سنگھار سے عاری ہے، یعنی آلات حرب سے محروم ہے۔ اس کا  
نہ ہونا اس کی سادگی ہے۔ دونوں معنی میں، یعنی وہ زینت و آرائش سے عاری ہے اور یہ  
بھی کہ وہ اس قدر بھولا ہے کہ حرب و ضرب کے فنون سے نا آشنا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا  
ہے؟ اس کی سادگی (عاری پن) ہی جان لیوا ہے (یا اس کا بھولا پن ہی جان لیوا ہے)۔  
'مرجائے' محاوراتی بھی ہے اور لغوی بھی۔ معشوق کا مقصد بے حرب و ضرب ہی پورا  
ہو گیا۔ گویا معشوق کی سادگی (یعنی عاری پن) سادہ مزاجی یا سادہ لوحی کے باعث نہیں  
ہے بلکہ بے کاری کی وجہ سے ہے۔

(۷۷)

ہوئی ہے مانع ذوق تماشا خانہ ویرانی  
کف سیلاب باقی ہے برنگ پنبہ روزن میں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر میں مسئلہ یہ ہے کہ خانہ ویرانی کس طرح ذوق تماشا کو مانع آسکتی ہے؟  
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر ویران ہونے یا ویران کرنے کے بعد ہم شہر و دیہاں کی راہ لیتے  
اور جی بھر کے ذوق تماشا کو تسکین دیتے۔ اگر کف سیلاب نے روٹی کی طرح گھر کے  
روزنوں کو بند کر دیا ہے تو بھی کیا ہرج ہے؟ گھر سے باہر نکلتا کیوں مشکل ہے؟  
مرؤج شرح یہ ہے کہ میں نے سیلاب اشک کے ذریعے گھر کو تباہ کرنا چاہا تھا  
تاکہ سیلاب کے باعث دیواروں میں جو رخنے پڑیں ان کے ذریعے میں اپنی خانہ ویرانی  
کا تماشا دیکھ سکوں۔ لیکن کف سیلاب نے تمام روزنوں کو بند کر دیا، اس لیے ذوق تماشا  
کی تسکین نہ ہو سکی۔ اس شرح میں قباحت یہ ہے کہ روزن کے ذریعے تو گھر کے باہر  
دیکھتے ہیں، اس لیے اپنے ہی گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے ہی گھر کا نظارہ کرنے کے لیے  
روزن دیوار کی ضرورت نہیں۔ اور اگر روزن دیوار کی ضرورت نہیں تو اس میں جو کف  
سیلاب روٹی کی طرح زک کر بھر گیا ہے، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ  
فرض کیا جائے کہ میں گھر کے باہر تھا اور اس کے اندر دیکھنے کے لیے میں نے سیلاب  
اشک بہایا تاکہ سیلاب کے ذریعے روزن بنے اور اس روزن کے ذریعے میں گھر کے  
اندرا کا نظارہ کر سکوں، تو مشکل یہ ہے کہ گھر کے باہر ہونے کا کوئی قرینہ شعر میں نہیں اور نہ  
یہ اشارہ ہے کہ ذوق تماشا سے اندرون خانہ کا تماشا مراد ہے اور اگر مراد ہو بھی تو اندرون  
خانہ دیکھنے کے لیے سیلاب اشک کی کیا ضرورت تھی؟ پورا تصور ہی مہمل ہو جاتا ہے۔

طباطبائی نے عمدہ بات کہی ہے کہ سیلاب کی وجہ سے خانہ ویرانی ہوئی اور یہی  
سیلاب مانع تماشا بھی ہے۔ یعنی مسبب (سیلاب) کو سبب قرار دیا ہے اور قصداً ایسا بہت  
کرتے ہیں، لیکن یہ بات طباطبائی نے بھی واضح نہ کی کہ تماشا کہاں کا مقصود ہے، گھر کا یا  
گھر کے باہر کا؟ گھر کے اندر کا تو مقصود ہو نہیں سکتا، جیسا کہ میں نے اوپر واضح کیا اور  
اگر گھر کے باہر کا تماشا مقصود ہے تو خانہ ویرانی کو اس میں معاون ہونا تھا نہ کہ مخل،  
جیسا کہ شعر میں کہا جا رہا ہے۔ طباطبائی ہی کیا، کسی نے یہ نکتہ واضح نہیں کیا ہے۔ بیخود  
دہلوی کا خیال ہے کہ ذوق تماشا کے باعث گھر کی دیواروں کو رو کر آنسوؤں کے زور  
سے گرانا چاہا تھا۔ جوشِ ملیحانی کو غالباً اس بات کا احساس تھا کہ متداول شرحیں اس بات  
کو واضح نہیں کرتیں کہ گھر کو گرانے اور ذوق تماشا میں کیا تعلق ہے؟ گھر سے باہر نکلتا کوئی  
ایسی ناممکن بات نہیں کہ گھر کو گرائے بغیر حاصل نہ ہو سکے۔ چنانچہ جوشِ ملیحانی نے لکھا  
ہے کہ مضمون تکلف اور تصنع سے پر ہے۔

اصل میں یہ تمام مسائل لفظ 'خانہ ویرانی' کو لغوی معنی میں لینے سے پیدا ہوئے  
ہیں۔ 'خانہ' بمعنی 'گھر' فرض کرنا ضروری نہیں۔ 'خانہ ویرانی' سے خانہ زنجیر یا بندی خانہ  
(یعنی زنداں) کی ویرانی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دیوانے کے لیے (یعنی اس  
شخص کے لیے جو زنداں میں قید ہے) اس کا قید خانہ ہی گھر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ  
'سیلاب' سے محض سیلاب بھی مراد لے سکتے ہیں، سیلاب اشک کی قید ضروری نہیں۔

ان نکات کی روشنی میں شعر کی شرح حسب ذیل ہو سکتی ہے: میں ایسے زنداں میں  
قید ہوں جس میں درپہر ہے نہ در، حتیٰ کہ روزن بھی نہیں۔ یا یوں کہیے کہ میں زنداں میں  
ہوں، دروازے کھڑکیاں سب بند ہیں۔ کوئی روزن بھی نہیں جس سے باہر کا نظارہ  
کر سکوں، باہر نکل جانے کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر میں اپنے ذوق تماشا کو کس طرح  
تسکین دیتا؟ لہذا میں نے سیلاب اشک بہایا تاکہ دیواریں گر جائیں، یا کم سے کم کچھ رخنے  
تو ان میں پیدا ہو جائیں (یا میری خوش قسمتی تھی کہ زنداں کو سیلاب نے آیا۔ مجھے امید  
بندگی کہ اب دیواریں گر جائیں گی یا جگہ جگہ سے کھل جائیں گی) اور اس طرح میں ذوق  
تماشا کو تسکین دے سکوں گا۔ لیکن میری بد نصیبی دیکھیے کہ وہی سیلاب جو خانہ ویرانی کا  
مسبب تھا، امتناع تماشا کا سبب بن گیا۔ یعنی دیواروں میں روزن تو سیلاب کی وجہ سے

ضرور پڑے، لیکن ان روزوں میں کف سیلاب ٹک کر تھم گیا، اس لیے باہر کا تماشا ممکن نہ ہو سکا۔

سیلاب کا کف آلود ہونا عام مشاہدہ ہے، خاص کر جب سیلاب کا پانی خس و خاشاک پر سے گزرے۔ کف سیلاب پانی کے مقابلے میں ست رو بھی ہوتا ہے اور جگہ جگہ تھم جانے کی صفت رکھتا ہے۔ پیکر نہ صرف بدلیج ہے بلکہ روزمرہ کے مشاہدے پر بھی مبنی ہے۔

(۷۸)

ہوئے اس مہروش کے جلوہ تمثال کے آگے  
پرفشاں جوہر آئینے میں مثل ذرہ روزن میں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر کا سطحی مضمون بالکل صاف ہے: محبوب کا عکس آئینے میں پڑا تو آئینے کے جوہر اڑنے لگے، جس طرح سورج کی کرن پڑتے ہی روزن کے ذرے متحرک اور پرواز کناں نظر آتے ہیں۔ نکتہ یہ نکالا گیا ہے کہ جلوہ محبوب کے آگے آئینہ ماند پڑ جاتا ہے۔ (اس کا جوہر اڑنے لگتا ہے، جوہر کے بغیر آئینہ قوت انعکاس کا حامل نہیں رہ جاتا۔ جوہر کا اڑ جانا رنگ کے اڑ جانے کی طرح ہے، وغیرہ)۔ یہ نکتہ خوب ہے، اگرچہ دوسرے مصرعے کا لاجواب پیکر اس سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہونے پاتا۔ اب مندرجہ ذیل باتوں پر غور کیجیے:

(۱) ذرے پر سورج کی کرن پڑتی ہے تو وہ متحرک نظر آتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں سورج کی کرن کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، لیکن بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے، کیوں کہ مصرع اولیٰ میں 'مہروش' کا لفظ (بظاہر اتفاقاً طور پر) استعمال ہوا ہے۔ برق و ش، ماہ و ش، حور و ش کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ لیکن 'مہروش' کا استعمال کمال بلاغت ہے کہ معشوق کے حسن کو سورج سے مشابہ ٹھہرایا اور دوسرے مصرعے میں از خود سورج کی کرن کا اشارہ پیدا کر دیا ہے۔

(۲) محبوب کا عکس حاصل کر کے آئینے کا رنگ اڑ نہیں گیا بلکہ آئینہ روشن تر ہو گیا۔ جس طرح دھندلے ذرے سورج کی کرن کے اثر سے روشن نظر آتے ہیں۔ آئینے کے جوہر ذرہ بن کر اڑنے لگے۔ جلوہ تمثال کی کرن نے ان ذروں کو روشن کر دیا۔ روشن

ذرے آئینے میں منعکس ہوئے، آئینہ روشن تر ہو گیا۔

(۳) محبوب کا حسن معنائیں کی سی کشش رکھتا ہے۔ جلوہ آئینے پر پڑا، جو ہر کے ذرے پھڑ پھڑاتے ہوئے باہر نکلے اور محبوب کی طرف پُرافتشاں ہوئے۔ اسی طرح سورج کی کرن بھی کشش رکھتی ہے۔ روزن کے ذروں پر کرن پڑی تو ذرے متحرک نظر آنے لگے۔ گویا کھینچ کھینچ کر سورج کی طرف جارہے ہوں۔

(۴) روزن میں پڑے ہوئے خاک کے ذرے بے جان تھے۔ سورج کی کرن کے زیر اثر وہ متحرک نظر آئے، گویا کرن نے ان میں جان ڈال دی۔ اسی طرح محبوب کا عکس پڑتے ہی جو ہر کے مردہ (بے حرکت) ذروں میں جان آگئی۔

(۵) حسن کا قرب دل کو مضطرب کر دیتا ہے۔ یہ مشاہدہ مشرق و مغرب کی شاعری میں عام ہے جس طرح سورج کی کرن کا قرب ذروں کو مضطرب و مرتعش کر دیتا ہے اور وہ اڑتے ہوئے، پھڑ پھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح محبوب کے حسن کی قربت نے جو ہر آئینہ کو متحرک و مضطرب کر دیا:

اہلِ بینش نے بہ حیرت کدہ شوقی ناز

جو ہر آئینہ کو طوطی بسمل باندھا

(۶) سورج کی صرف ایک کرن نے ذرات روزن کو زندہ کر دیا۔ اگر سارا سورج آ پڑتا تو خدا جانے کیا عالم ہوتا۔ اسی طرح ابھی تو محبوب کا صرف عکس آئینے میں داخل ہوا ہے اور ذرات جو ہر کو قوت کشش نے پُرافتشاں کر دیا ہے۔ اگر پیکر کی جگہ اصل (یعنی جسم) آئینے میں داخل ہو جائے تو آئینے پر خدا جانے کیا غضب ڈھائے۔

(۷) وہ سورج کی ایک ہی کرن سہی جس نے ذروں کو متحرک کر دیا، لیکن پھر بھی وہ کرن سورج کا ایک حصہ ہے۔ کرن اور سورج الگ الگ نہیں ہیں۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ محض عکس رخ ہی جو ہر آئینہ کو متحرک کرنے کے لیے کافی ہے۔

(۸) آئینے کو محبوب سے وہی نسبت ہے جو روزن کو سورج سے ہے۔ یعنی سورج کی کرن روزن سے گزر کر تاریک حجرے کو منور کرتی ہے۔ معشوق کا جلوہ آئینے کو زندہ کر دیتا ہے۔

(۹) یہ بات ملحوظ رکھیے کہ آئینہ فولادی ہے۔ اس اعتبار سے جو ہر آئینہ اور ذرہ

میں غیر معمولی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ نکتہ اور بھی بر محل ہو جاتا ہے کہ معشوق معنائیں کشش رکھتا ہے۔

(۱۰) عبدالرحمن بجنوری نے ٹھیک کہا ہے کہ لوگ تو اس زمانے میں Optics کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اور غالب نے اس وقت یہ شعر کہا جب یہ علم بہت نادر اور محدود تھا اس کو بھی غالب کا معجزہ فن ہی کہا جانا چاہیے۔ بجنوری نے 'پُرافتشاں' سے یہ مراد لی ہے کہ اگر کسی ذرے کو کسی روزن میں آنکھ لگا کر دیکھا جائے تو ذرے کے بے مقدار جسم سے ہر سمت شعاعیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ تشریح بہت دلچسپ ہے اور اگرچہ لفظ 'پُرافتشاں' کا مفہوم (پرواز کناں یا پُرجھاڑتا ہوا) اس معنی کی پشت پناہی نہیں کرتا، لیکن اگر 'پُرافتشاں' کو روشنی کی کرن پھوٹنے کا استعارہ قرار دیں تو یہ معنی بھی خوب ہیں۔ غالب کا مندرجہ ذیل شعر ایک حد تک اس معنی کی تائید کرتا ہے:

ہو گئے ہیں جمع اجزائے نگاہ آفتاب

ذرے اس کے گھر کی دیواروں کے روزن میں نہیں

(۷۹)

مگر غبار ہوئے پر ہوا اڑا لے جائے  
 وگرنہ تاب و تواں بال و پد میں خاک نہیں  
 (زمانہ تحریر: ۱۸۲۶ء)

سب سے پہلے رعایات لفظی پر غور کیجیے۔ ایک ضلع ہے اور ایک مراعات النظر۔  
 مصرع اولیٰ میں 'پڑ اور اڑا' میں ضلع ہے۔ 'غبار'، 'ہوا'، 'اڑا' اور 'خاک' میں مراعات النظر  
 کا ربط ہے۔ اب معنویت پر آئیے۔ ظاہری مفہوم بالکل صاف ہے۔ میرے بال و پد  
 میں طاقصے تو ہے نہیں، اب یہی ممکن ہے کہ جب میں غبار بن جاؤں تو ہوا مجھے اڑا لے  
 جائے۔ خود سے اڑنا میرے بس میں نہیں ہے۔ تمنا ہے پرواز کی تکمیل بس اسی طرح ممکن  
 ہے کہ میں مرکز خاک ہو جاؤں اور ہوا مجھے اڑا دے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اڑنے کی اس قدر تمنا کیوں؟ یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ شعر کا  
 متکلم اردو شاعری کا روایتی پرندہ ہے جو قفس میں گھل رہا ہے، لیکن شعر میں قفس کی طرف  
 کوئی اشارہ نہیں، صرف بال و پد میں قوت نہ ہونے کا ذکر ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ  
 متکلم پرندہ ہے اور پرندہ انسان کا استعارہ ہے۔ پرندے کے لیے پرواز آزادی کا اور  
 تکمیل کا استعارہ ہے۔ انسان کے لیے پرواز حدود و کائنات اور تکلی حیات سے آزاد ہونے  
 کا استعارہ ہے۔ تو پھر بال و پد میں تاب و تواں نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ  
 اس سے مراد وہ مجبوریاں اور حکومتیاں ہیں جو انسان کا مقدر ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اڑنے  
 (یعنی ان مجبوریوں سے آزاد ہونے) میں کیا چیز معاون ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ آزادی  
 موت کے ہی ذریعے نصیب ہو سکتی ہے۔ لہذا بات پھر وہیں پہنچتی ہے کہ جب میں مرکز  
 خاک ہوں گا، یعنی جب میں قید و وجود سے رہا ہوں گا، تب ہی تکمیل حیات ممکن ہوگی۔

اب یہاں شعر ایک بالکل نئی استعاراتی جہت اختیار کرتا ہے۔ مقصد وجود کیا ہے؟  
 غبار کی طرح اڑنا۔ صرف اڑنا نہیں بلکہ اس طرح اڑنا کہ خاک کا ذرہ ذرہ منتشر ہو کر ہر  
 طرف پھیل جائے۔ یہ اس لیے کہ آزادی کی اور کوئی صورت نہیں۔ مقصد وجود کی تکمیل  
 اسی وقت ممکن ہے جب وجود باقی نہ رہے۔ لہذا اب غبار بن کر اڑنا تکمیل جنوں یعنی تکمیل  
 حیات کی علامت ہے۔ خاک یا غبار بن کر اڑنا تکمیل شخصیت کی آخری منزل ہے،  
 کیوں کہ خاک مکمل طور پر آزاد ہوتی ہے اور ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ معدوم ہو کر  
 مشت غبار ہر جگہ موجود ہو جاتی ہے کیوں کہ وہ چاروں گونج عالم میں پھیل جاتی ہے۔ مگر غبار  
 ہوئے پر ہوا اڑا لے جائے میں اسی قول محال اور اسی کائناتی لیے کا اظہار ہے کہ میں یوں  
 تو نہ اڑ سکا اور نہ کوئے محبوب تک پہنچ سکا اور نہ قیود زماں و مکاں سے آزاد ہو سکا۔ بس یہی  
 ممکن ہے کہ جب میں مرکز خاک ہو جاؤں تو ہوا مجھے اڑا لے جائے اور میری تکمیل  
 کر دے۔ صحیح معنی میں زندہ ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے۔



(۸۰)

بھلا اسے نہ سہی کچھ مجھی کو رحم آتا  
اثر مرے نفس بے اثر میں خاک نہیں  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۶ء)

اس شعر پر طباطبائی نے بظاہر بڑا مسکت اعتراض کیا ہے کہ جب نفس کو بے اثر کہہ ہی دیا تو پھر یہ کہنا فضول ہے کہ میرے بے اثر نالے میں اثر خاک نہیں ہے۔ نفس کو بے اثر کہنے کے بعد پھر کہنا کہ اس میں اثر نہیں، تکرار محض ہے۔ بیچود موبانی جو شارحین غالب میں اپنی طباطبائی غالب کے دفاع اور معترضین (خاص کر طباطبائی) کو سخت جواب دینے میں اپنا حاتی نہیں رکھتے، یہاں کوئی پتے کی بات نہیں کہہ پائے ہیں۔ انھوں نے محاورے کا سہارا لیا ہے، حالاں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا جواب طباطبائی کے اعتراض کو رد نہیں کرتا بلکہ محض زبردستی اور بہانہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے شرح نے اتنا بھی نہیں کیا، وہ طباطبائی کی بات کو سرے سے نظر انداز کر گئے ہیں۔ محاورے کے تقاضے والی بات، جو بیچود موبانی نے کہی ہے، اس وقت پوری اترتی جب مصرع ثانی انشائیہ استفہامیہ ہوتا۔ مثلاً میرے نفس بے اثر میں اثر کہاں؟ میرے کمزور بال و پر میں زور کہاں، وغیرہ۔

لہذا یا تو طباطبائی کی بات کو درست مانا جائے یا شعر کا کوئی اور حل ڈھونڈا جائے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس تکرار کے باوجود شعر موثر اور معنی خیز اور خوب صورت معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تکرار سے تو کیا ہوا، شعر مجموعی طور پر تو خوب صورت ہے، لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ ایسی کھلی تکرار کے باوجود شعر کو حسین کہہ سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں نظریہ شعر کو دوبارہ مرتب کرنا ہوگا اس میں بڑے بڑے خطرے ہیں، مثلاً جوش بلخ آبادی جیسے لفاظی شاعر بھی کامیاب قرار دیے جا سکیں گے لہذا معاملے پر

مزید غور کی ضرورت ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ ایہام اور مختلف قسم کے لفظی اور معنوی صنائع و رعایات غالب کے یہاں بہت ہیں۔ اس نکتے کو نظر انداز کرنے کے باعث اکثر شرح اور نقاد غالب اور دوسرے کلاسیکی شعرا کی مناسب تحسین و تنہیم میں ناکام رہے ہیں۔ شعر زیر بحث میں بات بالکل سامنے کی ہے کہ لفظ 'بے اثر' میں ایہام ہے۔ 'اثر' بمعنی 'نشان' فرض کیجئے اور 'بے اثر' کے معنی 'بے نشان' قرار دیجیئے۔ اب دیکھیے شعر کیا کہتا ہے۔ 'نفس' بمعنی 'سانس' ہے، مجازی معنی ہیں 'نغمہ'، 'نالہ'، 'شیون'۔ سانس خاموش عمل ہے اس لیے 'نفس' بمعنی 'نغمہ' یا 'شیون' کے بے نشان ہونے کے مفہوم کو مستحکم کر رہا ہے۔ لہذا 'نفس بے اثر' کے معنی ہوئے 'خاموش نغمہ' یا 'نالہ بے آواز، نالہ خاموش'۔ اب شعر کا مدعا یہ ہوا کہ میں چپکے چپکے نالہ کر رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، کیوں کہ سنا ہے نالہ خاموش یا گریہ خاموش میں بڑا اثر ہوتا ہے، بقول تیسرے:

مغرور بہت تھے ہم آنسو کی سرایت پر

لیکن معشوق کا متاثر ہونا تو کجا، خود میں متاثر نہ ہو سکا۔ مجھے رحم نہ آیا کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی کہ مجھ پر خود کوئی اثر نہ ہوا، یعنی مجھے خود سے ہمدردی نہ پیدا ہوئی۔ دوسرے معنی یہ کہ مجھے بھی اپنے دل کی حالت زار پر رحم نہ آیا کہ اسے پاش پاش ہوتے دیکھ کر نالہ موقوف کر دیتا۔ معشوق کو رحم نہ آیا نہ سہی، مجھے تو رحم آ جاتا۔ لیکن نالہ خاموش اتنا بے اثر تھا کہ خود میں متاثر نہ ہو سکا۔

اس طرح دیکھا جائے تو یہ شعر خاموش نالوں کی تفسیر اور نالہ پر شور کی توصیف کا مضمون پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ منزل آتی ہے جس میں:

دل میں پھر گریہ نے اک شور اٹھایا غالب

آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوقاں نکلا

(۸۱)

غنچہ ناگلفتہ کو دور سے مت دکھا کہ یوں  
بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ یوں  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۱ء، قبل ۱۸۲۶ء)

شارحین نے 'غنچہ ناگلفتہ' کو 'دہن تنگ' کا استعارہ بتایا ہے اور باوی النظر میں یہ صحیح بھی ہے، لیکن تھوڑے سے غور کے بعد یہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ تشریح درست نہیں، کیوں کہ اس صورت میں نثر یوں ہوگی: "اپنے دہن تنگ کو دور سے مت دکھا کہ یوں (بوسہ لیتے ہیں) بلکہ منہ سے مجھے بتا کہ یوں"۔ ظاہر ہے کہ جب مصرع اولیٰ میں دہن تنگ دکھانے سے منع کیا جا رہا ہے، تو دوسرے مصرعے میں یہ کہنے کا کچھ خاص محل نہیں رہ جاتا کہ مجھے منہ سے بتاؤ کہ بوسہ کیوں کر لیتے یا دیتے ہیں۔ علاوہ بریں اس شرح کی روشنی میں شعر کی کثیر المنہومی میں فرق آتا ہے اور محبوب کی شوخی کا جو پیکر بنتا ہے اس کی پوری وضاحت بھی نہیں ہوتی۔

شرح کا کہنا ہے کہ محبوب سے بوسہ لینے یا دینے کا طریقہ پوچھا گیا تو اس نے دور سے منہ دکھا دیا (دہن تنگ: غنچہ ناگلفتہ) تب اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھئی منہ سے (بوسہ لے کر) بتاؤ، کہ یوں ہوتا ہے۔ لیکن 'غنچہ ناگلفتہ' کو لغوی معنی میں لیجیے تو بہتر مفہوم نکلتا ہے کہ معشوق نے ایک منہ بند کلی دکھادی، گویا استعارے کی زبان سے کہا کہ جس طرح کلی کا منہ بند ہے، اسی طرح بوسہ لینے میں منہ بند ہو جاتا ہے یا جس طرح کلی کی شکل مخرومی اور بیضاوی ہے، بوسہ لیتے وقت بھی ہونٹوں کی وہی شکل بنتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں 'منہ سے مجھے بتا' کے کئی معنی ہیں (۱) منہ سے بوسہ لے کر بتاؤ۔ (۲) منہ سے بتاؤ، یعنی لفظوں میں بتاؤ، اشاروں میں نہیں (۳) کلی مت دکھاؤ بلکہ منہ کی

وہی ہی شکل بنا کر دکھاؤ۔

'غنچہ ناگلفتہ' کو منہ کی اس شکل کا استعارہ بھی کہہ سکتے ہیں جو بوسہ لیتے وقت بنتی ہے۔ محبوب نے سوال کا جواب یوں دیا کہ منہ بنا کر دکھا دیا کہ دیکھو بوسہ یوں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے ہونٹوں کی اس شکل کا استعارہ بھی کہہ سکتے ہیں جو منہ چڑاتے وقت بنتی ہے۔ سوال کے جواب میں محبوب نے دور سے منہ چڑا دیا۔ جو شکل بنی وہ غنچہ ناگلفتہ سے بھی مشابہ ہے اور اس شکل سے بھی جو بوسہ لیتے وقت بنتی ہے۔ ایک ہی کنایے میں دو معنی ظاہر ہو گئے۔

'بوسے کو پوچھتا ہوں' کے معنی میں بوسہ مانگتا ہوں، بھی ہو سکتے ہیں۔ اب پہلے مصرعے میں 'یوں' کے معنی ہو سکتے ہیں کہ تمہاری فرمائش کا جواب ہم یوں دیتے ہیں کہ ایک کلی دکھائے دیتے ہیں یا منہ چڑائے دیتے ہیں۔

(۸۲)

حسد سے دل اگر افسردہ ہے گرم تماشا ہو  
کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے وا ہو  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر کی شرح حالی نے جتنی عمدہ لکھ دی ہے اس سے بہتر ممکن نہیں۔ لیکن میں بعض ایسی رعایتوں اور لسانی نکات کی طرف اشارہ کروں گا جن کی طرف توجہ کم گئی ہے۔ 'افسردہ' بمعنی 'بجھا ہوا' یعنی 'ٹھنڈا'۔ اس کی مناسبت سے 'گرم تماشا' استعمال کیا ہے۔ گرم کی مناسبت سے چشم تنگ کا وا ہونا بھی بہت خوب ہے، کیوں کہ گرمی پا کر چیزیں پھیلتی ہیں، خاص کر وہ چیزیں جو حلقہ نما ہوتی ہیں، ان کا پھیلنا جلد محسوس ہوتا ہے۔ آنکھ کو بھی خلتے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دل کی مناسبت سے چشم بھی قابل لحاظ ہے، کیوں کہ آنکھ، دل کی کھڑکی ہے۔ 'حسد' کے ساتھ 'جلنا' بھی استعمال ہوتا ہے بلکہ 'جلنا' کے ایک معنی 'حسد' کرنا بھی ہیں۔ اس اعتبار سے حسد کے باعث افسردگی (جلنا پھر بجھ جانا) اور پھر گرم تماشا ہونا عجب لطف رکھتے ہیں۔ تماشا کی مناسبت سے 'کثرت' اور 'نظارہ' دونوں بہت عمدہ ہیں۔

بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ 'چشم تنگ' کا فقرہ 'چشم حسود' کے معنی میں درست نہیں، کیوں کہ 'تنگ چشم' دراصل کنجوس کو کہتے ہیں۔ بیخود موبانی نے اس قول کو صحیح نہیں مانا ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے۔ یہاں 'چشم تنگ' بمعنی 'چشم حسود' ہے ہی نہیں بلکہ اپنے لغوی معنی میں ہے۔ بدعا یہ ہے کہ حاسد وہی ہیں جو کم دیکھتے ہیں۔ اگر وہ کثرت سے عالم اور مظاہر عالم کا مشاہدہ کریں تو ان کا حسد باقی نہ رہے۔ یعنی اگر کثرت سے مشاہدہ ہو تو معلوم ہو جائے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے بہتر ہیں تو بہت زیادہ

لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ہم محسود ہو سکتے ہیں، کیوں کہ وہ ہم سے بہت کمتر ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو ہمارا محسود ہے وہ خود کسی اور کا حاسد ہوگا، کیوں کہ دنیا ایک سے ایک لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس طرح کثرت مشاہدہ سے وسعت نگاہ پیدا ہوتی۔

'چشم تنگ' بمعنی 'کم دیکھنے والی آنکھ' پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حقد میں نے معشوق کو بھی 'تنگ چشم' اور معشوق کی آنکھ کو 'چشم تنگ' کہا ہے۔ (ملاحظہ ہو 'بہارِ عجم' از نیک چند بہار)۔ وجہ یہ ہے کہ معشوق بیخود حیا یا بیخود غرور کسی کو دیکھتا ہی نہیں۔ شعر زیر بحث میں 'چشم تنگ' کو چشم حسود کے معنی میں لینا غالب کے کمال پر بے ضرورت دھتکا لگانا ہے۔ جب وہ پہلے مصرعے میں حسد اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی افسردگی کا ذکر کر چکے ہیں تو دوسرے مصرعے میں 'چشم تنگ' بمعنی چشم حسود لکھنا تکرار محض ہے۔ شعر کی شرح کو اس کی ضرورت بھی نہیں، 'چشم تنگ' بمعنی 'کم دیکھنے والی آنکھ' یعنی بند آنکھ یا کچھ کھلی کچھ بند آنکھ، کے اعتبار سے وا ہو کافی و دانی ہے۔

آخری بات یہ کہ فارسی میں 'چشم تنگی' بمعنی 'حسود' و 'آرزو مند' یعنی 'لاچ' بھی ہے اور بمعنی 'کنجوس' تو ہے ہی۔ لہذا 'چشم تنگ' کے معنی 'لاچی آنکھ' بھی مراد لیے جاسکتے ہیں اور یہ مفہوم بھی اپنی جگہ بہت خوب ہے کیوں کہ حاسد کی آنکھ لاچی ہوتی ہے کہ دوسروں کو زبوں حال دیکھے اور یہ بھی کہ اسے لاچ ہوتی ہے کہ خود کو خوشحال دیکھے۔ اسی طرح تنگ آنکھ بھی آرزو مند ہوتی ہے کہ مجھ میں وسعت پیدا ہو۔ بہر طور غالب کے وہ تمام معترضین غلط ہیں جو اس شعر میں 'چشم تنگ' کو غلط قرار دیتے ہیں۔

(۸۳)

اگر وہ سرد قد گرم خرام ناز آجاوے  
کف ہر خاک گلشن شکل قمری نالہ فرسا ہو  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

مفہوم بالکل صاف ہے، لیکن بعض رعایتیں توجہ طلب ہیں۔ یہ تو سب نے کہا ہے کہ 'قمری' کے اعتبار سے 'کف خاک' بہت خوب ہے، کیوں کہ قمری کا رنگ خاک کی فرض کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے: (۱) سرو، گلشن، قمری۔ (۲) گرم، خاک (جل کر خاک ہونا، اول الذکر مراعات الظہیر ہے اور موخر الذکر میں ضلع ہے۔ اس کی روشنی میں ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ معشوق کے خرام کی گرمی خاک گلشن کو جلا ڈالے گی اور اس کے نتیجے میں خاک کے سینے سے نالہ اُٹھے گا۔

'ناز' کا لفظ بھرتی کا نہیں ہے۔ مدعا یہ ہے کہ جب معشوق خرام ناز کرتا ہے تب ہی گلشن کی خاک مثل قمری نالہ بلند کرتی ہے۔ یعنی عام انداز خرام، جس میں ناز نہ ہو، یہ کیفیت نہیں پیدا کرتا۔ 'کف ہر خاک گلشن' کے معنی 'گلشن کی ہر کف خاک' کے علاوہ 'ہر گلشن کی کف خاک' بھی لیے جاسکتے ہیں۔ اس صورت میں گرمی خرام ناز کا عمل صرف ایک گلشن پر نہیں بلکہ تمام گلشنوں پر مرتب ہوتا نظر آتا ہے۔ مزید رعایتیں ملاحظہ ہوں: (۳) خاک، شکل، کیوں کہ تمام شکلیں خاک سے بنتی ہیں۔ (۴) سرو، خرام، کیوں کہ سرو کو پابند فرض کرتے ہیں۔ (۵) نالہ اور گرم کی مناسبت ظاہر ہے۔

(۸۴)

چھوڑا نہ مجھ میں ضعف نے رنگ اختلاط کا  
ہے دل پہ بار نقش محبت ہی کیوں نہ ہو  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۱ء قبل ۱۸۲۶ء)

شعر کا مفہوم تو صاف ہے، لیکن طباطبائی کا اعتراض ہے کہ 'رنگ' کا لفظ محض 'نقش' کی مناسبت سے ہے ورنہ اس کی معنویت مشتبہ ہے۔ بیخود دہلوی نے اس اعتراض کو یوں رفع کیا ہے کہ ضعف کا سبب یہ ہے کہ دل و جگر کا خون بہہ گیا ہے اور خون بہہ جانے کے باعث رنگ اڑ گیا ہے۔ باقر نے ٹھیک لکھا ہے کہ یہ توجیہ دل کو لگتی نہیں اور لگے بھی کیوں، جب اختلاط کے رنگ کی بات ہو رہی ہے، چہرے کے رنگ کی نہیں۔ بیخود موبائی نے اعتراض کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے جو مطلب بیان کیا ہے اس کی رو سے 'رنگ' کے معنی 'شائبہ' اور 'چھاؤں' نکلتے ہیں۔ (شاید 'پرچھائیں' کی جگہ 'چھاؤں' لکھ گئے ہیں)۔ چون کہ یہ معنی بھی بظاہر دور از کار ہیں اس لیے مسئلہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ شعر پر طباطبائی کا اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا۔ محمد حسین تبریزی نے 'برہان قاطع' میں 'رنگ' کے تینتیس (۳۳) معنی دیے ہیں، ان میں سے مندرجہ ذیل ہمارے مفید مطلب ہیں (۳) حصہ و قسمت و نصیب (۵) زور و قوت و توانائی (۸) مال و زر و اسباب (۱۱) طرز و روش و سیرت و قاعدہ و قانون (۱۶) خوبی و لطافت (۱۷) خوش حالی و تندرستی (۱۹) خون (۲۰) رواج و رونق کار (۲۱) مایہ اندک و قلیل۔ ظاہر ہے کہ 'ضعف' اور 'ناز' کی رعایت سے 'رنگ' بمعنی 'زور و قوت و توانائی' بہت خوب ہے۔ 'نقش' میں بھی ایک نکتہ ہے۔ کیوں کہ خود 'نقش' کے ایک معنی 'قوت' بھی ہیں، جیسے 'نقش نشستن' بمعنی 'زور قائم ہونا'۔ طرز و روش بھی مناسب ہے۔ 'خون' کی رعایت سے بیخود دہلوی

کے معنی کا جواز پیدا ہو جاتا ہے اور باقر کا قول کہ توجیہ بہت دور کی ہے، غلط ثابت ہوتا ہے۔ بیخود موبانی کی شرح کے مطابق 'رنگ' بمعنی 'شائبہ' کا جواز معنی نمبر ۲۱ (مابعد اندک و قلیل) سے نکل آتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ دونوں بیخود صاحبان 'رنگ' کے ان معنی سے واقف غالباً نہ تھے، لیکن ان کا ذوق سلیم ان کو تقریباً صحیح جگہ پر لے گیا۔ (پرانے شارحین نہ معلوم کیوں لغت نہیں دیکھتے تھے، شاید کسر شان سمجھتے ہوں)۔

مندرجہ بالا تشریح کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ شعر میں 'رنگ' کا لفظ مورد الزام و اعتراض ہونے کے بجائے کمال سخن گوئی کی مثال ہے۔

(۸۵)

ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ  
ہر چند برسٹیل شکایت ہی کیوں نہ ہو  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۱ء، قبل ۱۸۲۶ء)

اس شعر میں کوئی بیچ نہیں، صرف ایک بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے فرض کیا ہے کہ معشوق نے متکلم کے سامنے رقیب کا شکایت آمیز ذکر کیا۔ لیکن شعر میں ایسا کوئی قرینہ نہیں کہ جس کی بنا پر یہ فرض کرنا ضروری ہو کہ یہ معاملہ متکلم کے سامنے ہوا۔ شعر میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ تم نے غیر کا ذکر کیوں کیا؟ شکایت ہی سہی، لیکن غیر کا نام تمہاری زبان پر آیا کیوں؟ ایسے موقع پر متکلم کو بھی موجود فرض کرنا شعر کا لطف کم کر دیتا ہے، کیوں کہ رشک کی شدت گھٹ جاتی ہے۔ یہ مضمون زیادہ لطیف ہے کہ متکلم نے کہیں سن لیا کہ معشوق نے رقیب کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات سن کر متکلم (عاشق) کا جذبہ رشک اچھختہ ہوا اور اس نے معشوق کو لکھ بھیجا یا اس سے کہا کہ مجھ کو تم سے گلہ ہے کہ تم نے غیر کا تذکرہ کیا۔ اس میں نکتہ یہ بھی ہے کہ جب کسی کا تذکرہ کوئی کرتا ہے تو جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ تذکرہ کرنے والے کو یاد کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذکر و نسی و اذکر کم (تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا) لہذا معشوق کی زبان پر رقیب کا نام آنا ہی کیا کم غضب تھا کہ یہ امکان بھی پیدا ہو گیا کہ خود رقیب بھی معشوق کو یاد کرے گا اور اس کا تذکرہ کرے گا۔ لہذا رشک کے دو وجوہ پیدا ہو گئے۔

(۸۶)

ہے آدمی بجائے خود اک محشر خیال  
ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۱ء، قبل ۱۸۲۶ء)

اس شعر کے مشہور معنی تو یہ ہیں کہ آدمی بذات خود طرح طرح کے خیالات کا مجموعہ ہے۔ وہ اکیلا ہو، پھر بھی اکیلا نہیں ہوتا، کیوں کہ اس کا ذہن ہر وقت تخیلات اور توہمات کا ایک ہنگامہ برپا کیے رہتا ہے۔ پھر خلوت اور انجمن میں کیا امتیاز باقی رہا؟ یہ معنی بہت خوب ہیں، لیکن طباطبائی اور بیخود موبانی نے عارفانہ مفہوم بیان کر کے ایک نئی جہت دریافت کی ہے کہ انسان کو خدا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، ورنہ تخیلہ میں بیٹھنا فضول ہے، کیوں کہ تخیلہ میں بھی انسان کا ذہن پراگندہ رہ سکتا ہے۔ یعنی اصل چیز یکسوئی اور توجہ الی اللہ ہے، نہ کہ محض ترکِ خلاق۔ ترکِ خلاق فی نفسہ توجہ الی اللہ اور تخیلہ نفس نہیں پیدا کر سکتا۔

یہ معنی بہت خوب ہیں، لیکن شعر میں اب بھی بہت سے نکات موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو 'محشر' پر غور کیجیے۔ 'محشر' کے معنی ہیں 'برائے نکیت کرنا' اور 'محشر' کے معنی ہیں 'قیامت کے دن مردوں کے اکٹھا ہونے یعنی زندہ ہونے کی جگہ'۔ 'بہارِ عجم' اور 'شمس اللغات' میں صراحت ہے کہ 'محشر' کے معنی محض لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بھی ہیں۔ لہذا اس لفظ میں معنی کی تین شاخیں ہیں (۱) برائے نکیت ہونا (۲) مردوں کا زندہ ہو کر جمع ہونا اور (۳) لوگوں کا جمع ہونا۔ پھر لفظ 'آدمی' توجہ طلب ہے۔ غالب نے ع

آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا

کہہ کر آدمی اور انسان میں فرق کیا ہے۔ یہ فرق یہاں بھی ان کے ذہن میں رہا ہوگا،

ورنہ وہ باسانی ع

انسان ہے بجائے خود اک محشر خیال

کہہ کر مصرع موزوں کر سکتے تھے۔ آدمی کی تخصیص کر کے انہوں نے تمام بنی نوع آدم مراد لے لی ہے۔ 'انسان' کہتے تو ممکن تھا کہ 'آدمی' کی بہترین اور مخصوص شکل یعنی انسان کی طرف تخصیص ہو جاتی اور عمومیت جاتی رہتی۔ مراد یہ ہوتی کہ تمام آدمیوں کی سرشت ایسی ہے کہ ان کے ذہن میں خیالات براہیختہ ہوتے رہتے ہیں۔ آدمی کا ذہن بھی خاموش نہیں ہوتا، کبھی معطل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جنون اور نیند میں بھی نہیں۔ آدمی کی صفت یہ ہے کہ خیالات اسے ہمیشہ گھیرے رہتے ہیں۔ لیکن یہ خیالات اسے محض یوں ہی نہیں گھیرے رہتے جس طرح مثلاً پانی جزیرے کے گرد حلقہ کیے رہتا ہے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ آدمی ایک محشر ہے جہاں مردہ خیالات یعنی بھولی بسری باتیں یا ایسی باتیں جو ذہن میں پہلے کبھی نہ تھیں، زندہ اور وارد ہوتی رہتی ہیں یا براہیختہ ہو کر متحرک اور جمع ہونے لگتی ہیں۔ محشر کے میدان کی طرح آدمی کے ذہن میں اچھے، بُرے، معمولی، بڑے، احمقانہ، عارفانہ، فاسقانہ وغیرہ خیالات جوق در جوق آتے رہتے ہیں۔

اگر 'محشر' کو 'قیامت' کے معنی میں لیا جائے، جیسا کہ فارسی میں بھی ہے (ملاحظہ ہو 'شمس اللغات') تو ذہن میں ہنگامہ، شور و غوغا، افراتفری کا تصور بھی پیدا ہوتا ہے۔

اب اگر یوں فرض کیا جائے کہ پہلے مصرعے میں ایک کلیہ بیان ہوا ہے اور دوسرے مصرعے میں اپنی رائے ظاہر کی گئی ہے (ہم انجمن سمجھتے ہیں) تو ایک اور معنی پیدا ہوتے ہیں کہ یہ شعر عاشقانہ بھی ہے اور رشک کا مضمون بیان کرتا ہے۔ معشوق اکیلے بیٹھے بیٹھے طرح طرح کی باتیں سوچتا ہوگا، اس کے ذہن میں بیسیوں طرح کی باتیں آتی ہوں گی، خیالات کا عجب طوفان اس کے ذہن میں مچلتا ہوگا، اس لیے تنہائی کے باوجود اس کے ذہن پر خیالات اسی طرح اثر انداز ہوتے ہوں گے جس طرح محفل میں اغیار کی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ مانا کہ وہ سب سے کنارہ کش ہے، لیکن جب تک ذہن میں سوچنے کی قوت ہے، اس وقت تک تنہائی محال ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کی خلوت بھی انجمن ہے اور رشک سے مرا جاتا ہوں۔

مندرجہ بالا چند در چند معنویتوں کی روشنی میں یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ اس شعر

کا مومن کے مشہور شعر سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ غالب نے مومن کے شعر سے اپنا شعر بنایا ہے، لیکن تھوڑا سا تامل اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ مومن کا شعر محض ایک خیال پر قائم ہے۔ غالب کا شعر واقعی محشر خیال ہے اور مومن کے اس ایک خیال سے بھی اس کو کوئی علاقہ نہیں۔ مومن کے یہاں لفظ 'گویا' نے ضرور ایک شان پیدا کر دی ہے، غالب کا شعر جس سے خالی ہے:

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا  
جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

(۸۷)

ہنگامہ زبونی ہمت ہے انفعال  
حاصل نہ کیجئے دہر سے عبرت ہی کیوں نہ ہو  
(زمانہ تحریر: بعد از ۱۸۲۱ء، قبل از ۱۸۲۶ء)

اس شعر میں لفظ 'ہنگامہ' اکثر لوگوں کے لیے پریشانی کا موجب ہوا ہے۔ اردو میں 'ہنگامہ' کے معروف معنی 'شور و غل، ہلّو وغیرہ' ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی یہاں منطبق نہیں ہوتے۔ زیادہ تر شارحین نے 'ہنگامہ' کے معنی بیان نہیں کیے، لہذا پڑھنے والوں نے گمان کیا ہوگا کہ یہاں 'ہنگامہ' بمعنی 'شور و غل' وغیرہ ہے اور یہ معنی کارآمد ہیں نہیں۔ یہ بات الجھن کا سبب بنی ہوگی۔ نیاز صاحب نے تو گھبرا کر یہاں تک لکھ دیا کہ اس شعر میں لفظ 'ہنگامہ' غیر ضروری ہے۔ منظور احسن عباسی نے 'ہنگامہ' کے معنی لکھے ہیں 'زیادتی'۔ یہ معنی سراسر غلط تو ہیں ہی، ان کی روشنی میں شعر اور بھی الجھ جاتا ہے۔

میں نے اکثر لکھا ہے کہ ہمارے شارح یوں تو بہت ذی علم تھے لیکن لغت دیکھنے کی عادت انہیں نہ تھی۔ مثلاً یہاں اگر کسی بھی شارح نے 'ہنگامہ' کے معنی معلوم کرنے کے لیے لغت دیکھ لیا ہوتا تو شعر کے معنی آئینہ ہو جاتے۔ 'آئند راج' میں ہے کہ 'ہنگامہ' اور 'ہنگام' ایک ہی لفظ ہیں اور ان کے معنی ہیں 'وقت، زمان، یعنی کسی چیز کے واقع ہونے کا وقت'۔ لغت نامہ دہخدا میں 'ہنگامہ' کے ایک اور معنی لکھے ہیں 'مجمع، جمعیت مردم، معرکہ' قصہ گوئیاں وغیرہ۔ اسی سے 'مجلس، محفل، ملاقات، صحبت، جلسہ' کے معنی مستفاد ہوتے ہیں۔ تیسرے معنی ہیں 'ازدحام، غوغا' وغیرہ۔ شعر زیر بحث کے معنی اب یہ ہوئے کہ انفعال، یعنی کسی سے کوئی چیز قبول کرنا یا کسی کا اثر قبول کرنا، دراصل ہمت کی زبونی یعنی کمزوری کا وقت یا موقع یا صحبت ہے۔ یعنی انفعالی کیفیت دلالت کرتی ہے ہمت کی

کمزوری اور شکستگی پر۔

اردو میں لفظ 'ہنگام' بمعنی وقت، وہ موقع جب کوئی چیز واقع ہوتی ہے کثرت سے مستعمل ہے۔ امیر مینائی:

ہم جو رخصت ہوئے اس بت سے تو ہنگام وداع

ہنس کے بولا وہ صنم جاؤ خدا کو سونپا

اسی اعتبار سے 'ہنگامی' بمعنی وقتی، کسی خاص وقت سے متعلق، وغیرہ بھی اردو والوں نے بنا لیا ہے۔ لیکن 'ہنگام' کو شور و غل وغیرہ کے معنی میں نہیں استعمال کیا گیا ہے۔ 'ہنگامہ' بمعنی 'شور و غل' البتہ عام ہے۔ مثلاً میر کا مشہور شعر ہے:

ہنگام گرم کن جو دل ناصبور تھا

پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا

لیکن ممکن ہے میر نے یہاں 'ہنگامہ' کو 'صحبت' کے معنی میں استعمال کیا ہو، یعنی دل ناصبور نے نالہ زنی کی صحبت قائم کی تھی۔ اسی طرح، حافظ کہتے ہیں:

وانا چو دید بازی این چرخ حقد باز

ہنگامہ باز چید و در گفتگو بہ بست

دوسرے مصرعے کے معنی ہوئے: اس نے صحبت/محفل اٹھالی اور گفتگو کا دروازہ بند کر دیا۔ دیکھا جائے تو 'ہنگامہ' بمعنی 'صحبت' غالب کے شعر زیر بحث سے بھی مستفاد ہوتے ہیں، یعنی انفعال کچھ نہیں ہے، زبونی ہمت کی صحبت/محفل ہے۔ بنیادی بات بہر حال یہ ہے کہ غالب کے اس شعر میں 'ہنگامہ' کا لفظ اپنے اصل، فارسی معنی میں ہے اور غیر ضروری ہرگز نہیں ہے اور مصرع اولیٰ کے معنی محض یہ ہیں کہ کسی سے کچھ بھی لینا دراصل ہمت کی کمی اور ہمت کی زبونی کا حکم رکھتا ہے۔

(۸۸)

وارستگی بہانہ بے گانگی نہیں

اپنے سے کرنے غیر سے وحشت ہی کیوں نہ ہو

(زمانہ تحریر: بعد از ۱۸۲۱ء، قبل از ۱۸۲۶ء)

پہلے مصرعے کے معنی تو بالکل صاف ہیں کہ وارستگی یعنی آزادی، یعنی ترکِ علاقے کو بے گانگی کا بہانہ مت بناؤ۔ لیکن دوسرے مصرعے کا مفہوم عام طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ وحشت اچھی چیز ہے (کیوں کہ اس کا تفاعل وارستگی ہے) لیکن وارستگی کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگوں سے وحشت کرنے لگو۔ اگر وحشت کرنا ہی ہے تو اپنے سے، یعنی اپنی خودی سے کرو، ورنہ ترکِ علاقے کے بعد تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم غلطی اللہ کی تربیت و خدمت کا کام اپنے ذمے لے لو، اور اپنی خودی کو مارو، نہ کہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔

یہ معنی خوب ہیں۔ لیکن ایک نکتہ اور بھی ہے۔ اپنے سے کرنے غیر سے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نہ اپنے (خود اپنی شخصیت) سے اور نہ غیر سے، وحشت کرو۔ مثلاً محاورہ یوں بھی ہے: دہلی جاؤ نہ لکھنؤ۔ یعنی نہ دہلی جاؤ اور نہ لکھنؤ جاؤ۔ اگر یہ کہنا ہو کہ لکھنؤ نہ جاؤ، دہلی جاؤ، تو کہیں گے: دہلی جاؤ نہ کہ لکھنؤ۔ لہذا محاورے میں اس معنی کا جواز موجود ہے کہ وحشت نہ اپنی شخصیت سے کرو اور نہ غیر سے کرو۔

اب سوال یہ ہے کہ اپنے سے بھی وحشت نہ کرنے کی تلقین سے کیا مراد ہے؟ غیروں سے وحشت کرنے کا مطلب ہوا خلق اللہ سے کنارہ کشی کرنا۔ لہذا اپنے سے وحشت کرنے سے مراد ہوئی اپنے وجود سے متنفر ہونا۔ اب شعر کے معنی یہ ہوئے کہ یوں تو وحشت خوب چیز ہے، لیکن وارستگی (جو وحشت کا تفاعل ہے) سے یہ کام نہ لو کہ خلق



اللہ کو اور خود اپنے ہی کو چھوڑ بیٹھو۔ ترکِ علاقہ اچھی چیز ہے، لیکن خلقِ اللہ (جس میں تم بھی شامل ہو)، اس سے محبت ترک کرنا ٹھیک نہیں۔ محبت اگر بے غرض اور بے ریا ہے تو اس پر علاقہ کا حکم نہیں وارد ہوتا۔ اگر تم خود سے وحشت کرو گے اور خلقِ اللہ سے بھی دور بھاگو گے تو گویا انسانی ذمہ داری کی نفی کرو گے۔ ایسی وارستگی کس کام کی۔

سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی میں اپنے آپ سے بھی تنگ آجاتا ہوں، لیکن اپنے ترکِ اللہ (امیر خسرو) سے تنگ نہیں آتا۔ یہاں بھی وہی نکتہ ہے کہ امیر خسرو کی شخصیت کے ذریعے سلطان الاولیاء کا ربط خلقِ اللہ سے اور اپنی شخصیت سے بنا رہتا تھا۔ وہ اپنی وارستگی کو بے گانگی کا بہانہ نہیں بناتے تھے۔

(۸۹)

مٹا ہے فوتِ فرصتِ ہستی کا غم کوئی  
عمر عزیز صرف عبادت ہی کیوں نہ ہو  
(زمانہ تحریر: بعد از ۱۸۲۱ء، قبل از ۱۸۲۶ء)

شرح نے اس شعر کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ کئی معنی بیان تو نہیں کیے ہیں، لیکن وہ ان کی شرحوں سے مستنبط ہو سکتے ہیں اور بعض معنی بالکل بیان ہی نہیں کیے۔ لہذا میں ان کا حوالہ دیے بغیر اپنے الفاظ میں اس شعر کے وہ تمام معنی لکھتا ہوں جو میری سمجھ میں آتے ہیں۔

(۱) 'فوت' کے معنی ہیں 'نہیت شدن و رفتن چیزے' (منتخب اللغات)، دوسرے معنی (رفتن چیزے) سے ضائع ہونے کا مفہوم نکل سکتا ہے۔ لہذا 'فوتِ فرصتِ ہستی' کے معنی ہوئے (۱) اس فرصت کا، جسے ہستی کہتے ہیں، نہیت ہو جانا، ختم ہو جانا۔ (۲) اس فرصت کا، جسے ہستی کہتے ہیں، چلا جانا، ضائع ہو جانا۔ غالب نے عمر یا ہستی کے ساتھ فرصت کا لفظ اور جگہ بھی باندھا ہے:

عمر ہر چند کہ ہے برقِ خرامِ دل کے خوں کرنے کی فرصت ہی سہی  
ابر روتا ہے کہ بزمِ طربِ آمادہ کرو برقِ ہستی ہے کہ فرصت کوئی دم ہے ہم کو  
(۲) عمر کے ہزاروں مصرف ہیں، لیکن سب سے زیادہ بے لطف مصرف عبادت ہے، کیوں کہ عبادت انسان کو تمام عیش و طرب، لہو و لعب، کھیل تماشے اور مزے دار چیزوں سے محروم رکھتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ عبادت میں گزرنے والی زندگی محض بے مزہ اور بے رنگ ہوتی ہے۔ انسان کو زندگی سے اس قدر محبت ہے کہ ایسی بے رنگ زندگی کے بھی جانے کا رنج ہوتا ہے۔

(۳) جب عمر کے ختم ہونے کا رنج بہر حال ہوتا ہے، تو پھر اسے عبادت ہی میں

کیوں نہ صرف کیا جائے؟ اگر لہو و لعل اور بے ہودہ افعال میں فرصت ہستی کی تو عاقبت بھی خراب ہوگی اور مرنے کا رنج تو ہوگا ہی۔ اس لیے چلو عمر عزیز کو عبادت ہی میں صرف کر دیں، شاید عاقبت بن جائے۔

(۴) عبادت میں زندگی گزارنے کا مطلب ہے ترک دنیا اور اس طرح ترک ہستی۔ عبادت کے ذریعے ترک ہستی کا دعویٰ یا کوشش محض فضول ہے، کیوں کہ موت آتی ہے تو عابد و زاہد کو بھی جان جانے کا غم ہوتا ہے۔

(۵) حدیث میں ہے کہ اہل جنت افسوس نہ کریں گے مگر دنیاوی زندگی کے اس لمحے پر جو انہوں نے خدا کی یاد میں نہ صرف کیا۔ جو شخص ساری عمر عبادت و یاد الہی میں صرف کرتا ہے، اسے اور عمر ملتی تو اسے بھی یاد الہی میں ہی صرف کرتا۔ لہذا جب موت آتی ہے تو غم ہوتا ہے کہ اور فرصت نہ ملتی جسے عبادت اور یاد الہی میں صرف کرتے۔

(۶) عبادت اس لیے ہوتی ہے کہ دنیا (دارالافتا) سے دل ہٹ کر عقبی (دارالبقا) کی طرف مائل ہو۔ دارالبقا میں نکتہ یہ ہے کہ اس میں موت نہیں۔ یعنی موت اس لیے ہے کہ پھر موت نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کو موت پر غم ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو دارالبقا پر واقعی ایمان نہیں ہے، کیوں کہ اگر زندگی عزیز ہے تو اصل زندگی تو موت کے بعد ہی ہے، پھر موت کا غم کیوں؟ شاید اس لیے کہ دنیاوی زندگی فرصت ہے، کھل کھیلنے اور گناہ کرنے کی اور عقبی کی زندگی محض زندگی ہے، اس میں کھل کھیلنا اور لہو و لعل نہیں۔ اصل مزا تو اس بات میں ہے کہ کسی چیز کو کرنے کی فرصت ہو (یعنی ایک محدود مدت ہو جس میں اسے کرنا ہے) اور اس چیز کو کرنے نہ کرنے کے بارے میں دونوں طرح کا حکم لگ سکتا ہو، کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یا یہ چیز اچھی ہے۔ یعنی جب کوئی کام کیا جائے تو اس میں ارادے کو دخل ہو۔ عقبی میں نہ ارادہ ہے اور نہ کشش۔ ہر چیز آسان ہے، کوئی ترغیب، کوئی احساس گناہ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ لہذا وہاں فرصت کا مزا نہیں ہے۔ اس لیے موت کا غم ہوتا ہے۔

(۷) انسان کو عبادت کے ذریعے جو درجات حاصل ہوتے ہیں وہ اس نقصان سے کم ہیں، جو جان جانے سے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یعنی مدارج کی بلندی، جان کا بدل نہیں، اس لیے وہ مرنے کا غم کرتا ہے۔

(۹۰)

نفس میں ہوں گرا چھا بھی نہ جانیں میرے شیون کو  
مرا ہونا برا کیا ہے نوا سنجان گلشن کو

(زمانہ تحریر: ۱۸۵۳ء)

عام شرح کے خلاف (جو اس شعر کے محض لفظی معنی بیان کرتے ہیں) تیر مسعود نے اس کی ایسی شرح لکھی ہے جو شعر شناسی اور غالب فہمی میں اپنی مثال آپ ہے لیکن شعر میں بظاہر ایک بنیادی کمزوری ہے جس کی طرف شاید ان کی بھی نگاہ نہیں گئی ہے۔ مختصر شعر کے معنی تو یہ ہیں کہ مشکل نفس میں ہے، لیکن پھر بھی نوا سنجان گلشن کو اس کا وجود کھٹک رہا ہے۔ مانا تمہیں اس کا نالہ و شیون پسند نہیں، لیکن اس بے چارے کا وجود کیوں ناگوار ہے؟ اس کے ہونے سے نوا سنجان گلشن کا (جو نفس میں نہیں ہیں) کیا بگڑتا ہے؟ یہ معنی تو ٹھیک ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں دی گئی کہ نفس میں بند شیون گر کا وجود نوا سنجان گلشن کو ناگوار ہے۔ محض ایک مفروضہ قائم کیا گیا ہے کہ نوا سنجان گلشن کو اس کا وجود گوارا نہیں۔ اسے ادعاے شاعرانہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ ادعاے شاعرانہ کی شرط یہ ہے کہ اس پر کوئی بدیہی اعتراض نہ وارد ہو۔ مثلاً یہ ادعاے شاعرانہ ہے: آج کچھ درد مرے دل میں سرا ہوتا ہے۔ ایسے ادعا کو دلیل نہیں درکار ہوتی۔

دلیل درکار نہ ہونے کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شعر میں جو مفروضہ بیان کیا گیا ہو وہ مسلمات شعر میں سے ہو۔ مثلاً تیر مسعود نے واضح کیا ہے کہ خوش نوائی کا نتیجہ قید ہے۔ یہ مسلمات شعر میں ہے۔ قدیم ایرانیوں سے لے کر داغ تک اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ داغ کا نہایت عمدہ شعر ہے:

خوش نوائی نے رکھا ہم کو اسیر صیاد  
ہم سے اچھے رہے مدتے میں اترنے والے

یا مثلاً یہ بات مسلمات شعر میں ہے کہ بلبل پھول پر عاشق ہوتی ہے۔ مسلمات شعر پر مبنی مفروضات کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ لیکن جو مفروضہ مسلمات پر نہ قائم ہو وہ محتاج دلیل رہتا ہے۔ مثلاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ آسمان لرزہ بر اندام ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہنا پڑے گا کہ (مثلاً) میری آپن اتنی بلا خیز ہیں، یا مجھ پر اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ آسمان لرزہ بر اندام ہو گیا ہے۔ اس کے برخلاف یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں کہ آسمان بے مہر ہے، کیوں کہ یہ مسلمات شعر میں داخل ہے۔

دلیل درکار نہ ہونے کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مفروضہ، حسن تعلیل یا استعارے پر قائم ہو، کیوں کہ حسن تعلیل اور استعارہ خود دلیل کا کام کرتے ہیں۔ مثلاً یہ حسن تعلیل ہے:

سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی  
بن گیا سطح آب پر کائی

اور یہ استعارہ ہے:

جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے  
سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا

شعر زیر بحث میں یہ مفروضہ، کہ میرا ہونا نواسخان گلشن کو ناگوار ہے، نہ تو ادعاے شاعرانہ ہے، نہ مسلمات شعر میں ہے، اور نہ حسن تعلیل یا استعارے پر قائم ہے بلکہ عام مشاہدے کی رو سے تو آزاد پردوں کو اپنے اسیر ساتھی سے ہمدردی ہی ہوتی ہے، جیسا کہ خود غالب کی اگلی غزل کے اس مشہور شعر میں ہے:

قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہدم  
گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیان کیوں ہو

شعر زیر بحث میں دلیل کیوں نہیں ہے؟ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے شعر کو استعاراتی نہیں بلکہ تمثیلی (Allegorical) معنی میں پڑھنا چاہیے۔ استعارے کے معنی عمومی اور کثیر

ہوتے ہیں۔ تمثیل کے معنی خصوصی اور قلیل ہوتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے شعر کا شکم کوئی مخصوص شخص ٹھہرے گا۔ یہاں شکم کوئی فن کار، کوئی حساس شخص، کوئی اجنبی، نہیں بلکہ شاعر (یعنی خود غالب) ہے۔ قفس سے مراد دہلی یا ہندوستان ہے جسے غالب اپنے لیے نامساعد جانتے ہیں۔ شیون سے مراد خود ان کی شاعری ہے اور نواسخان گلشن خود ان کے معاصر شاعر ہیں۔ لہذا شعر کا مطلب یہ ہوا کہ مانا میری شاعری کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں میں اس شہر (یا ملک) میں قید ہوں۔ ان کو میرا وجود کیوں اس قدر برا لگتا ہے کہ وہ مجھے برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔

غالب نے اس مضمون کو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ وہ قید ہیں، اجنبی ماحول میں ہیں۔ کہیں انھوں نے استعارے کے پردے میں یہ بات کہی ہے تو کہیں براہ راست۔ شاید یہ واحد شعر ہے جس میں انھوں نے (شاید جان بوجھ کر) تمثیلی رنگ اختیار کیا ہے۔ براہ راست بیان کے ذریعہ یہ مضمون لانا کہ میں قید میں ہوں، شاعرانہ رسمیات پر مبنی قرار دیا جاسکتا ہے، کیوں کہ گرفتاری اور پابندی کے مضامین اردو فارسی شاعری میں عام ہیں۔ استعاراتی بیان ہو تو کئی مفہوم نکل سکتے ہیں۔ لہذا غالب نے شاید جان بوجھ کر یہاں تمثیلی انداز برتا ہے، تاکہ بات بالکل صاف اور محدود ہو جائے کہ یہ شعر خود اپنے بارے میں ہے۔ براہ راست اور استعاراتی بیان کی بعض مثالیں، جن میں غالب نے گرفتاری یا اجنبی ماحول میں ہونے کا مضمون بیان کیا ہے، حسب ذیل ہیں:

براہ راست بیان

(۱) بود غالب عند لپے از گلستان عجم

من ز غفلت طوطی ہندوستان نامیدش

(۲) قمر در عقرب و غالب بہ دہلی

سمندر در شط و مانی در آتش

(۳) نہ جانوں نیک بہوں یا بد ہوں پر صحبت مخالف ہے

جو گل ہوں تو ہوں گلشن میں جو خس ہوں تو ہوں گلشن میں

## استعاراتی بیان

- (۱) پیادرید گریں جا بود زباں دانے  
غریب شہر سخن ہاے گفتنی وارد
- (۲) مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور  
رکھ لی مرے خدا نے مری بے کسی کی شرم
- (۳) ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج  
میں عندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں

رہا یہ سوال کہ غالب کے معاصرین تو انہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، انہیں یہ احساس بھلا کس طرح ہو سکتا تھا کہ وہ غیر جگہ پر ہیں، یا قید ہیں، اور لوگ ان کے شیون کو اچھا نہیں سمجھتے؟ تو اگرچہ غالب کی زندگی میں ایسے واقعات کی کمی نہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں زمانے کی ناقدری اور وقت اور جگہ کی نامساعدت کا (غلط یا صحیح) احساس تھا لیکن اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ اجنبیت کا یہ احساس غالب کے مزاج کا جوہر اور ان کی فطرت کا خاصہ تھا۔ انہیں اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ ان پر پتھر ہی پھینکے جائیں یا ان کی شاعری نامفہوم قرار دی جائے۔ غالب کی معنی میں جدید ذہن رکھتے تھے اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ خود کو اپنے ماحول سے Alienated محسوس کرتے تھے۔

اگر یہ کہا جائے کہ اردو شاعری میں تمثیلی بیان بہت کم ملتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاعری میں نہ سہی، نثر میں تو تمثیل ہمارے یہاں بہت شروع سے تھی۔ پھر بیدل کے یہاں تمثیلی انداز بہت ہے اور غالب کا بیدل سے شغف ظاہر ہے۔ علاوہ بریں، حافظ کی تمثیلی شرحیں ہمارے یہاں صدیوں سے عام ہیں۔ لہذا غالب اس طرز سے بالکل بیگانہ نہ تھے۔ دوسری بات یہ کہ اگر تمثیل نہ فرض کی جائے تو شعر زیر بحث کی بنیادی کمزوری رفع نہیں ہوتی۔ تیسری بات یہ کہ اس شعر کو تمثیل سمجھا جائے تو مندرجہ ذیل طرح کے اشعار کی معنویت اور ان کے حوالے سے خود اس شعر کی معنویت زیادہ مستحکم ہوتی ہے:

تو اے کہ مو سخن گسترانہ پیشینی  
مباش مگر غالب کہ در زمانہ تست

غالب آزادہ موجد کیشم  
بریا کی خویشمن گواہ خویشم  
گفتنی بہ سخن بہ رفتگاں کس نہ رسد  
از باز پسین نکتہ گذاراں پیشم

مشکل ہے زبں کلام میرا اے دل  
سن سن کے اسے سخنورانِ کامل  
آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش  
گویم مشکل و گرنہ گویم مشکل

چلتے چلتے مناسبوں کو بھی دیکھ لیجیے۔ قفس، شیون، اچھا، بُرا، نواسخان، گلشن۔ اور اس بات پر بھی غور کیجیے کہ مصرع ثانی کی نثریوں کی جائے: ”کیا میرا ہونا نواسخان گلشن کو برا (گلتا) ہے؟“ تو مگر شاعرانہ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ میرا شیون انہیں ناپسند ہے تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں قفس میں ڈال دیا گیا ہوں۔ لیکن وہ اب بھی خوش نہیں ہیں۔ کیا میرا ہونا (وجود) بھی (یا ہی) ان کو برا لگتا ہے؟

آخری بات یہ کہ سہا مجددی اور (غالباً ان کی تقلید میں) جوش مسلیانی نے نواسخان گلشن پر مستحکم کا وجود ناگوار ہونے کی توجیہ یہ کی ہے کہ مستحکم قید میں نہ ہوتا تو شاید نواسخان گلشن کی خوش حالیوں میں محفل ہوتا۔ اس بنا پر وہ اس سے خار کھائے ہوئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ نہ تو اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ اگر مستحکم قید نہ ہوتا تو نواسخان گلشن کی خوش حالیوں (خوش فعلیوں؟) میں محفل ہوتا اور نہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نواسخان گلشن کو مستحکم سے اس درجہ پر خاش ہے کہ وہ مقید و محبوس ہو گیا ہے اور پھر بھی اس کا وجود ان کے لیے موجب عداوت و عناد ہے۔ تمثیلی حل اختیار کیا جائے تو معنی بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔

(۹۱)

نہیں گر ہمدی آساں نہ ہو یہ رشک کیا کم ہے  
نہ دی ہوتی خدایا آرزوے دوست دشمن کو

(زمانہ تحریر: ۱۸۵۳ء)

شعر کے الفاظ اس قدر آسان ہیں کہ ایک نظر میں دھوکا ہو سکتا ہے کہ یہ غالب کا شعر ہی نہیں ہے۔ لیکن اس میں بہت سی معنوی خوبیوں کے علاوہ ایک چھوٹی سی لفظی ہوشیاری بھی ہے۔ 'دشمن' سانسے کا قافیہ تھا۔ غالب نے 'دشمن' کے پہلے 'دوست' رکھ کر ایک نئی فضا پیدا کر دی ہے۔ (دوست دشمن کو۔)

معنی پر نظر ڈالیے تو کئی سوال اٹھتے ہیں: ہمدی کس کے لیے آسان نہیں ہے؟ یہ رشک کیا کم ہے؟ سے کیا مراد ہے؟ دشمن کو دوست کی آرزو دینے کا ذمہ دار خدا کو کیوں ٹھہرایا ہے؟ پہلے سوال کا جواب شاعرین نے یہ دیا ہے کہ معشوق کا قرب دشمن کے لیے آسان نہیں ہے۔ بقیہ الفاظ کے معنی بھی اسی قیاس پر قائم کیے گئے ہیں کہ مانا دشمن کے لیے آسان نہیں کہ وہ معشوق کا قرب حاصل کر لے، اس لیے اگر اس کے دل میں معشوق کی آرزو ہے تو کوئی خاص بات نہیں۔ لیکن مجھے یہ رشک بھی گوارا نہیں کہ میں جسے چاہوں میرا دشمن بھی اس کی تمنا کرے۔ خدایا کاش تو نے میرے دشمن کے دل میں میرے معشوق کی محبت نہ ڈالی ہوتی۔ یعنی کاش کہ میرا کوئی رقیب نہ ہوتا۔

لیکن یہ سب معنی نہیں گر ہمدی آساں کا اطلاق خود متکلم پر کرنے سے بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ یعنی یوں کہا جاسکتا ہے کہ مانا خود میرے لیے آسان بات نہیں کہ میں معشوق کا قرب حاصل کر سکوں (اور جب یہ قرب میری تقدیر میں نہیں ہے تو کسی دوسرے کو ملے نہ ملے، میرا اس پر کیا زور؟) لیکن پھر بھی مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ

جسے میں چاہوں اسے کوئی اور بھی چاہے۔ خدا اگر دشمن کے دل میں میرے معشوق کی آرزو نہ ڈالتا تو کم سے کم اس رشک کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔

ایک پہلو اور دیکھیے: "یہ رشک کیا کم ہے" کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ "یہ رشک ہی کافی ہے"۔ یعنی اگر ہمدی آسان نہیں تو نہ سہی، لیکن ہمارے مرجانے کے لیے یہی رشک کافی ہے کہ ہم جس پر مرتے ہیں اس کی تمنا ہمارا دشمن بھی کرتا ہے۔ مرنا تو ہر صورت میں مقدر تھا۔ مایوسی کی موت مرتے تو ایک بات تھی، اب یہ عالم ہے کہ رشک سے مرے جا رہے ہیں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ 'دشمن' کو 'معشوق' کے معنی میں لیا جائے۔ یعنی معشوق کو بھی اب تمنا ہوئی ہے کہ اس کا کوئی معشوق ہوتا۔ اب رشک اس شخص پر ہے جو معشوق کا معشوق ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر رقیب کون ہوگا جس پر معشوق خود عاشق ہو؟ معشوق کا خود عاشق ہونا غالب ہی نے ایک جگہ اور باندھا ہے:

دل لگا کر لگ گیا ان کو بھی تنہا بیٹھنا  
بارے اپنی بے کسی کی ہم نے پائی دادیاں  
معشوق کو دشمن کہنا بھی رسوم شاعرانہ میں داخل ہے۔ خود غالب کا شعر ہے:  
دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم  
آہ بے اثر دیکھی نالہ نارسا پایا  
اور سعدی کا بے نظیر شعر ہے:

بہ لطف دلبر من در جہاں نہ بینی دوست  
کہ دشمنی کند و دوستی بجز اید

اگر اس نکتے پر غور کیا جائے کہ خدا نے دشمن (رقیب یا معشوق) کے دل میں معشوق کی آرزو ڈالی ہے تو یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ یہ سب کارخانہ خداوندی اور قدرت الہی کے کرشمے ہیں کہ لوگ عشق میں مبتلا ہوتے اور عشق یا رشک سے مرتے ہیں۔

(۹۲)

نہ لگتا دن کو تو کب رات کو چین سے سوتا  
رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۳ء)

اکثر شارحین نے اس کو بیت الغزل قرار دیا ہے۔ بیخود موبہانی کہتے ہیں کہ شعر میں استعارے ہی استعارے ہیں۔ 'دن' سے مراد اوائل عمر، 'لگتا' سے مراد دل کا جانا۔ وہ معشوق جس نے جوانی میں دل اڑا لیا اس لیے رہزن ہے کہ اس نے دل کو بزدور لیا، برخلاف اور معشوقوں کے جو چوری سے کام لیتے ہیں۔

یہ سب درست، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ شعر کی بے ساختگی اور برجستگی ایسی ہے اور اپنے نقصان پر خوش ہونے اور نقصان کو فائدہ ثابت کرنے میں ایسی اچھی تخیلی کوشش سے کام لیا ہے کہ یہ شعر اردو فارسی کے بہترین اشعار میں شمار ہونے کے لائق ہے۔ لیکن بیخود کی تشریح کے باوجود شعر کی ڈرامائیت اور افسانویت کا پورا حق نہیں ادا ہوتا۔ یعنی اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ شعر میں محاکات کی جو فضا ہے وہ کس عنصر کی مرہون منت ہے۔ اس سوال کو یوں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ شعر کس موقعے کے لیے کہا گیا ہے؟ 'لگتا' اور 'رہزن' تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ واردات کہیں راستے میں ہوئی ہے۔ لیکن چوری کا کھٹکا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ منکلم گھر میں ہے، کیوں کہ چوری کا تعلق قیام یا گھر سے ہے اور رہزنی کا تعلق راستے یا سفر سے۔

دراصل یہی نکتہ شعر کی سب سے بڑی قوت ہے۔ سفر کے عالم میں، کسی آخری یا درمیانی منزل پر پہنچنے کے لیے پہلے منکلم کا اسباب راہزن نے لوٹ لیا۔ منکلم بے برگ و نوا ہو کر کسی قیام گاہ یا منزل پر پہنچتا ہے۔ اگر اس کے پاس ساز و سامان ہوتا تو چوری کے کھٹکے کی بنا پر اسے نیند نہ آئی۔ یا شاید سوتا بھی تو چین سے نہ سوتا۔ اب جب کہ وہ مال

اسباب سے عاری ہے، اسے کوئی خوف نہیں۔ اس کے پاس ہے ہی کیا جس کی حفاظت کے خیال سے اسے نیند نہ آئے؟ لیکن مال اسباب کے لٹ جانے کے باعث چین کی نیند سونا محض معصومیت اور انجام سے بے خبری ہے، کیوں کہ مال چلا گیا، لیکن جان تو باقی ہے۔ ممکن ہے اگلے پڑاؤ پر پہنچتے پہنچتے جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ اطمینان قبل از وقت اور یہ چین کی نیند بے خبری کی نیند ہے۔ منکلم کی یہ معصومیت شعر کو ڈرامائی طنز کی انتہائی سطح پر پہنچا دیتی ہے۔ اب یہ شعر محض قناعت یا ضعف کی بنا پر اطمینان کی تصویر نہیں، بلکہ انجام سے بے خبری اور اس معصوم اعتقاد پر ڈرامائی طنز ہے کہ اگر ایک بار مصیبت آگئی تو دوبارہ نہ آئے گی۔ مضمون کی تازگی کے اعتبار سے یہ شعر مضمون آفرینی کی عمدہ مثال ہے اور معنی کی گہرائی کے اعتبار سے یہ معنی آفرینی کا نادر نمونہ ہے۔

اگر کہا جائے کہ لفظ 'چوری' کو اتنے وسیع معنی کا اشارہ بنانے کا جواز نہیں، ممکن ہے غالب نے یوں ہی 'رہزن' کی مناسبت سے 'چوری' کہہ دیا ہو، تو جواب یہ ہے کہ 'چوری' کی جگہ 'نقصان' رکھ کر دیکھیے:

مع: رہا کھٹکا نہ نقصان کا دعا دیتا ہوں رہزن کو

معنی اب بھی موجود ہیں۔ لیکن 'چوری' سے حاصل شدہ معنی کم ہو جانے کے باعث شعر کا رتبہ کم ہو جاتا ہے۔ لہذا لفظ 'چوری' کے امکانات کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔

بعض لفظی محاسن پر بھی غور کر لیجیے۔ 'کب' کے معنی یہاں 'بھلا کیوں کر ہیں، نہ کہ کس وقت'۔ یہ لفظ انتہائی بلیغ ہے، کیوں کہ اس کا اصل مفہوم (کس وقت) 'رات' سے (جو ایک وقت ہے) سے مناسبت رکھتا ہے، ورنہ 'کب' کی جگہ 'کیوں' سے بھی کام چل سکتا تھا۔ 'کھٹکا' اور 'چوری' میں ضلع ہے، کیوں کہ کھٹکا دروازے میں بھی ہوتا ہے جسے چوری سے حفاظت کی خاطر دروازے میں لگاتے ہیں تاکہ وہ مضبوطی سے بند ہو سکے۔ دعا دینے کا عمل لغوی معنی میں بھی ہے اور استعارہ بھی، کیوں کہ چین سے سونا خود ہی دعا دینے کے برابر ہے۔ پھر، اس رہزن کو، جو مال و اسباب لے گیا، دعا دینا بھی کس قدر خوب ہے۔ مال و متاع تو دے ہی دیا، دعا بھی نہ اٹھا رکھی۔ دن کو لٹنے کے نتیجے میں رات کو چین سے سونے میں یہ نکتہ بھی ہے کہ رات کا چین نصیب ہونے کی صورت یہی تھی کہ مال و متاع سب گنوا دیا جائے۔ جو چیز باعث اضطراب ہے (لگتا) اسی کو موجب سکون ٹھہرایا ہے۔ غرض شعر کیا ہے، اعجاز ہے۔

(۹۳)

بھاگے تھے ہم بہت سو اسی کی سزا ہے یہ  
ہو کر اسیر دابتے ہیں راہزن کے پانو  
(زمانہ تحریر: ۱۸۳۸ء)

اس شعر کی تشریح میں شارحین کو جو زحمت ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شعر کے الفاظ پر غور نہ کیا جائے، بلکہ اس کی شرح اپنے مفروضات کی روشنی میں کی جائے تو خلط بحث پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً طباطبائی نے لکھا ہے کہ اگر اسے استعاراتی شعر کہا جائے تو بھی نہ معنی حقیقی ظاہر ہوتے ہیں اور نہ استعارے واضح ہیں۔ اس پر بیخود موبانی جھنجھلا کر جواب دیتے ہیں کہ معشوق کا راہزن سے استعارہ تو ایسا صاف ہے جیسے چمکتا سورج۔ یوسف سلیم چشتی فرماتے ہیں کہ اس غزل میں کئی شعر ایسے ہیں جن میں قافیہ بیانی کے سوا کوئی معنوی خوبی نہیں۔ اس شعر میں ”بہت کھینچا تانی کے بعد یہ معنی پیدا ہو سکتے ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔“

سوال یہ ہے کہ ”راہزن“ کو معشوق کا استعارہ فرض ہی کیوں کیا جائے؟ یا اس شعر کا مضمون جبر و قدر کیوں فرض کیا جائے؟ کیوں نہ سیدھے سیدھے یہ کہا جائے کہ اس کا مضمون تقدیر کی ستم ظریفی یا کارکنان قضا و قدر کی سنگ دل خوش طبعی ہے؟ شیکسپیر نے ایک کردار کی زبانی کہلایا ہی ہے کہ دیوتا لوگ ہم انسانوں کو از روے لہو و لعب مارتے اور ختم کرتے رہتے ہیں۔ یہ شعر بھی اسی قبیل کا معلوم ہوتا ہے۔

پاؤں دابنے کا پیکر شعر میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ شارحین نے پاؤں دابنے سے مراد یہ لی ہے کہ معشوق از راہ نارائستگی یا از راہ تحقیر عاشق کو ذلیل کرتا ہے یا اس پر بہت زیادہ ستم کرتا ہے۔ لیکن اگر ”راہزن“ کو معشوق کا استعارہ نہ فرض کریں تو یہ معنی

غیر ضروری ہو جاتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں بہت بھاگنے کا ذکر ہے۔ یعنی متکلم کو اپنی تیز رفتاری پر بہت ناز تھا یا وہ بہت آزادہ رو اور وارستہ مزاج تھا، ادھر ادھر آوارہ پھرتا تھا۔ اسے گرفتاری (کسی بھی چیز میں پھنس جانا، محض قید نہیں) پسند نہ تھی۔ تیز رفتاری اور آوارگی نے اس کے پاؤں تھکا دیے۔ پاؤں تھکنے کا لازمی نتیجہ تھا گرفتاری۔ کسی چیز سے بہت گریز کیا جائے تو وہ ہم کو آپکڑتی ہے، یہ عام عقیدہ (بلکہ مشاہدہ) ہے۔ جب گرفتار ہو گئے (جس چیز سے گریز تھا اس میں مبتلا ہو جانا پڑا) تو گرفتار کرنے والے کی خدمت گزاری پر مقرر کر دیے گئے، یعنی جس شے سے گریز تھا اس میں پوری طرح پھنس جانا پڑا، اس قدر کہ بالکل اسی کے ہو کر رہ گئے۔ اس بات کو آوارگی اور سرگردانی کے بعد گرفتار ہونے اور گرفتار کرنے والے کی خدمت پر مامور ہونے کے استعارے کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ آوارگی اور سرگردانی کے نتیجے میں پاؤں تھک جانے اور گرفتار ہو جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تھکے ہوئے پاؤں کو آرام پہنچانے کی کوئی سبیل کی جاتی، لیکن ہوا یہ کہ گرفتار ہونے والے کو ہی یہ کام دے دیا گیا کہ تم اپنے گرفتار کرنے والے کے پاؤں دباؤ۔ ضرورت مند تو متکلم تھا، لیکن جو ضرورت اس کی تھی، اسے دوسرے کی ضرورت بنا دیا گیا اور خود ضرورت مند متکلم کو اس ضرورت کی تکمیل کے لیے متعین کیا گیا۔ اس طرح یہ شعر الگ الگ استعاروں پر مبنی نہیں ہے بلکہ پورا پورا استعارہ ہے۔ شعر کا مدعا یہ ہے کہ تقدیر الہی کا کارخانہ بھی عجب ہے۔ جس کو فائدے یا علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ وہی علاج یا فائدہ دوسروں کو مہیا کرو۔ اب اس کو آپ چاہے عاشق اور معشوق کے معاملات پر منطبق کریں، چاہے کسی اور صورت حال پر، شعر اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ اس کو خوش طبعی کا شعر بھی کہہ سکتے ہیں، شوخی کا بھی اور طنز یہ بھی۔ ہر صورت میں یہ انسانی صورت حال کا مذاق اڑاتا ہوا اور انسان کی مجبوری کو نقفن کے لہجے میں بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

(۹۴)

مرہم کی جستجو میں پھرا ہوں جو دور دور  
تن سے سوا فگار ہیں اس خستہ تن کے پانو

(زمانہ تحریر: ۱۸۳۸ء)

شارحین کا یہ خیال درست نہیں ہے کہ اس شعر میں بھی گزشتہ شعر کا مفہوم ہے۔ گزشتہ شعر، جیسا کہ ظاہر ہوا ہوگا، تقدیر کی ستم ظریفی پر خوش طبع یا لطیف طریقاً نہ طنز ہے اور پورا پورا استعارہ ہے۔ زیر بحث شعر میں تقدیر کی ستم ظریفی نہیں بلکہ اس کے ستم کا تذکرہ ہے۔ نہ بیخود موبہانی کا یہ کہنا کافی ہے کہ تلاش مرہم میں وہ زحمت ہوئی جو زخم میں نہ تھی یا کوشش وصل میں جو تکلیف اٹھانا پڑی وہ تمنائے وصل میں نہ تھی اور نہ طباطبائی کی یہ شرح عمل ہے کہ جس آفت کی چارہ جوئی کریں، اسی میں پھنتے ہیں۔ نہ ہی بیخود دہلوی کا یہ خیال پورے شعر کو حاوی ہے کہ جس چیز کے حصول کے لیے سعی کی جائے وہ ہمیشہ نہیں ملتی، گو ہر مراد کبھی کبھی ہی ملتا ہے۔

بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک پاؤں کام کر رہے تھے، میں مرہم کی جستجو میں سرگرداں تھا۔ اتنی جستجو کی، اتنی بھاگ دوڑ کی کہ جسم کے زخم سے زیادہ پاؤں زخمی ہو گئے۔ اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں: (۱) سعی علاج نے وہ مرض پیدا کیا جو اصل مرض سے بڑھ کر تھا۔ (۲) اب پاؤں بے کار ہو گئے ہیں، اس لیے مرہم کی جستجو میں تنگ و دو کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ نہ صرف یہ کہ ایک مرض (تن فگار) کو لا علاج کر لیا بلکہ ایک لا علاج مرض (تن سے سوا فگار پاؤں) اور پیدا کر لیا۔ پاؤں کا زخم اس لیے لا علاج ہے کہ اب نقل و حرکت ہی ممکن نہیں تو علاج کے لیے کہاں جائیں؟ اس طرح یہ غالب کے مخصوص رنگ، یعنی بظاہر قول محال کا شعر ہے۔ سعی علاج

سے وہ مرض پیدا ہوتا ہے جو خود لا علاج ہے۔ چارہ گری سے کوئی فائدہ نہیں، سعی علاج کا کچھ حاصل نہیں، سوا اس کے کہ مرض ہی لا علاج ہو جائے۔ تقدیر کے سامنے تدبیر کی مجبوری اور انسان کی ہمہ وجوہ بے چارگی اور بے بسی کے مضمون پر لا جواب شعر ہے۔ تن کے فگار ہونے کو براہ راست نہ کہہ کر خود کو خستہ تن کہا ہے۔ ایسے انداز کو کنایاتی کہتے ہیں۔



(۹۵)

واں پہنچ کر جو غش آتا ہے ہم ہے ہم کو  
صدرہ آہنگ زمیں بوس قدم ہے ہم کو  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۶ء، قبل ۱۸۲۸ء)

تمام شرح نے پہلے مصرعے میں 'پے ہم' کو 'ہیم' (مسلل، بار بار) کے معنی میں لیا ہے۔ طباطبائی نے اس پر دبی زبان سے حرف گیری کی ہے کہ اگرچہ 'پے ہم' اور 'ہیم' دونوں صحیح ہیں، لیکن اردو کا محاورہ 'ہیم' ہے اور اس سے انحراف کرنا نقل فصاحت ہے۔ بیخود موبانی نے 'پے ہم' کی سند میں مومن کے ایک چھوڑ دو شعر نقل کیے ہیں اور کہا ہے کہ اس زمانے میں دونوں مروج تھے۔

بیخود موبانی کی بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن سب لوگوں نے یہ تکیہ نظر انداز کر دیا ہے کہ یہاں 'ہیم' بمعنی 'غم و اندوہ' بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح 'پے ہم' کے معنی ہوئے 'غم و اندوہ کے باعث'۔ 'ہم' کے معنی 'بیاری یا کسی وجہ سے پگھلنا' بھی ہیں۔ لہذا 'ہم' 'پے ہم' کو ایک لفظ فرض کریں اور 'مسلل' کے معنی میں، تو بھی ٹھیک ہے اور اسے مرتب فرض کریں اور 'غم و اندوہ' پگھلنے کے باعث مراد لیں، تو بھی ٹھیک ہے۔

زیادہ تر شارحین نے 'قدم' سے متکلم کے اپنے قدم مراد لیے ہیں۔ عاشق جب کوچہ معشوق میں پہنچتا ہے تو فوراً جذبہ کے باعث اس کو بار بار غش آتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے قدموں کا نمونہ بھی ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اسے کوئے معشوق تک پہنچا تو دیا۔ اظہار تشکر کے طور پر وہ اپنے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، لیکن ضعف کے باعث چوم نہیں سکتا۔ اس کا بار بار غش کے عالم میں جھکنا اور گرنا ہی اپنے قدم چومنے کے مرادف ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غش محض بہانہ ہے اپنے ہی قدم چومنے کا۔ کوچہ یار میں پہنچ کر

عاشق سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن اس کا دل درد مند ہے، اس لیے دوست قدموں کا شکر یہ غش کے پردے میں ادا کر دیتا ہے۔

اس شرح میں قباحت یہ ہے کہ اپنے ہی قدم چومنے کا جذبہ اور عمل دونوں خاصے بھونڈے اور نہ تصنع اور دور از کار ہیں۔ پھر، شعر میں تشکر کے احساس کا کوئی ذکر نہیں، صرف غش آنے اور قدم بوسی کا ذکر ہے۔ لہذا یہ فرض کرنے کا کوئی جواز نہیں کہ متکلم اپنے پیروں کا شکر گزار ہے اور اظہار تشکر کے طور پر ان کو چومنا چاہتا ہے۔ لہذا یہ شرح درست نہیں۔ سہا مجددی نے 'بوس قدم' سے معشوق کی قدم بوسی مراد لی ہے۔ یعنی عاشق کو بار بار غش آتا ہے، وہ زمین پر گر کر پڑتا ہے اور اس طرح اس کو معشوق کے پاؤں چومنے کا موقع یا بہانہ ہاتھ آجاتا ہے۔ یہ معنی بہت خوب ہیں، لیکن پھر 'صدرہ آہنگ زمیں' کی معنویت کم ہو جاتی ہے۔ 'صدرہ' یعنی 'بار بار' اور 'آہنگ' یعنی 'زمین' (پر گرنے) کا ارادہ یا عمل۔ یعنی بار بار زمین پر گرنے کا عمل ہی بوس قدم کا کام کر رہا ہے۔ (ہمارے لیے صدرہ آہنگ زمیں بوس قدم ہے۔ یا ہمارے لیے بوس قدم کیا ہے، بس زمین پر گرنے کا عمل ہے، کیوں کہ ہمیں غش پر غش آرہے ہیں۔)

اس گفتگو کی روشنی میں شعر کا بہترین مطلب یہ ہوا کہ معشوق کی گلی میں پہنچ کر ہم کو غم و اندوہ کے باعث یا مسلل، غش پر غش آتے ہیں اور ہم بار بار زمین سے اٹھتے اور گرتے، گرتے اور اٹھتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے معشوق کی قدم بوسی کا حکم رکھتا ہے۔ ہماری یہ قسمت کہاں کہ معشوق کے قدم لے سکیں، ہماری تو شاید اتنی بھی عزت نہیں کہ ہم اس کوچے کی زمین کو بوسہ دے سکیں۔ ہم تو بس بار بار غش کھا کر گرتے ہیں اور یہی ہمارے لیے بہت ہے کہ اس طرح ہم اس کی زمین کو چوم لیتے ہیں۔ زمیں بوسی ہمارے لیے معشوق کی قدم بوسی کے برابر ہے۔

لیکن ایک صورت اور بھی ہے، اس میں معنی اور بھی لطیف ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر مصرع ثانی میں دو مرتب پڑھے جاتے ہیں (۱) آہنگ زمیں اور (۲) بوس قدم۔ لیکن 'آہنگ زمیں بوس' کو ایک مرتب اور 'قدم' کو تہا قرار دیجیے تو عجب لطف پیدا ہوتا ہے۔ 'آہنگ زمیں بوس' کے معنی ہوئے 'زمین کو چومنے کا عمل یا ارادہ'۔ اب شعر کی شرح یہ ہوتی کہ ہم کسی نہ کسی طرح کوئے یار تک تو پہنچ گئے، لیکن آگے جانے کی تاب نہیں۔ مسلسل غش

آ رہے ہیں، اب قدم اٹھتا نہیں۔ سو سو بار اٹھتے ہیں اور گرتے ہیں۔ بس یہی ہمارا قدم ہے، بس یہی ہمارا سفر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی اس لیے بہتر ہیں کہ اس طرح لفظ قدم میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے اور مضمون وسیع تر ہو جاتا ہے۔

اگر یہ خیال ہو کہ 'ز میں یوں' کو 'ز میں یوں' کے معنی میں کیوں کر لے سکتے ہیں تو خود غالب کا شعر موجود ہے:

مشہد عاشق پہ کوسوں تک جو آگتی ہے حتا

کس قدر یارب ہلاک حسرت پا یوں تھا

ظاہر ہے کہ 'حسرت پا یوں' کے معنی ہیں 'حسرت پا یوں'۔ فارسی محاورے کی رو سے یہ بالکل درست ہے۔

شعر میں ضلع اور مراعات کے بہت سے التزامات ہیں جن پر شارحین کی نظر نہیں گئی ہے۔ پہنچ اور آتا۔ پے (بمعنی پاؤں) اور قدم۔ پہنچ اور رہا (رہنا) کا صیغہ امر اور راہ کا (مخفف)۔ ز میں اور قدم۔ ہم اور ہم (بمعنی غم و اندوہ)۔ پیہم (بمعنی مسلسل) اور صدرہ (بمعنی بار بار، یعنی مسلسل)۔ صدرہ کے معنی 'سوطر' نہیں بلکہ 'سویاڑ' ہیں۔ پہنچ اور قدم۔ الفاظ کو اس طرح دست و گریباں کرنا کہ وہ طرح طرح سے بر محل معلوم ہوں یا ایسے الفاظ استعمال کرنا جو طرح طرح سے بر محل ہوں، غالب کا خاص کمال تھا۔

(۹۶)

بچتے نہیں مواخذہ روز حشر سے

قاتل اگر رقیب ہے تو تم گواہ ہو

(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۴۷ء، قبل ۱۸۴۹ء)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چون کہ گواہ سے کوئی باز نہ رہے نہیں ہوتی، اس لیے معشوق کو یہ دھمکی دینا بے معنی ہے کہ تم قتل کے گواہ ہو اس لیے تم مواخذہ روز حشر سے بچ نہیں سکتے۔ بخیر و موہانی نے اس اعتراض کی رد میں شعر کی دلچسپ لیکن دور از کار تشریح کی ہے کہ مواخذہ تو رقیب کا ہی ہوگا، لیکن رقیب چون کہ معشوق کا معشوق ہے، اس لیے رقیب کے مواخذے سے معشوق کو تکلیف پہنچے گی۔ اس شرح میں کئی قباحتیں ہیں۔ اول تو یہ ثابت نہیں کہ رقیب دراصل معشوق کا معشوق ہے۔ دوسری یہ کہ رقیب کو سزا ملنے سے معشوق کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے، لیکن اسے مواخذہ روز حشر نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ مواخذہ تو براہ راست ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ 'مواخذہ' کے معنی 'سزا' کے ہیں ہی نہیں۔ 'مواخذہ' کے معنی ہیں 'گرفت'، باز نہ رہا اور بدلہ یا مکافات اس کے مجازی معنی ہیں۔ اگر 'باز نہ رہا' کے معنی ٹھیک نہ بیٹھیں تو 'مکافات' کے معنی لے سکتے ہیں۔ یہاں ظاہر ہے کہ 'باز نہ رہا' کے معنی بالکل ٹھیک آ رہے ہیں۔ لہذا 'مواخذہ روز حشر' کے معنی 'قیامت کے دن باز نہ رہا' ہیں، اور رقیب کا مواخذہ معشوق کے لیے کچھ خاص باعث تکلیف نہیں ہو سکتا۔

بعض لوگوں نے اس مشکل کو یوں حل کیا ہے کہ قتل اگرچہ رقیب نے کیا ہے، لیکن معشوق کی شہ پر کیا ہے یا معشوق نے براہ راست ارتکاب جرم سے بچنے کے لیے رقیب کے ہاتھوں عاشق کو مروا ڈالا۔ یہاں بھی وہی مشکل ہے کہ شعر میں معشوق کو صرف گواہ

بتایا گیا ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ معشوق کی شہ پا کر یا معشوق کی طرف سے رقیب نے قتل کیا ہے۔

اصل میں اس شعر کا مضمون انگریزی قانون شہادت و تعزیر سے ماخوذ ہے۔ اس قانون کی رو سے جرم کا شاہد بھی جرم میں شریک ٹھہرتا ہے اگر وہ جرم کو پوشیدہ رکھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی جرم کے ارتکاب کے بعد بھی کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص نے جرم کیا ہے اور وہ اس بات کو پوشیدہ رکھے، تو مجرم ٹھہرے گا۔ لہذا اس قانون کی رو سے معشوق، جس نے قتل کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن جرم کو پوشیدہ رکھنا چاہا ہے، مواخذے کا مستحق ہے۔

اگر سوال یہ اٹھے کہ جرم کے پوشیدہ رکھنے کا ذکر شعر میں کہاں ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ اگر جرم پوشیدہ نہیں ہے تو پھر شعر کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بات تو یہی ہے کہ رقیب نے (یا رقیب اور معشوق نے مل کر) عاشق کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے یا اس منصوبے کو سرانجام دیا ہے، اور صرف ان دونوں کو اس کی خبر ہے۔ اگر یہ بات سب کو معلوم ہو تو صرف معشوق کو مستحبہ کرنے کے کیا معنی کہ اگر رقیب قاتل ہے تو تم گواہ ہو۔ اگر بہت سے گواہ ہوتے تو تمہا معشوق کو مجرم ٹھہرانا فضول تھا۔

(۹۷)

گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کر ہو  
کہے سے کچھ نہ ہوا پھر کہو تو کیوں کر ہو  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۳ء)

یہ پوری غزل غالب کے عام رنگ سے ہنسی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی ان کا مخصوص طریق کار پوری طرح جلوہ گر ہے۔ اس غزل سے ثابت ہوتا ہے کہ غالب کی پیچیدگی صرف فارسیت کی بنا پر نہیں تھی بلکہ ان کے ذہن کا تقاضا ہی ایسا تھا کہ وہ ہر بات کی متعدد جہتیں ان اشعار میں بھی پیش کر سکتے تھے جن میں وہ فارسی بہت کم برتتے تھے۔ شعر زیر بحث میں صرف ایک لفظ فارسی ہے اور وہ بھی بالکل عام معنی کی کئی جہتیں موجود ہیں، جیسا کہ آگے بیان ہوتا ہے۔

ایک مفہوم تو وہی ہے جو کتابوں میں بیان ہوا ہے، یعنی اب وہ دن نہیں رہے جب میں اس فکر میں رہتا تھا کہ معشوق سے بات ہو تو کس طرح ہو یا کس پہلو سے ہو۔ اب بات تو اس سے ہو بھی چکی، لیکن مقصد برآری نہ ہوئی۔ اب کیا کروں؟ دوبارہ کہوں تو کس امید پر کہوں؟ ایک بار تو کہہ کے دیکھ لیا۔ کچھ حاصل تو ہوا نہیں۔ دوبارہ اپنے کو ذلیل کیوں کروں؟

اب مزید نکات ملاحظہ ہوں۔ ”گئی وہ بات“ کے دو مفہوم ہیں (۱) وہ وقت گیا۔ (۲) اپنے سے جو بات کرتے پھرتے تھے، وہ اب ختم ہوئی۔ معشوق کے سامنے جب لب اظہار نہ کھلے تھے تو اپنے آپ سے باتیں کرتے تھے کہ یہ کبھی گے، وہ کہیں گے۔ یا خود کو معشوق فرض کر کے یا معشوق کو موجود فرض کر کے اس سے براہ راست بات کرنے کی مشق کرتے تھے۔ اب وہ سب باتیں نہ رہیں۔ مصرع اولیٰ میں ”کیوں کر ہو“ کے

تین معنی ہیں (۱) بات کس لہجے سے ہو، کس پہلو سے ہو۔ (۲) کیا سبیل کی جائے کہ بات ہو سکے۔ (۳) بھلا یہ ممکن ہی کہاں ہے؟ ہو تو کیوں کر ہو، یعنی بھلا ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ مصرع ثانی میں ”کچھ نہ ہوا“ کے دو معنی ہیں (۱) کوئی اثر نہ وہا۔ (۲) اظہار نارسا رہا۔ یعنی کہا تو ضرور، لیکن ٹھیک سے نہ کہا۔ پوری طرح نہیں کہا۔ ”پھر“ کے آگے سوالیہ نشان فرض کیجئے تو معنی یہ بنتے ہیں کہ پہلے تو یہ فکر تھی کہ معشوق سے بات ہو تو کیوں کر ہو۔ لیکن اب پریشانی یہ ہے کہ اگر کہا اور کچھ اثر نہ ہوا تو پھر؟ زندگی کس طرح نیبے گی؟ کہو لو گو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کہنا اور چیز ہے، گفتگو اور چیز۔ ہم نے کہہ تو لیا لیکن گفتگو نہ ہوئی۔ پہلے مصرعے میں گفتگو کا ذکر ہے اور دوسرے مصرعے میں کہنے کا۔ لہذا معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کہا تو ضرور، لیکن گفتگو نہ ہوئی (یعنی اس نے کچھ سوال جواب نہ کیا)۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہم نے کہہ تو سب کچھ لیا، لیکن محسوس ہوا کہ کچھ نہ کہہ پائے۔ اب دوبارہ کہیں بھی تو کیا پتا اس بار بھی کچھ کرنے یا ہونے کا احساس ہو کہ نہ ہو؟

واقعہ یہ ہے کہ اس قدر مشکل زمین میں، اتنی آسان زبان کے ساتھ اس قدر تازہ اور پیچیدہ شعر غالب (یا پھر میر) کے ہی بس کا تھا اور معاملہ ہندی کے نقطہ نگاہ سے دیکھیے تو مومن بھی مات ہوتے ہیں۔

(۹۸)

تمہیں کہو کہ گذارا صنم پرستوں کا  
بتوں کی ہو اگر ایسی ہی خو تو کیوں کر ہو  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۳ء)

بیخود موبہانی نے یوں تو بہت خوب کہا ہے کہ ایسی ہی خو کا فقرہ معشوقوں کی تمام سنگ دلانہ صفات پر بھاری ہے، لیکن ان سے وہ غلطی ہو گئی ہے جو عام شارحین سے سرزد ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی ”صنم پرست“ کے معنی ”عاشق“ اور ”بت“ کے معنی ”معشوق“ قرار دیے ہیں۔ حالاں کہ لطیف تر معنی یہ ہیں کہ ”صنم پرست“ اور ”بت“ دونوں کو لغوی معنی میں فرض کیا جائے۔ اب معنی یہ ہوں گے کہ بت پتھر کا ہوتا ہے، اس پر آہ وزاری کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ بے حس و حرکت اور اس کا دل (اگر اس کے دل کوئی ہے بھی) احساسِ مروت سے عاری ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بت پرست شکستہ دل ہو کر مرتے نہیں بلکہ کسی نہ کسی طرح زندگی گزار لیتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ بت چاہے کتنا ہی تغافل کیش کیوں نہ ہو، تم جیسا سرد مہر اور تغافل کیش نہیں ہو سکتا۔ تم تو اپنے کسی عاشق کو زندہ ہی نہیں رہنے دیتے۔ اگر بتوں کی ختم جیسی ہوتی تو بت پرستوں کی جان پر بن جاتی۔

اس مفہوم میں ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک وقوعہ بھی فرض کیا جاسکتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب سے ستم کا شکوہ کرتا ہے۔ معشوق بتوں کی مثال دیتا ہے کہ دیکھو بت تو بالکل ہی پتھر کا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ عاشق جواب دیتا ہے کہ تمہیں کہو..... اٹخ۔ نیر مسعود نے اپنی کتاب ”تعبیر غالب“ میں ”صنم پرست“ اور ”بت“ کے لغوی معنی کو اختیار کیا ہے لیکن معنی دوسرے نکالے ہیں۔ ظاہر ہے

(۹۹)

ہمیں پھر ان سے امید اور انہیں ہماری قدر  
ہماری بات ہی پوچھیں نہ وہ تو کیوں کر ہو

(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۵۳ء)

متداول معنی یہ ہیں کہ مصرع اولیٰ مبتدا ہے اور 'کیوں کر ہو' خبر، اور 'ہماری بات' جملہ معترضہ ہے۔ یعنی ہمیں پھر ان سے امید کیوں ہو اور انہیں ہماری قدر کیوں کر ہو جب وہ ہماری بات ہی نہ پوچھیں۔ یہ معنی بہت خوب ہیں۔ لیکن ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں پھر ان سے امید کو الگ جملہ فرض کر کے 'ہے' کو مقدر قرار دیا جائے۔ یعنی ہمیں پھر ان سے امید ہے۔ اب مفہوم یہ نکلا ہمیں ایک بار مایوسی ہوئی تھی، لیکن اب پھر ہم امید دار ہو رہے ہیں، ہماری امید پھر ان پر لگی ہوئی ہے اور وہاں عالم یہ ہے کہ وہ ہماری بات ہی نہیں پوچھتے۔ ایسی صورت میں انہیں ہماری قدر ہو تو کیوں کر ہو؟ اگر 'اور' کو 'لیکن' کے معنی میں لیا جائے تو معنی بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ 'اور' بمعنی 'لیکن' اردو میں متداول ہے۔ 'اردو لغت' (ترقی اردو بورڈ کراچی) میں سب سے قدیم مثال 'سب رس' کی ہے: "جوں خم لبالب شراب سوں بھریا ہے ہو مستی گم" آج کا روز مرہ ہے، مثلاً "پانی سر سے اونچا ہو گیا اور تم اب تک بے خبر ہو"۔

کہ یہ سب معنی متداول شرح کو منسوخ نہیں کرتے۔ مقصود صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس بظاہر سادہ سے شعر میں بھی غالب نے ایک ہیچ ڈال دیا ہے۔ یعنی استعاراتی الفاظ کو لغوی معنی میں بھی فرض کرنے کی گنجائش رکھ دی ہے اور اس طرح نئے معنی کے امکانات پیدا کر دیے ہیں۔ معاملہ بندی اس پر مستزاد ہے۔

(۱۰۰)

یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ  
کہ جب دل میں تمہیں تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۳ء)

سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ پورے شعر میں ترصیح ہے۔ یعنی آٹھ کے آٹھوں رکن وہیں ختم ہوتے ہیں جہاں لفظ ختم ہوتا ہے۔ یہ کہہ سکتے مفاعیلین / ہو ہم دل میں مفاعیلین / نہیں ہیں پر مفاعیلین یہ بتلاؤ مفاعیلین / کہ جب دل میں مفاعیلین / تمہیں تم ہو مفاعیلین / تو آنکھوں سے مفاعیلین / نہاں کیوں ہو مفاعیلین۔ ترصیح ایک طرح کی صنعت تو ہے ہی، لیکن بعض لوگوں نے اسے شعر کی لازمی شرط قرار دیا ہے۔ میں اتنی دور تک تو نہ جاؤں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ترصیح کے ذریعے خوش آہنگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ غالب کے یہاں یہ صفت بہت نمایاں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دو مصرعوں میں پانچ جملے استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے مصرعے میں تین اور دوسرے میں دو جملے ہیں۔ جملوں کی یہ کثرت آہنگ میں تنوع پیدا کرتی ہے، کیوں کہ بعض جگہ جملوں کی خاطر مصرعے کو تیز رفتاری سے اور بعض جگہ رک رک کر پڑھنا پڑتا ہے۔ مثلاً:

بجا کہتے ہو بچ کہتے ہو پھر کہو کہ ہاں کیوں ہو

یہاں چار جملے ہیں، پہلے تین جملے تیز پڑھے جائیں گے اور پھر واضح وقفہ دیا جائے گا۔ اس غزل کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اشعار میں جملوں کی کثرت ہے۔ یہ سب تو ہوا، لیکن شعر کے معنی بیان کرنا ٹیڑھی کبیر ہے۔ کچھ معنی متداول شروع میں ہیں اور ایک آدھ نکات میں نے نکالے ہیں۔ لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، یہی کہہ سکتا ہوں کہ کمال حسن کے باوجود اس شعر میں معنی واضح نہیں ہیں۔ پہلے مروج

تشریحات دیکھیے:

(۱) مصرع اولیٰ میں استفہام انکاری ہے۔ یعنی اس کو یوں Decode کیا جائے گا: کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم (معشوق) تمہارے (عاشق کے) دل میں نہیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ تم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم (معشوق) تمہارے (عاشق کے) دل میں نہیں ہیں تو یہ بتلاؤ..... اس میں دو قباحتیں ہیں۔ اول یہ کہ معشوق یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ ہم عاشق کے دل میں نہیں ہیں؟ معشوق ہمیشہ عاشق کے خلوص اور وفاداری پر شک کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ تمہارے دعوے اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں تم پر اعتبار نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں ہم نہیں ہیں۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ مصرعے کی نثر 'لیکن' کی جگہ 'پھر' کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض لوگوں نے 'پُر' کو 'پھر' پڑھا بھی ہے اور مطلب سیدھا کر لیا ہے۔ لیکن نثر عرشی اور تمام معتبر نسخوں میں 'پُر' ہی ہے، 'پھر' نہیں۔

(۲) دوسرے مصرعے میں استفہام نہیں، بلکہ خبر ہے۔ اب نثریوں ہوگی: تم کہنے کو تو کہہ سکتے ہو کہ ہم (معشوق) تمہارے (عاشق کے) دل میں نہیں ہیں۔ یعنی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارا دعوے عشق جھوٹا ہے۔ لیکن یہ تو بتلاؤ کہ..... اس میں قباحت یہ ہے کہ مصرعے دولت ہوئے جاتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں تو معشوق کی زبان سے کہلایا کہ معشوق ہمارے (عاشق کے) دل میں نہیں ہے اور دوسرے مصرعے میں دعویٰ کیا کہ معشوق کے سوا دل میں کوئی نہیں لہذا دونوں مصرعوں میں ربط نہیں بنتا۔ ربط پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ شعر میں کوئی ثبوت یا ثبوت نہ سہی اشارہ ہوتا کہ عاشق کے دل میں معشوق کے سوا کوئی نہیں۔

اگر یہ فرض کیا جائے کہ معشوق سے معشوق حقیقی مراد ہے اور قرآن کی مشہور آیت سے استفادہ کیا جائے ہم (یعنی اللہ تعالیٰ) تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں (نحن اقرب الیہ من حبل الورد) تو بھی مشکل یہی ہے کہ اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی کلام یا اشارہ عاشق تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نہیں ہے۔ آیت کو دوسرے مصرعے کا حوالہ قرار دے سکتے ہیں، لیکن مصرع اولیٰ پھر بھی گرفت سے نکلا جاتا ہے۔

(۳) اب میری عرض داشت ملاحظہ ہو۔ پہلا دل معشوق کا دل ہے اور پہلے

مصرعے کی ضمیر (ہم) عاشق کی طرف راجح ہوتی ہے۔ دوسرا دل عاشق کا دل ہے۔ اب مفہوم یہ بنا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم (عاشق) تمہارے دل میں نہیں ہیں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ جب ہمارے دل میں تم ہی تم ہو تو ہماری آنکھوں سے نہاں کیوں ہو؟ اس شرح میں قیاحت یہ ہے کہ پہلے دل کو معشوق کا دل اور دوسرے دل کو عاشق کا دل فرض کرنے کا کوئی جواز شعر میں نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ شعر اتنا مبہم ہے کہ اس میں اس مفروضے کا جواز نہیں تو عدم جواز بھی نہیں۔ لیکن احسن یہ تھا کہ مفروضے کا جواز شعر ہی سے برآمد ہوتا۔ ایسا چوں کہ نہیں ہے، اس لیے شرح ناقص ٹھہرتی ہے اگرچہ مندرجہ بالا دونوں شروع سے اس لیے بہتر ہے کہ اس میں ہر لفظ کی توجیہ و تشریح ہو جاتی ہے۔

(۱۰۱)

یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں  
 عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحاں کیوں ہو  
 (زمانہ تحریر: ۱۸۵۲ء)

شارحین نے فرض کیا ہے کہ 'آزمانا' اور 'عدو کا ہو جانا' دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی معشوق نے پہلے محبت کا دم بھرا، پھر عاشق پر ستم کیا۔ عاشق نے ستم کا شکوہ کیا تو معشوق نے جواب میں کہا کہ ہم تو تمہیں آزما رہے ہیں، کوئی ستم برائے ستم تھوڑا ہی کر رہے ہیں۔ لیکن اتنی تفصیل غیر ضروری، بلکہ بلاغت کے منافی ہے۔ بہتر صورت حال یہ ہے کہ جب معشوق نے دشمن سے لو لگائی تو عاشق نے شکوہ کیا۔ معشوق نے جواب دیا کہ ہم نے تو تمہاری استقامت اور پائنداری کا امتحان لینے کے لیے دشمن سے دوستی کی ہے۔ اس کے جواب میں عاشق کہتا ہے کہ اگر تم دشمن سے دل لگانے کو ہماری آزمائش کہتے ہو تو پھر ستم کس چیز کا نام ہے؟ جب تم دشمن کے ہو ہی گئے تو ہمارا امتحان لے کر کیا کرو گے؟ اگر ہم امتحان میں کامیاب بھی ٹھہرے تو بھی تم ہمارے تو بنو گے نہیں، کیوں کہ تم تو دشمن کے ہو چکے ہو، اب ہمارے ہونے سے تو رہے۔ اس میں یہ کناہیہ بھی ہے کہ معشوق کو عدو کی دوستی میں استقامت حاصل ہے۔ یعنی معشوق نے مشکل کی محبت کا جواب محبت سے نہ بھی دیا تو وہ (معشوق) بے وفا نہیں ٹھہرتا، بلکہ وہ رقیب کے ساتھ با وفا ہوگا۔ لہذا رقیب سے دل لگانا معشوق کی بے وفائی کی دلیل نہیں۔ مشکل خود کہہ رہا ہے کہ جب تم رقیب کے ہو لیے تو ہمارے کس طرح ہو گے؟

(۱۰۲)

از ذرہ تا بہ مہر دل و دل ہے آئینہ  
طوطی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر کی تفسیر میں سب ہی شرح نے طوطی اور آئینہ کی برجستہ مناسبت سے دھوکا کھا کر یہ غور نہیں کیا کہ طوطی سے مراد کیا ہے؟ مطلب تو واضح ہے کہ زمین سے آسمان تک ہر چیز میں وہی تپش ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ اشیاء ذروں سے بنی ہیں اور ہر ذرہ روشنی میں جگمگاتا ہے۔ سورج روشنی کا منبع ہے اور وہ خود ذروں سے بنا ہے، کیوں کہ ہر شے ذروں سے بنی ہے، سورج اس کلیے سے مستثنیٰ نہیں۔ ذرے کا روشن ہونا اور روشنی کی کیفیت بدلنے کا ساتھ اس کی چمک کا گھٹنا بڑھنا، دل کی روشنی اور دل کی دھڑکن سے مشابہت رکھتا ہے۔ لہذا ایک طرف تو ہر ذرہ دل ہے اور دل آئینہ ہے، لہذا ہر ذرہ آئینہ ہے، غالب نے دل اور ذرے کی مشابہت کا مضمون کئی بار باندھا ہے:

جب بہ تقریب سفر یار نے محل باندھا  
تپش شوق نے ہر ذرے پہ اک دل باندھا  
بے پردہ سوے وادی مجنوں گزر نہ کر  
ہر ذرے کے نقاب میں دل بے قرار ہے

لہذا یہاں تک تو بات طے ہو گئی کہ تمام کائنات ذروں سے بنی ہے اور ذرے بمنزلہ دل ہیں اور دل آئینہ ہے۔ چونکہ تمام کائنات آئینوں سے بنی ہے، اس لیے طوطی جدھر بھی منہ کر لے اسے آئینہ ہی آئینہ نظر آئے گا۔

شرح نے لکھا ہے کہ طوطی سے مراد عارف ہے، لہذا ان کی نظر میں شعر کا مفہوم ہوا کہ عارف کو کائنات کے ذرے میں جلوہ الہی نظر آتا ہے۔ لیکن اس میں کئی قباحتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ طوطی اور آئینہ میں تو ایک مناسبت ہے، لیکن طوطی اور عارف میں کوئی مناسبت نہیں۔ دوسری یہ کہ شعر میں یہ تو ضرور لکھا ہے کہ طوطی کو ہر طرف آئینہ ہی آئینہ نظر آتا ہے، لیکن اس سے یہ مطلب کہاں نکلا کہ ان آئینوں میں خدا جلوہ گر ہے؟ طوطی کے مقابل آئینہ ہر طرف ہے، لہذا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ طوطی کو ہر طرف طوطی ہی نظر آئے۔ کیوں کہ وہ جدھر رخ کرے گا، آئینہ سامنے ہوگا اور آئینے میں اس کو اپنا عکس نظر آئے گا۔ تیسری یہ کہ اگر تمام کائنات آئینوں سے عبارت ہے تو پھر طوطی کی تخصیص کیوں؟ کائنات کی ہر شے کے آئینہ مقابل ہے، صرف طوطی کے لیے نہیں۔

اب شعر پر نئے سرے سے غور کیجیے۔ طوطی اور آئینہ میں کیا مناسبت ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ طوطی کو بولنا سکھاتے ہیں تو اسے آئینے کے سامنے رکھتے ہیں۔ سکھانے والا آئینے کے پیچھے ہوتا ہے۔ طوطی آئینے میں اپنا عکس دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی ہم جنس پرندہ اس کے سامنے ہے، اور پوشیدہ شخص کی آواز کو اپنے ہم جنس کی آواز سمجھ کر اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

لہذا ظاہر ہے کہ طوطی کو بولنا سکھانے کے لیے اسے مقابلے میں ڈالتے ہیں اور یہ مخالطہ آئینے کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ لیکن یہ مخالطہ نہ ہو تو طوطی کو بولنا نہ آئے۔ پہلے مصرعے میں کہا گیا کہ تمام کائنات آئینوں سے عبارت ہے۔ اب اس آئینہ خانے میں ایک طوطی فرض کیجیے۔ طوطی ہر طرف اپنا عکس دیکھتا ہے اور طرح طرح کی آوازیں سنتا ہے، کیوں کہ کائنات میں طرح طرح کا شور ہر وقت برپا ہے۔ طوطی اپنے عکس کو دیکھ کر اور آوازوں کو سن کر گرم گفتار ہو جاتا ہے۔

اب معلوم ہوا کہ طوطی دراصل 'شاعر' کا استعارہ ہے۔ طوطی اور شاعر میں کئی طرح کی مناسبتیں ہیں۔ شاعر کو طوطی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاعر وہی سب کہتا ہے جو خدا اس سے کہلاتا ہے۔ (الشعراء تلامیذ الرحمن) طوطی بھی وہی سب بولتا ہے جو سکھانے والا اس کو سکھاتا ہے۔ طوطی ہی کی طرح شاعر بھی اسی وقت تکلم میں آتا ہے جب وہ مغلوب الحال ہوتا ہے۔ اس طرح شعر کا اصل مفہوم یہ ہوا کہ شاعر کو ہر طرف دل ہی دل، یعنی



آئینے ہی آئینے نظر آتے ہیں۔ آئینہ کیا ہے؟ مشاہدے کا آلہ ہے۔ یہ مشاہدہ فریب ہی کیوں نہ ہو (کیوں کہ آئینے میں محض تیشال ہوتی ہے، اصل شے نہیں ہوتی۔) لیکن شاعر انہیں تیشالوں کو دیکھ کر عالم تقریر میں آتا ہے۔ جس طرح طوطی آئینے میں اپنا مشاہدہ کر کے تقریر کرنا سیکھتا ہے، اسی طرح شاعر اپنی چشم تخیل سے کائنات کے آئینہ خانے کا مشاہدہ کر کے شعر گوئی میں محو ہوتا ہے۔ لہذا یہ شعر عارفانہ نہیں بلکہ تخلیقی عمل کی انقیات اور شاعر کی ذات کے خود کفیل ہونے کا مضمون بیان کرتا ہے۔ شاعر مثل طوطی کے ہے، وہ اپنا مشاہدہ کر کے سارے عالم کو دیکھ لیتا ہے۔

(۱۰۳)

یا میرے زخمِ رشک کو رسوا نہ کیجیے  
یا پردہٴ تبسم پنہاں اٹھائیے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

اس سادہ سے شعر کی تفہیم میں شرح کو جو سامنے ہوئے ہیں ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اچھے اچھے شعر فہوں کو بھی یہ مفاطلہ ہو سکتا ہے کہ وہ شعر کے معنی بیان کر رہے ہیں، حالاں کہ دراصل جو کچھ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے مفروضات ہوتے ہیں اور شعر سے ان مفروضات کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہوتا۔ اس کی قبیح صورت تو یہ ہے کہ شارح کے تعصبات اور تصورات اس پر اس درجہ حاوی ہوں کہ وہ وہی معنی بیان کرے جو اس کو اچھے لگتے ہوں اور وہ اس بات کی پروا نہ کرے کہ الفاظ ان معنی کا ساتھ دے رہے بھی ہیں کہ نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات الفاظ (اور کبھی کبھی پورے مصرعے بلکہ پورے شعر) کا جو تاثر ہوتا ہے وہ اصل معنی سے (تھوڑا یا بہت) مختلف ہوتا ہے۔ شارح اس تاثر کی روشنی میں مطلب بیان کر دیتا ہے اور یہ غور نہیں کرتا کہ اس کا تاثر اور الفاظ کے معنی ہم آہنگ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس شعر کے بارے میں بیجو دموبانی یوں رقم طراز ہیں: ”یا تو جو زخمِ رشک کی وجہ سے میرے دل میں پڑے ہیں، ان کو بدنام نہ کیجیے یا تبسم پنہاں کا پردہ اٹھائیے۔ یعنی یا تو رقیب سے چھپ چھپ کر ملنا اور ہنسنا چھوڑیے یا یہ کہہ کر مجھے بدنام نہ کیجیے کہ اس کے مزاج میں رشک ہے۔ مختصر یہ کہ جب رقیب سے تمہارا ہنسنا نہیں چھوڑتا تو مجھے رشک کیوں نہ ہو“۔

شعر کی ظاہری سادگی اور رسوا، تبسم پنہاں، پردہ جیسے الفاظ نے ایسا دھوکا دیا کہ

تینوں موبانی جیسے لائق اور ذہین شارح کو بھی شرح کرنے کے بجائے شعر کی نثر کرنے اور پھر اس نثر سے ایک بالکل غیر متعلق بات نکالنے پر اکتفا کرنا پڑا۔ ورنہ معمولی طالب علم بھی دیکھ سکتا ہے کہ شعر کے کسی لفظ سے یہ معنی نہیں نکلتے کہ معشوق اور رقیب چھپ چھپ کر ملتے اور ہنسی مذاق کرتے ہیں اور معشوق اس بات کا تذکرہ جا بجا کرتا ہے کہ متکلم کے مزاج میں رشک بہت ہے۔ ممکن ہے مندرجہ ذیل شعر میں 'تہسم ہائے پنہاں' کی بنا پر دھوکا ہوا ہو کہ شعر زیر بحث میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے:

بغل میں غیر کی آج آپ سوئے ہیں کہیں ورنہ

سبب کیا خواب میں آ کر تہسم ہائے پنہاں کا

خیر، اب شعر پر نئے سرے سے غور کرتے ہیں۔ تہسم پنہاں کا پردہ اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ تہسم پنہاں کوئی مستقل محاورہ نہیں ہے، یہ غالب کی اختراع ہے۔ دونوں اشعار کی روشنی میں ایک ہی معنی نکلتے ہیں: "چپکے چپکے ہنسا، زیر لب ہنسا، اس طرح ہنسا کہ ہنسی کھل کر نہ آئے"۔ تہسم پنہاں کے معنی 'چھپ کر ہنسا' اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اگر معشوق چھپ کر ہنستا ہے تو عاشق کو اس کی خبر کہاں سے ہوگی؟ اور اوپر کے شعر سے تو صاف ظاہر ہے کہ معشوق کو عاشق نے خواب میں دیکھا ہے اور ہنستا ہوا دیکھا ہے۔ لہذا تہسم پنہاں ایسی ہنسی نہیں ہے جو چھپ کر ہنسی جائے، بلکہ ایسی ہنسی ہے جو چپکے چپکے، دزدیدہ ہنسی جائے۔ اگر ایسا ہے تو 'پردہ' سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں: (۱) یہ ہنسی عاشق اور معشوق کے درمیان پردے کی طرح حائل ہے اور غیریت کا احساس دلاتی ہے۔ (۲) اس ہنسی کے پیچھے کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہے۔ یہ محض محصوم ہی ہنسی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے، کوئی راز ہے۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو مراد یہ ہوگی کہ چپکے چپکے ہنستا بند کرو، تاکہ میرے تمہارے درمیان غیرت کا جو احساس ہے، وہ جاتا رہے۔ اگر دوسرے معنی مراد لیے جائیں تو مفہوم ہوگا کہ اس دزدیدہ ہنسی کے پیچھے جو بات ہے وہ ظاہر کرو۔

اب مصرع اولیٰ کو دیکھیے۔ 'رسوا' کے معنی 'بدنام' ہی نہیں بلکہ اس کے معنی 'کھلا ہوا'، 'آشکار' بھی ہیں بلکہ اصل معنی یہی ہیں، 'رسوا' بمعنی 'بدنام'، اسی 'کھلا ہوا'، 'آشکار' والے معنی سے مستفاد ہے۔ (ملاحظہ ہو 'بہارِ عجم' اور 'اشائینِ گاس'، بلکہ 'بہارِ عجم' میں تو صرف 'کھلا ہوا'، 'آشکار' درج ہے اور کسی معنی کا پتا نہیں۔) لہذا میرے زخم رشک کو رسوا نہ کیجیے کا مطلب

ہے کہ میرے دل پر جو رشک کا زخم ہے، اس کو آشکار نہ کیجیے۔ 'رسوا' بمعنی 'آشکار' کی رعایت بھی 'پنہاں' سے ہے۔ آسی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن بات کی تہ کو نہیں پہنچتے ہیں۔

اب 'کیجیے' کو اٹھائیے۔ اردو کے بہت سے افعال امری کی طرح 'کیجیے' بھی حال اور مستقبل دونوں معنی دیتا ہے۔ لہذا کوئی ضروری نہیں کہ ہم یہاں 'کیجیے' سے یہی مراد لیں کہ رسوا کرنے کا عمل ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے (اور یہی بہتر بھی ہے) کہ آپ میرے زخم رشک کو آشکارا کرنے والے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ زخم رشک کو آشکار کرنے کا کام معشوق براہ راست کرے، یعنی لوگوں سے کہے کہ دیکھو اس شخص کے دل پر رشک کا زخم ہے یا پھر وہ عاشق کا سینہ چاک کر کے زخم رشک سب کو دکھلائے۔ یہ بھی ممکن ہے (اور یہی بہتر بھی ہے) کہ معشوق اپنی حرکتوں سے عاشق کے جذبہ رشک کو اتنا شدید کر دے کہ عاشق خود اس بات پر مجبور ہو جائے کہ اپنے رشک کی زحمت کو (یعنی اپنے زخم رشک کو) دنیا پر ظاہر کر دے۔ پھر یہ بھی خیال رکھیے کہ زخم رشک کو رسوا کرنا استعارہ ہے، اسے لغوی معنی پہنانا اس کی قیمت کم کرنا ہے۔ زخم رشک کو رسوا نہ کیجیے کے بہترین معنی یہی ہیں کہ آپ مجھے رشک کے پیدا کردہ رنج کو ظاہر کرنے پر مجبور کرنے والے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔

اب مصرع اولیٰ کا مفہوم ہوا: آپ مجھے اتنا مجبور نہ کیجیے کہ رشک کا پیدا کردہ رنج جو میرے دل میں پوشیدہ ہے، آشکار ہو جائے۔ آپ کی باتوں سے اعزاز ہوتا ہے کہ آپ ایسا کرنے والے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے۔ یا آپ رشک کے پیدا کردہ رنج کو، جو میرے دل میں پوشیدہ ہے، ظاہر کیے دے رہے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ دوسرے مصرعے میں کہا گیا ہے کہ آپ چپکے چپکے ہنسا چھوڑ دیجیے، یا اس بات کو ظاہر کر دیجیے جس کی بنا پر آپ دزدیدہ ہنسی ہنستے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو میرا زخم رشک اور گہرا ہو جائے گا اور سب پر آشکار ہو جائے گا۔

لہذا وقوعہ یوں مرتب ہوتا ہے کہ عاشق کو رشک اس لیے ہے کہ معشوق زیر لب مسکراتا رہتا ہے اور عاشق کو گمان ہوتا ہے کہ وہ (معشوق) رقیب سے ملاقات کی سزت کو یاد کر کے لطف لے رہا ہے۔ جتنا ہی اس کا یہ تہسم مسلسل ہوتا ہے، عاشق کا رشک اتنا ہی

بڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ عاشق کو خوف ہونے لگتا ہے کہ اب اسے اس رشک کا اظہار کرتے ہی ہے۔ (خوف اس لیے کہ رشک میں معشوق کی بے وقائی کا الزام پوشیدہ ہے۔) عاشق کہتا ہے کہ آپ کے تبسم پنہاں کی وجہ سے مجھے رشک سا ہے۔ اس لیے آپ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ کو کونسی کیوں آ رہی ہے؟ یا آپ ہنسا بند کیوں نہیں کر دیتے؟ بصورت دیگر میرے دل میں رنج رشک اس قدر بڑھ جائے گا کہ میں اسے ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔

شعر کا لطف اس بات میں ہے کہ تبسم پنہاں کی وجہ عاشق کو معلوم نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ اس تبسم کا تعلق رقیب ہی سے ہو، لیکن عاشق اس قدر رشک کا مارا ہوا ہے کہ وہ یقین کر لیتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آسی نے زخم، رسوا، پنہاں، پردہ کی رعایتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن وہ اس سکتے کو نظر انداز کر گئے ہیں کہ تبسم پنہاں کی وجہ ظاہر نہ کرنے کے باعث شعر میں زبردست بلاغت پیدا ہو گئی ہے۔

(۱۰۴)

رہے اس شوخ سے آزرده ہم چندے تکلف سے  
تکلف بر طرف تھا ایک انداز جنوں وہ بھی

(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

اس شعر کی متداول شرح حسب ذیل ہے: ہم کچھ دن تک معشوق سے آزرگی کا اظہار کرتے رہے۔ لیکن آزرگی محض بناوٹ پر مبنی تھی۔ صاف صاف پوچھیے تو یہ آزرگی بھی ہمارے جنوں کا ہی ایک انداز تھی۔ یہ تشریح بالکل درست ہے، لیکن شرح سے زیادہ یہ مصرعے کی نثر ہے اور شعر کے اصل نکات سے صرف نظر کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بناوٹ ارادی ہوتی ہے اور جنوں (اگر وہ اصلی ہو) غیر ارادی ہوتا ہے۔ یعنی تصنع اور بناوٹ پر مبنی کام یا بات بے ارادہ نہیں ہو سکتی اور جنوں اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے، جنوں کا کوئی ارادہ نہیں کرتا۔ لہذا اگر ہماری آزرگی بناوٹ کی آزرگی تھی تو ہم نے اسے جان بوجھ کر اختیار کیا تھا (اور شعر میں کہا بھی یہی گیا ہے) اگر ایسا ہے تو جان بوجھ کر اختیار کی ہوئی چیز کو ہم انداز جنوں کیوں کر کہہ سکتے ہیں؟ جنوں تو جان بوجھ کر اختیار کیا نہیں جاتا۔ پھر یہ کیوں کہا کہ بناوٹ پر مبنی ہماری آزرگی دراصل جنوں کا ہی ایک انداز تھی؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آزرگی کی وجہ کیا تھی؟ جب تک آزرگی کی وجہ نہ بیان ہو، مفہوم ادھورا رہتا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یوں ہی جھوٹ موٹ کو آزرده ہوئے تھے کہ شاید معشوق کے دل پر اثر ہو جائے۔ اس میں مشکل یہ ہے کہ آزرگی کا حربہ معشوق پر اسی وقت کارگر ہوتا ہے جب معشوق کو ہم سے کچھ لگاؤ ہوتا۔ شعر میں کسی ایسے لگاؤ کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا آزرگی کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ اس کے ذریعے معشوق کے دل پر اثر

کرنا مقصود تھا۔

لبض کا کہنا ہے کہ یہ محض جنون تھا جس نے ہم سے آزر دگی اختیار کرائی تھی۔ اب معشوق سے وصال ہو گیا ہے تو اس بات پر افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے وہ دن آزر دگی میں بے کار ضائع کیے۔ اس میں مشکل یہ ہے کہ آزر دگی کی وجہ پھر بھی معلوم نہ ہوئی۔ آزر دگی کا سبب تو معلوم ہو گیا (جنوں)، لیکن آزر دہ ہونے کی ضرورت کیوں پڑی، یہ بات اب بھی واضح نہ ہوئی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شعر میں کوئی ایسا قرینہ ہے نہیں جس کی بنا پر ہم فرض کریں کہ یہ شعر وصال کے بعد یا زمانہ وصال میں کہا گیا ہے۔

اب نئے سرے سے غور کرتے ہیں۔ ارادی طور پر اختیار کی ہوئی آزر دگی کو انداز جنوں اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ترکیب، کہ ہم کچھ دیر کے لیے جھوٹ موٹ آزر دہ بن جائیں، ہمیں جنون ہی نے سکھائی تھی! ہم ہوش و حواس میں ہوتے تو اتنی بڑی حرکت (گستاخی، ناعاقبت اندیشی معشوق سے خود کو دور رکھنے کی زحمت و کرب) نہ کر سکتے۔ معشوق سے خفا ہونے میں سو طرح کے خطرے ہیں۔ کوئی بھی عاقل و ہوش مند شخص ایسے خطرے نہیں اٹھائے گا۔ یہ جنون کا ہی کرشمہ تھا کہ ہم نے بیٹھے بٹھائے فیصلہ کر لیا کہ کچھ دن کے لیے بناوٹی آزر دگی اختیار کر لیں۔

رہا یہ سوال کہ ایسی حماقت کی ہی کیوں؟ جنوں نے یہ ترکیب سکھائی کیوں؟ تو اس کا جواب یہ نہیں کہ معشوق کو مائل کرنا منظور تھا، یا یہ محض پاگل پن تھا۔ ان جوابوں کی کمزوری میں اوپر واضح کر چکا ہوں۔ اس سوال کا جواب دراصل لفظ 'شوخ' میں مضمر ہے۔ معشوق ہم کو حقیر اور کم حقیقت جان کر ہمارا مذاق اڑاتا تھا، ہم سے اس طرح کا برتاؤ کرتا تھا کہ صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ ہم کو ذلیل کرنا بھی پسند نہیں کرتا بلکہ طنز و مزاح کا ہدف سمجھتا ہے۔ اس کی یہ شوخی ہم پر شاق گزرتی تھی۔ ہمارے جنوں نے ہم کو سکھایا کہ میاں تم خود کو اس طرح خوار و زار کرتے ہو۔ معشوق سے آزر دہ ہو جاؤ، اس کے یہاں آنا جانا چھوڑ دو۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ لیکن چند ہی دنوں میں معلوم ہو گیا کہ معشوق کے یہاں آنا جانا ترک کرنے میں زیادہ برائی ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ پھر اس کی بارگاہ میں حاضری دینا شروع کر دو۔ لہذا ہم نے ایسا ہی کیا۔

شعر زیر بحث اس وقت سے کے بعد کا ہے۔ ہماری دوبارہ آمد و رفت کے بعد کسی نے

ہم سے پوچھا کہ جناب آپ تو گھر بیٹھ رہے تھے، دوبارہ کیوں آگئے؟ جواب میں کہا گیا: رہے اس شوخ سے آزر دہ.....

تکلف کو (جو منصوبہ بند چیز ہوتی ہے) جنوں (جو بے منصوبہ اور اضطراری ہوتا ہے) ثابت کرنا غالب جیسے شاعر کے لیے بھی کارنامہ ہے، ہاشم کی تو بات ہی کیا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ شعر کی کلید 'شوخ' جیسے عام لفظ میں رکھ دی۔ اور یہ سب چوبیس سال کی عمر میں۔ غالب نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ اگر شاعری کوئی دین ہوتی تو میرا دیوان اس دین کا آئین ہوتا۔

(۱۰۵)

خیال مرگ کب تسکین دل آزرده کو بخشنے  
مرے دام تمنا میں ہے اک صید زیوں وہ بھی  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

حسرت موہانی نے عمدہ نکتہ نکالا ہے کہ دام تمنا میں بہت سی آرزوئیں ہیں۔ بعض ایسی ہیں جو تمناے مرگ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ خیال مرگ سے دل آزرده کو کیا تسکین ہو سکتی ہے؟ بیچود موہانی نے اس پر ترقی کر کے کہا ہے کہ بچھے ہوئے دل کا علاج ہے موت۔ صرف آرزوے موت اسے تسکین نہیں دے سکتی۔ باقر نے 'صید زیوں' کی معنویت کی طرف اشارہ کیا ہے اور مسرت سے استفادہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آرزوے مرگ کو دام تمنا میں پھانس کر کیا خوشی ہو؟ آرزوے مرگ تو ایک صید زیوں ہے۔ قاعدہ ہے کہ دل موٹے شکار کو پھانس کر خوش ہوتا ہے۔

لیکن شعر میں چند نکات اب بھی باقی ہیں۔ 'صید' کے معنی صرف 'شکار' ہی نہیں بلکہ وہ جانور بھی ہے جس کا شکار کیا جاتا ہے۔ یعنی دام میں آنا شرط نہیں، کوئی بھی وہ جانور جس کا شکار کیا جائے، اس کو 'صید' کہہ سکتے ہیں اور جب جانور زیر دام آجائے تب بھی اس کو 'صید' کہہ سکتے ہیں۔ 'زیوں' کے معنی ہیں 'لاغر'، 'مریل'۔ لہذا 'صید زیوں' کے معنی ہوئے 'لاغر اور مریل جانور'۔ اب ردیف پر غور کیجیے۔ وہ بھی 'کامد عایہ' ہے کہ دام تمنا ایسے جانوروں سے بھرا ہوا ہے جو لاغر اور مریل ہیں اور خیال مرگ بھی انہیں میں سے ایک لاغر جانور ہے۔ ظاہر ہے کہ ان جانوروں کی لاغری یا تو اس وجہ سے ہے کہ وہ بہت دیر سے گرفتار ہیں (آرزوئیں بہت دن سے دل میں پڑی ہوئی ہیں) یا وہ شروع سے ہی مریل تھے (آرزوؤں میں اتنی قوت نہ تھی کہ نکل جائیں، یعنی پوری

ہو جائیں)۔

اب صورت یہ بنی کہ میرے دل میں ہزاروں آرزوئیں ایک عرصے سے گھٹ رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ بالکل نحیف و نزار ہو گئی ہیں۔ یا وہ آرزوئیں اتنی قوت مند نہ تھیں کہ مقصد برآری کر سکتیں۔ موت کی امید بھی ان میں سے ایک ہے۔ ایسی نحیف آرزو سے دل کو کیا تسکین ہو۔ میرے دل نے تمنا کا جال پھیلایا، بہت سی آرزوئیں اس میں گرفتار آئیں، لیکن وہ صید زیوں کی طرح ہیں جس طرح لاغر جانور دام سے نہیں نکل سکتا، اسی طرح یہ آرزوئیں بھی اس قدر نحیف و نزار ہو چکی ہیں کہ جال سے نکل نہیں سکتیں۔ خیال مرگ جیسی ہزاروں آرزوئیں دام تمنا میں ہیں، اس لیے موت کی امید یا آرزو سے کیا تسکین ہو؟ یعنی اس بات سے کیا تسکین ہو کہ موت آئے گی؟ میری تو کوئی آرزو نہیں نکل رہی ہے، کیا امید ہے کہ موت کی آرزو پوری ہوگی، خاص کر جب وہ صید زیوں کی طرح ہے، یعنی اتنا لاغر جانور کہ جال سے نکل نہ سکے؟

آرزوؤں کو جانور فرض کرنے میں ایک لطف یہ بھی ہے کہ جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مقصد برآری کی کوئی امید ہو تو ہم سارے جانور قربان کر دیں۔ یعنی اگر ترک تمنا سے کچھ ہو سکتا ہو تو وہ بھی کر دیکھیں۔ خوب شعر کہا ہے۔ ایسے ہی شعروں کی بنا پر غالب کا پلہ تیر سے ہماری معلوم ہوتا ہے۔

(۱۰۶)

ہے بزمِ بتاں میں سخن آزرده لبوں سے  
تنگ آئے ہیں ہم ایسے خوشامد طلبوں سے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

عام طور پر کہا گیا ہے کہ 'خوشامد طلب' سے معشوق مراد ہیں اور وہ خوشامد طلب اس لیے ہیں کہ ان کے سامنے رعب حسن کے باعث لوگوں کو یارائے گویائی نہیں۔ اس میں مشکل یہ ہے کہ رعب حسن اور خوشامد طلبی میں کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم کسی کے رعب کے باعث اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہ کر سکیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شخص خوشامد طلب ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ اگر منتکلم خوشامد پسند معشوق سے واقعی تنگ آ گیا ہے تو اس کی بزم میں جاتا ہی کیوں ہے؟

ان دونوں مشکلوں کو یوں رفع کر سکتے ہیں کہ خوشامد طلبی معشوق کی صفت نہیں بلکہ سخن کی صفت ہے۔ ایسی صورت میں لفظ 'آزرده' بھی زیادہ کارآمد ہو جاتا ہے۔ ورنہ متداول شرح کی روشنی میں 'آزرده' محض تصنع معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ معشوق کے رعب کی بنا پر آواز نہ نکلے اور ہم کہیں کہ سخن کو لبوں سے آزردهگی یا ناراضگی ہے۔ لہذا بہتر صورت یہ ہے کہ بزمِ بتاں میں پہنچ کر حرف و سخن کا دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ معشوق تو یوں ہی آزرده رہتے ہیں، یعنی زیادہ توجہ نہیں دیتے، اب سخن بھی آزرده ہو جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بولیں، لیکن منہ سے بولی نہیں نکلتی، تم سم بیٹھے رہتے ہیں۔

اس پر دو سوال قائم ہو سکتے ہیں۔ اول تو یہ کہ بزمِ بتاں میں پہنچ کر سخن کا دماغ آسمان پر کیوں چلا جاتا ہے؟ اور 'خوشامد طلبوں' توجیح کا صیغہ ہے۔ اس کو 'سخن' کی

صفت کیسے ٹھہرائیے، جو واحد ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عاشق سے ہر چیز برگشتہ رہتی ہے۔ خدا خدا کر کے معشوق کی محفل میں بار پایا بھی تو حرف و سخن برگشتہ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم کو یارائے نطق نہیں رہتا۔ الفاظ گویا خوشامد طلب کرتے ہیں تاکہ لب تک آنے کی زحمت کریں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ محاورہ یہی ہے کہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے واحد کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ "میں تم لوگوں سے تنگ آ گیا ہوں" یعنی "میں تم سے تنگ آ گیا ہوں" روز کا محاورہ ہے۔ شعر کا لطف اس بات میں ہے کہ سخن جو لبوں تک نہیں آتا اسے خوشامد طلب کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے خوشامد تو لفظوں کے ہی ذریعے ہوتی ہے۔ اگر لفظ استعمال ہوں گے تو سخن خود بخود ہو جائے گا۔ لہذا خوشامد بھی ممکن نہیں۔ یعنی بزمِ بتاں میں لب کشائی محال ہے۔

(۱۰۷)

زنداں در سے کدہ گستاخ ہیں زاہد  
 زبہار نہ ہونا طرف ان بے ادبوں سے  
 (زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

اس شعر میں ایک معنوی نکتہ بیان کرنا ہے اور ایک لسانی نکتے پر طباطبائی سے 'طرف ہونا' ہے۔ طباطبائی لکھتے ہیں: "کسی سے طرف ہونا اب متروک ہے، میر کے زمانے کا محاورہ ہے۔" یہاں طباطبائی نے لکھنویت کے زعم میں وہی دھاندلی کی ہے جس کے وہ اکثر ان مقامات پر مرتکب ہوتے ہیں جہاں کوئی لسانی نکتہ زیر بحث ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی سے طرف ہونا یا کسی کی طرف ہونا، بمعنی 'مقابل ہونا'، مخالف ہونا، اردو کا محاورہ نہیں ہے۔ یہ سیدھا سادا 'طرف شدن' کا ترجمہ ہے۔ 'آصفیہ' اور پلیٹس دونوں میں 'طرف ہونا' بمعنی 'مقابل ہونا' درج ہی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 'طرف شدن' کا یہ ترجمہ ان درجنوں فارسی محاوروں کی طرح ہے جن کا لفظی ترجمہ اردو کے شعرا نے ولی سے لے کر غالب تک استعمال کیا ہے۔ ان میں سے بعض ترجمے مقبول ہوئے، بعض نہ ہوئے۔ مثلاً 'از عہدہ بر آمدن' کا جو ترجمہ غالب نے استعمال کیا ہے:

عہدے سے مدح ناز کے باہر نہ آسکا  
 گر ایک ادا ہو تو اسے اپنی قضا کہوں

مقبول نہ ہوا۔ (یہ غزل ۱۸۱۲ء کی ہے، جب غالب پندرہ برس کے تھے) اس کے برخلاف 'عہدہ بر آ ہونا' (جس میں فارسیت زیادہ ہے) مقبول ہو گیا۔ اردو کے بہت سے محاورے اور بہت سے افعال کے معنی فارسی سے براہ راست مستعار ہیں۔ مثلاً 'مارنا' بمعنی 'کرنا'

(شینی مارنا وغیرہ) براہ راست 'زدن' بمعنی 'کرون' کا ترجمہ ہے۔ 'طرف ہونا' اگرچہ میر و سودا نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن اسے قبولیت نہ ملی۔ یہ محاورہ نہیں، محض فارسی کا ترجمہ ہے جو اردو میں رائج نہ ہوا۔ اسے 'متروک' نہیں قرار دے سکتے۔ جو مراد ہی نہ ہوا ہو وہ متروک کس طرح ٹھہرے گا؟

'طرف شدن' بمعنی 'مقابل شدن'، 'مخالف شدن' کے لیے فارسی کے کسی بھی لغت، مثلاً اسٹائیز کا اس سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔ بیخود موبانی نے معنی صحیح لکھے ہیں، باقر نے غلط۔

اب معنوی نکتہ سنئے: حتمیہ بالخصوص ان رندوں کے بارے میں ہے جو عے خانے کے دروازے پر پڑے رہتے ہیں۔ وہ زیادہ بے ادب اور گستاخ قرار دیے گئے ہیں، یہ نسبت ان لوگوں کے، جو چھپ چھپا کر اندر جا کر پی آتے ہیں۔ دروازے پر پڑے رہنے والے تو وہ ہیں جن کو اندر بار یا بی نہیں، جو تیر کے الفاظ میں نامیہ باخگاں ہیں۔ انھیں کچھ کھونا پانا نہیں ہے۔ زاہد صاحب تم اگر ان کے منہ لگو گے تو منہ کی کھاؤ گے۔ اگر تلقین ہی کرنا ہے تو اندر چلے جاؤ، لوگ شرما حضوری میں کچھ سن لیں گے۔ اس سے یہ نکتہ بھی نکلتا ہے کہ اگرچہ بظاہر زاہد سے ہمدردی ہے، لیکن اصل منشا یہ ہے کہ مولانا کو اندر کی سیر کرا دی جائے۔

(۱۰۸)

بیداد وفا دیکھ کہ جاتی رہی آخر  
ہر چند مری جان کو تھا ربط لیوں سے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

بڑا لطیف مضمون ہے۔ وفا کرنے والا جان سے جاتا ہے۔ شرح نے کہا ہے کہ یہ وفا کا ظلم ہے کہ وہ چاہنے والے کو معشوق سے جدا کر کے ہی رہتی ہے۔ لیکن وفا کے نتیجے میں جان جانا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وفا ظالم ہے۔ نکتہ دراصل یہ ہے کہ وفا اس معنی میں ظالم ہے کہ وہ جان کا تعلق معشوق کے سوا کسی اور کے ساتھ برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ وفا کا تقاضا ہے کہ جان کو تعلق ہو تو صرف معشوق سے ہو۔ معشوق سے اس تعلق کی بنا پر ہم قریب مرگ ہو گئے، جان لیوں پر آ کر اٹک گئی۔ وفا کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ جان کو لیوں سے اس طرح کا بھی تعلق رہے۔ اس لیے آخر جان کو مجبور ہونا پڑا کہ لیوں سے بھی اپنا تعلق توڑے۔ غضب کا شعر کہا ہے۔ جاں بلب ہونے کو جان اور لب کے تعلق سے تعبیر کرنا غیر معمولی مضمون ہے۔

ممکن ہے یہ مضمون غالب کو ملا باقر ہروی کے شعر سے سوجھا ہو:

لب بر لب من نہادہ می گفت

جان تو بہ لب رسیدہ خاموش

لیکن غالب کے مضمون کی بنا عقلی ہے، لہذا انبساط اس میں کم ہے اور ملا باقر کا شعر لطف اور بہجت سے بھرا ہوا جام محبت ہے۔

(۱۰۹)

انہیں منظور اپنے زخمیوں کا دیکھ آتا تھا  
اٹھے تھے سیر گل کو دیکھنا شوخی بہانے کی  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

نمبر..... پر حسب ذیل شعر زیر بحث آیا ہے۔ اس کا مضمون بظاہر موجودہ شعر سے متحد ہے:

ہو اے سیر گل آئینہ بے مہری قاتل  
کہ انداز بخوں غلطیدن بسکل پسند آیا

پہلی بات تو یہی ہے کہ زیر بحث شعر میں زبان زیادہ بے تکلف اور انداز زیادہ برجستہ ہے۔ لیکن زیادہ اہم فرق یہ ہے کہ زیر بحث شعر میں زخمیوں کو دیکھ آنے کا بہانہ معشوق کی بے مہری کے علاوہ اس کی نرم دلی کا بھی آئینہ دار ہے کہ وہ اپنے زخمیوں کا حال معلوم کرنا چاہتا ہے، یعنی معشوق بیک وقت بے مہر بھی ہے اور بامروت بھی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ”ہو اے سیر گل“ والے شعر کی طرح اس شعر میں بھی معشوق کو آزاد اور اپنی مرضی کا مالک دکھایا گیا ہے۔ کسی کام کو کرنے کے لیے اسے کسی کی ترغیب کی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر بھی وہ اپنے زخمیوں کو دیکھنے جانے کے لیے بہانہ کرتا ہے کہ ہم سیر گل کو جارہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بہانہ بازی بھی شوخی ہے، کیوں کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ سیر گل کا اصل مقصد کیا ہے۔ جان بوجھ کے بہانہ کرنا معشوق کی بے پروائی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایسا بہانہ بھی نہیں کرتا جو کسی حد تک تو وثوق انگیز ہو۔ لہذا یہ شوخی بہانہ ہے انداز و غمزہ کے اظہار کا، کہ ٹھیک ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم کیوں سیر گل کو جارہے ہیں۔ مگر پھر بھی ہم بہانہ ہی کریں گے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت معصوم اور بے ضرر ہیں، حالاں کہ اصل میں ہم



بڑے قائل ہیں۔ کوئی اس کو نہ مانے گا، ہم بھی نہیں مانتے، لیکن ایک کھیل تو بن جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہوائے سیر گل والے شعر میں یہ نکتہ بھی ہے کہ معشوق کو جو لوگ سرراہ دیکھیں گے وہ بھی زخمی ہوں گے، لفظ 'سیر' ایک عمومیت ہے۔ لیکن اپنے زخمیوں میں یہ عمومیت نہیں ہے۔ یہاں صرف وہ زخمی مراد ہیں جو پہلے سے زخمی ہو چکے ہیں۔

بیچو درد ہلوی کہتے ہیں کہ معشوق نے زخمیوں کو حقیقتاً دیکھا نہیں۔ اس نے صرف گل و لالہ کو دیکھا اور گل و لالہ کا دیکھنا مساوی ہے زخمیوں کے۔ لیکن اس معنی میں کوئی لطف نہیں، کیوں کہ اگر مقصود یہ تھا کہ زخمیوں کو دیکھیں اور باہر نکلنے کی وجہ یہ بیان کی کہ ہم سیر گل و لالہ کو جاتے ہیں، لیکن اصل (انسانی) زخمیوں کو دیکھا ہی نہیں، تو یہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ معشوق کو زخمیوں کا دیکھنا منظور تھا لہذا معشوق نے سیر کا بہانہ کیا۔ ایسا بہانہ کرنے سے کیا حاصل جس کی ضرورت نہ ہو۔ معشوق ٹھنڈے ٹھنڈے سیر کو چلا جاتا اور واپس آ کر یاسب کے سامنے کہتا، یاد دل میں یہ خیال کر لیتا کہ ہم نے سیر باغ بھی کی اور زخمیوں کو بھی دیکھا۔ بہانہ تو دراصل اسی لیے کیا تھا کہ سیر باغ کے بہانے گھر سے باہر نکلیں گے اور اپنے عاشقوں کو دیکھ لیں گے کہ کس حال میں ہیں۔ محض سیر گل و لالہ سے یہ مقصد نہیں پورا ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورا تو ہوتا ہے کیوں کہ گل و لالہ زخمیوں کا استعارہ ہی تو ہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ گل و لالہ زخمی کی خون آلودگی کا استعارہ ہیں۔ یعنی زخمی خون آلود بھی ہیں، صرف زخمی نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات تو پہلے ہی سے معلوم تھی۔ اسے جاننے کے لیے باہر نکلنے اور وہ بھی بہانہ کر کے باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل بات تو یہ تھی کہ معشوق یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میرے عاشق اب کس حال میں ہیں، زخمی اور خون آلودہ تو وہ تھے ہی۔

ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شعر میں انسانی زخمیوں کی بات ہی نہ ہو، صرف گل و لالہ کو دیکھنے کا معاملہ ہو کہ معشوق گل و لالہ کو واقعی اپنا زخمی سمجھتا ہے اور سیر گل کے بہانے باہر نکل کر دراصل اپنے ان زخمیوں کا نظارہ کرتا ہے۔ یعنی وہ دنیا کو دکھانے کے لیے جس چیز کو سیر گل کہتا ہے وہ دراصل اپنے زخمیوں کا نظارہ ہے۔ لیکن ان معنی میں کوئی لطف نہیں اور نہ ہی کوئی پیچیدگی ہے بلکہ معشوق ایک سادہ لوح شخص معلوم ہوتا ہے کہ گوشت پوست کے انسانوں کو چھوڑ کر گل و لالہ کو اپنی تیغ حسن یا تیغ ادا کا زخمی مانتا ہے۔

(۱۱۰)

کیا تنگ ہم ستم زدگان کا جہان ہے  
جس میں کہ ایک بیضہ مور آسمان ہے  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۱ء، قبل ۱۸۲۶ء)

اس شعر پر شارحین نے عمدہ نکتے نکالے ہیں، خصوصاً نیر مسعود نے خوب لکھا ہے۔ لیکن ایک نکتہ پھر بھی ذہن میں آتا ہے۔ یہ شعر طنزیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی پہلا مصرع بیانیہ نہیں بلکہ طنزیہ استفہام ہے اور دوسرا مصرع اسی طنزیہ رنگ میں اس کا جواب ہے۔ ستم زدوں پر دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ کہ اس کا آسمان چوٹی کے اٹڑے کے برابر معلوم ہوتا ہے یا چوٹی کا اٹڑا بھی آسمان کی طرح ستم گر اور اذیت رساں ہو جاتا ہے۔ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے پہلے مصرعے میں طنزیہ سوال پوچھا: کیا ہم ستم زدگان کا جہان تنگ ہے؟ دوسرا مصرعہ سوالیہ جواب ہے: وہ جہان جس میں ایک بیضہ مور آسمان ہے؟ یعنی کیا تم اس دنیا کو جس کا آسمان ایک بیضہ مور ہے، تنگ کہہ رہے ہو؟ اس طرح معنی میں یہ ترقی پیدا ہوئی کہ ستم زدوں کی دنیا کو تنگ کہنا یعنی اس کے لیے تنگ کی صفت استعمال کرنا، بڑی بات کو چھوٹی کر کے کہنا ہے۔ وہ دنیا جس کا آسمان بیضہ مور ہو، اس کے لیے تنگ کا لفظ بہت کم ہے۔ اس کی تنگی ظاہر کرنے کے لیے کوئی اور لفظ ہونا چاہیے۔

(۱) جس شخص کو معشوق کی دیوار کے سائے تلے بیٹھنا مل جائے وہ اس قدر خوش نصیب یا اقبال مند ہے گویا وہ ہندوستان کا بادشاہ ہے۔

(۲) عاشق ہو کر شاہ و گدا سب برابر ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اس وقت دیوار یار کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے وہ دراصل ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ عشق نے اس کو یہ عاجزی اور فروتنی سکھائی ہے۔

(۳) جو شخص کبھی بھی دیوار یار کے سائے تلے بیٹھا، اس کا وہی رُتبہ ہے جو شاہ ہندوستان کا ہے۔

دوسرے اور تیسرے مفہوم کی گنجائش کاف بیانیہ (کہ) سے نکلتی ہے۔ اگر تخصیص ہوتی کہ جس شخص کو سایہ دیوار حبیب مل جائے وہ گویا ہندوستان کا بادشاہ ہے، تو کاف بیانیہ کی جگہ 'بھی' کا استعمال زیادہ مناسب تھا۔ 'کہ' نے باقی دو مفہوم کا بھی جواز پیدا کر دیا ہے۔ اسی لیے رکے نے کہا تھا کہ شعر میں چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی استعمال ہو جائے تو اس کی وقعت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔

درگا پر شاد نادر دہلوی کے شاگرد حلم دہلوی نے عمدہ بات کہی ہے کہ 'سایہ دیوار' اور 'ہندوستان' میں مناسبت ہے کیوں کہ دونوں سیاہ ہوتے ہیں۔ ('ہندو' بمعنی 'سیاہ') دیکھیے مناسبت ڈھونڈنے والے کہاں کہاں مناسبت دیکھ لیتے ہیں۔ سچ ہے، بقول حسرت موہانی مناسبت الفاظ بڑے کمال کی چیز ہے۔

(۱۱۱)

بیٹھا ہے جو کہ سایہ دیوار یار میں  
فرماں رواے کشور ہندوستان ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

اس معاملے پر بہت بحث ہو چکی ہے کہ عطف یا اضافت کی حالت میں نون کا اعلان درست ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ، جو خود کو 'کلاسیکی' اصولوں کا پابند سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ایسی حالت میں نون غنہ ہی ہونا چاہیے، نون کو ظاہر کرنا ٹھیک نہیں۔ اس لیے ان کے خیال میں غالب نے 'ہندوستان' کے نون کو ظاہر کر کے غلطی کی ہے۔ اس اعتراض کے کئی جواب ممکن ہیں۔ مثلاً یہ کہ 'ہندوستان' علم (Proper non) ہے اور علم کو ویسے ہی باندھنا چاہیے جیسا کہ وہ بول چال میں مروج ہے۔ یہ جواب بالکل صحیح ہے۔ لیکن بنیادی جواب یہ ہے کہ 'کلاسیکی' زمانے میں ایسا کوئی قاعدہ تھا ہی نہیں کہ حالت عطف و اضافت میں نون کو لازماً غنہ کیا جائے۔ اگر قدیم اردو (یعنی دکنی) شعرا کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو دلی سے لے کر میر انیس تک ہر دور میں کلاسیکی شعرا نے ضرورت پڑنے پر حالت عطف و اضافہ میں بھی نون کا اعلان کیا ہے۔ اعلان نون مع عطف و اضافت کے خلاف فتویٰ انیسویں صدی کی چوتھی دہائی میں بعض لکھنوی استادوں نے دیا۔ اس سے زیادہ اس کی کچھ اصل نہیں۔ اس فتوے کا ماننا ہم ہی لوگوں پر واجب نہیں، غالب کی تو بات دور رہی۔ غالب ان لوگوں کے زمانے سے بہت پہلے تھے۔ ان پر اس فتوے کا اطلاق ہرگز نہیں ہوتا۔

اب شعر کے معنی پر توجہ کیجیے۔ شعر میں تین حسب ذیل معنی ہیں۔ پہلے معنی متداول شروح میں ہیں، باقی کی طرف اکثر لوگوں کی نظر نہیں گئی ہے۔

جاننے والا۔ لہذا معلوم ہوا کہ وفا اور حق ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ وفا ہی حق ہے، وفا ہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ لیکن اگر معشوق کا دل حق شناس ہے، یعنی وفا کو پہچاننے والا ہے، تو پھر وہ وفا سے نا آشنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معشوق کو اپنے حسن پر غرور ہے۔ یہ وجہ انتہائی لطیف ہے، کیوں کہ غرور انسان کی چشم بینا کو بند کر دیتا ہے۔ (مجاورہ ہے، غرور سے اندھا ہونا۔) اس وجہ میں معشوق کا دفاع بھی پوشیدہ ہے، کیوں کہ اس کا حسن ہی ایسا بے مثال ہے کہ اس پر اس کا غرور برحق اور بجا ہے۔ عاشق تو وفا کرتا ہے، لیکن معشوق کی آنکھوں پر غرور حسن کا پردہ ہے، اس لیے حق شناس (یعنی وفا شناس) دل رکھنے کے باوجود وہ عاشق کی وفا کو پہچانتا نہیں۔ غضب کی مضمون آفرینی ہے۔

(۱۱۲)

ہے وہ غرور حسن سے بیگانہ وفا  
ہر چند اس کے پاس دل حق شناس ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

تمام شارحین نے 'بیگانہ وفا' کے معنی 'بے وفا' لیے ہیں اور شرح اس طرح کی ہے کہ جس کا دل حق شناس ہوتا ہے وہ با وفا ہوتا ہے۔ معشوق کے پاس دل حق شناس تو ہے، لیکن وہ بے وفا اس لیے ہے کہ اسے اپنے حسن پر غرور ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ 'دل حق شناس' خود عاشق کا دل ہے۔ اگر یہ صحیح بھی ہو تو اس سے شرح کی منطق میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دونوں شروع میں بنیادی خرابی یہ ہے کہ 'بیگانہ وفا' کے معنی 'بے وفا' نہیں، بلکہ 'وفا شناس' ہیں۔ یعنی معشوق وفا کو پہچانتا ہی نہیں، وفا سے اس کو کوئی ربط و تعلق نہیں، وہ ان معاملات سے بالکل بیگانہ ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ حق شناس دل رکھنے اور با وفا ہونے میں کوئی براہ راست ربط نہیں، بس ایک عمومی ربط ہے کہ جو حق شناس دل والا ہوگا، وہ با وفا ہوگا۔ بالکل اسی طرح جیسے حق شناس دل والا فیاض یا بہادر بھی ہوگا۔ مصرعے میں 'ہر چند' کا لفظ استدلالی ہے۔ یعنی اس میں دل حق شناس رکھنے والے کی کوئی عام صفت نہیں بیان ہو رہی ہے، بلکہ بطور خاص کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس دل حق شناس ہے۔ یعنی اس لفظ کے ذریعے حق شناس دل والے کا وفا سے کوئی خاص رشتہ ظاہر کرنا مقصود ہے۔

'بیگانہ وفا' میں دو کلمے ہیں: 'بیگانہ' (بمعنی اجنبی، بے تعلق، ناشناس، نہ پہچاننے والا) اور 'وفا'۔ یعنی وفا کو پہچاننے کے بجائے معشوق اس سے نا آشنا ہے۔ اسی اعتبار سے دوسرے مصرعے میں 'حق شناس' کہا۔ یعنی حق کو پہچاننے والا، سچائی کو

ہوں گے 'عذر کرنے والا'۔ اضافت نہ ہونے کی صورت میں بھی 'عذر قبول کرنے والا' کو درست فرض کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں 'لب بے سوال' کے بارے میں تصور کرنا ہوگا کہ 'رحمت' (یعنی خدا) کی طرف سے جو تاخیر ہو رہی ہے، مشکلم اس تاخیر کا عذر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ غالب کے مزاج میں جو غلطی تھا اور خدا سے چھپڑ کرنے کی جو عادت تھی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ تعبیر بھی بعید از قیاس نہیں۔

اصل مصیبت لفظ 'آئینہ پرداز' نے پیدا کی ہے۔ رحمت یا خود خدا کا آئینہ پردازی سے کیا تعلق ہے، یہ بات شعر سے کسی طرح نہیں کھلتی۔ اکثر شارحین 'آئینہ پرداز' کے معنی لکھتا بھول گئے ہیں یا پھر انھوں نے غلط معنی لکھے ہیں مثلاً بیخود موبانی جیسے عالم شارح نے بھی اس کے معنی لکھے ہیں 'سنگار کر رہی ہے، جو بالکل غلط ہے۔ طباطبائی اور غلام رسول تہرنے معنی صحیح لکھے ہیں لیکن رحمت ہو یا خدا، وہ کس آئینے کو جلا کرتے ہیں اور کیوں؟ اس باب میں وہ بالکل خاموش ہیں۔

یہ بات تو ہے کہ اگر بیخود موبانی کے معنی کو صحیح مانا جائے تو شعر کا مطلب بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی کو ظاہر ہونے میں اس لیے تاخیر ہو رہی ہے کہ وہ کسی معشوق طناز کی طرح بناؤ سنگار میں مصروف ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ 'آئینہ پرداز' کے معنی 'سنگار کرنے والا' والی کسی لفظ سے ثابت نہیں ہوتے۔

طباطبائی نے جو شرح اس شعر کی لکھی ہے اس کی رو سے شعر کی جو نثر بنے گی وہ میں نے اوپر نمبر تین پر درج کی ہے۔ لیکن 'رحمت' کو اس جگہ ندا سیہ فرض کرنا اردو محاورے کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح، پہلے مصرعے میں بھی 'اے خدا' کے بعد 'تو' کا حذف فرض کرنا بھی دور کی کوڑی لانا ہے۔ اگر شعر کا منشا یہی ہوتا تو اسے ظاہر کرنے کے لیے اس قدر خلاف محاورہ اسلوب اختیار کرنا چنداں ضروری نہ تھا، لہذا طباطبائی کی تشریح قرین قیاس نہیں۔

پھر شعر کا مطلب ہے کیا؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ 'آئینہ' کو دل کا استعارہ فرض کیا جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ 'آئینہ پردازی' (آئینے پر جلا ہونا) سے دل پر انوار الہی کی تکتی مراد لی جائے۔ یہ دونوں باتیں بالکل بدیہی ہیں، کوئی تاویل ضروری نہیں۔ اب مفہوم یہ بنا کہ مشکلم گناہوں میں مبتلا تھا یا خدا کی طرف سے قائل تھا۔ اس نے خدا سے

(۱۱۳)

کس پردے میں ہے آئینہ پرداز اے خدا  
رحمت کہ عذر خواہ لب بے سوال ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

کئی ہفتوں کے غور و فکر کے بعد میں مجبوراً اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ شعر تعبیر و تشریح کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ میں یہ تو نہ کہوں گا کہ شعر مہمل ہے، لیکن یہ کہنے پر ضرور مجبور ہوں کہ غالب نے اس شعر کو ظاہری طور پر تو بہت خوب صورت بنایا، لیکن جو بات وہ کہنا چاہتے ہوں گے وہ ادا نہ ہو سکی۔ (میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بات وہ کہنا چاہتے تھے وہ ادا نہ ہو سکی کیوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہنا کیا چاہتے تھے)۔  
شعر کی نثر تین طرح ہو سکتی ہے:

- (۱) اے خدا (وہ) رحمت (جو) کہ لب بے سوال کی عذر خواہ ہے، کس پردے میں آئینہ پرداز ہے؟
- (۲) اے خدا (تیری) رحمت کس پردے میں آئینہ پرداز ہے۔ (دیکھ) لب بے سوال بھی اس وقت عذر خواہ ہے۔
- (۳) اے خدا (تو) کس پردے میں آئینہ پرداز ہے؟ رحمت (کر) کہ لب بے سوال عذر خواہ ہے۔

'عذر خواہ' کے معنی تو معلوم ہیں (۱) عذر قبول کرنے والا (۲) عذر کرنے والا، یعنی یہ ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف۔ شعر زیر بحث کے لیے دونوں ہی معنی مناسب ہیں۔ 'عذر خواہ' اور 'لب بے سوال' کے مابین اضافت فرض کی جائے تو معنی ہوں گے 'عذر قبول کرنے والا'۔ اور اگر اضافت نہ فرض کی جائے تو معنی

کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ اس کے لب بے سوال تھے۔ نہ مانگنا تکبر کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے اور اس اعتماد کی بنا پر بھی کہ میں منہ سے کہوں یا نہ کہوں، دل تو خدا کا آئینہ ہے، اس پر انوار الہی کی تجلی سے جلا ہو ہی جائے گی یا ہوتی ہی رہے گی۔ ایک عرصہ گزر گیا، اچانک یہ محسوس ہوا کہ میں تو اب تک غفلت کی نیند میں تھا۔ میں نے اللہ سے کچھ مانگا بھی نہیں اور اب جو دیکھتا ہوں تو دل کو بالکل سیاہ اور بے نور پاتا ہوں۔ پھر متکلم خدا سے رحمت کی التجا کرتا ہے۔ التجا قبول ہوتی نہیں، وہ پھر التجا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا تیری تجلی کس پردے میں میرے دل پر انوار کی بارش کر رہی ہے؟ میں بار بار تجھے پکارتا ہوں لیکن اپنے دل کو بے نور ہی پاتا ہوں۔ دیکھ اب تو میرا لب بے سوال بھی (جس نے اب تک تجھ سے کچھ نہ مانگا تھا) پرانی غفلتوں اور کوتاہیوں کا عذر کر رہا ہے۔ اب تو اپنے انوار میرے دل پر جلوہ گر ہونے دے۔

یہ شرح تمام الفاظ کا احاطہ کرتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ 'لب بے سوال' کے یہ معنی کہ متکلم زمانہ گزشتہ میں بے سوال تھا، ذرا بعید از قیاس ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے اس شعر کی جتنی شرحیں دیکھی ہیں وہ مجھے اپنی شرح سے بھی کم مطمئن کرتی ہیں۔ لہذا میں اپنے ہی معنی کو مرجع گردانتا ہوں۔

(۱۱۴)

بیکر عشاق ساز طالع ناساز ہے  
نالہ گویا گردش سیارہ کی آواز ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر میں غلط فہمی کا سنگ بنیاد طباطبائی نے یہ کہہ کر رکھا کہ 'ساز' بمعنی 'باجا' ہے۔ طباطبائی کا یہ کہنا تو درست ہے کہ 'ساز' اور 'عشاق' میں ضلع کا ربط ہے، کیوں کہ اہل فارس کی موسیقی میں ایک راگ 'مقام عشاق' کہلاتا ہے۔ لیکن 'ساز' بمعنی 'باجا' فرض کرنے سے شعر میں کئی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ طباطبائی نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا ہے۔ حسرت موہانی نے لفظ 'ساز' کی تشریح نہیں کی، اگرچہ شعر کے معنی تقریباً وہی بیان کیے ہیں جو طباطبائی نے لکھے ہیں کہ عشاق کا جسم مثل ایک ساز کے ہے جو طالع ناساز کے ہاتھوں میں مثل ساز ارغنون ہمتن فریاد ہے۔ اول تو شعر میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں بیکر عشاق ہمتن نالہ و فریاد ہے، دوسری بات یہ کہ اس تشریح کی رو سے مصرع ثانی بالکل غیر متعلق ہوا جاتا ہے۔

'گردش' کے لفظ سے بد نصیبی یا گردش تقدیر کا اشارہ لینا اور لفظ 'ناساز' سے اس گمان کو مستحکم کرنا سامنے کی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شعر کے معنی کے لیے یہ مناسب بھی ہو۔ پہلے مصرعے کے معنی بتائے گئے کہ عشاق کا جسم طالع ناساز کے باجے کی طرح ہے اور دوسرے مصرعے میں کہا گیا کہ عشاق کا نالہ گردش سیارہ کی آواز ہے۔ اگر عشاق کا نالہ گردش سیارہ کی آواز کا حکم رکھتا ہے تو پہلے مصرعے میں یہ کہنے کی کیا تک ہے کہ بیکر عشاق، طالع ناساز کے ہاتھوں میں ایک ساز کی طرح ہے؟ پہلا مصرع جسم عاشق کو باجے سے مشابہ کرتا ہے اور دوسرے مصرعے میں 'گویا' کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اب

جو بات کہی جائے گی وہ مصرعِ اولیٰ کے بیان پر دلیل یا تمثیل ہوگی، لیکن بات بالکل غیر متعلق کہی گئی ہے کہ نالہ گویا گردشِ سیارہ کی آواز ہے۔ کون سا سیارہ؟ غالباً وہ طالعِ ناساز جو پیکرِ عشاق کو ساز کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو عاشقوں کی فریاد و نالہ اور ساز سے نکلنے والی آواز میں کوئی مشابہت بیان کرنا تھی، یہ غیر متعلق بات کیوں کہی کہ نالہ گویا گردشِ سیارہ کی آواز ہے؟ پہلے مصرعے میں تو عشاق کو طالعِ ناساز کا ساز بتایا گیا ہے اور دوسرے مصرعے میں وہ خود ستارہ بن کر نمودار ہوتے ہیں۔ اس طرح طباطبائی اور حسرت کی شرح کے اعتبار سے شعر مہمل نہیں تو دولتِ ضرور ہے۔ پھر مشکل یہ ہے کہ عاشق کے جسم اور ساز میں کوئی خاص مناسبت نہیں۔ عاشق کی شخصیت اور ساز میں ضرور مناسبت ہے، جیسا کہ غالب ہی نے کہا ہے:

پرہوں میں شکووں سے یوں راگ سے جیسے باجا  
اک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے

یعنی ساز کو اگر کوئی مناسبت ہے تو عاشق کے مزاج اور شخصیت سے ہے کہ جس طرح ساز میں راگ بھرے ہوتے ہیں اسی طرح عاشق کے مزاج میں شکوہ طرازی ہے۔ اسی بات سے یہ نکتہ بھی نکلتا ہے کہ ساز کے اندر تو ہر طرح کے راگ ہوتے ہیں، جب کہ مندرجہ بالا معنی کے اعتبار سے ساز کو صرف نالہ مجسم کہنا ہوگا، پھر یہ بھی فرض کرنا ہوگا کہ ستارے اور جسمِ عاشق میں وہی رشتہ ہے جو موسیقار اور اس کے ساز میں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی مناسبت نہیں جس کی رو سے یہ رشتہ قائم ہو سکے، لہذا یہ شرح کئی لحاظ سے ناقص ہے۔ تعجب یہ ہے کہ شوکت میرٹھی، سہا مجددی، بیخود موبانی، سب نے ہی اسی شرح کو اختیار کیا ہے۔ بیخود موبانی نے اتنا ضرور کہا کہ نالہ کو گردشِ سیارہ کہنا نئی بات ہے، لیکن انھوں نے شرح کے اس مقام پر غور نہ کیا۔

’ساز‘ کو اگر ’ساختہ‘ یعنی ’بنا ہوا‘ کے معنی میں لیجیے (جیسا کہ خانہ ساز، خدا ساز، دست ساز وغیرہ میں ہے) تو بہت بہتر معنی پیدا ہوتے ہیں اور وہ قباحتیں بھی رفع ہو جاتی ہیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اب معنی یہ ہوں گے کہ عاشق کا جسم نامساعد ستارے کی خاک سے بنا ہے یا نامساعد ستارے سے بنا ہے (یعنی اس کا ایک ٹکڑا لے کر عاشق کا جسم تراش لیا گیا)، عاشق کا نالہ محض معمولی آہ و فریاد نہیں بلکہ وہ آواز ہے جو سیارے کی

گردش سے پیدا ہوتی ہے۔ اب شعر سے ایک وسیع و بسیط خلا کی تصویر بنتی ہے جس میں کوئی سیارہ تنہا گردش کر رہا ہے۔ تنہا اس لیے کہ خلا نامید اکٹار ہے اور نزدیک ترین چیز بھی بہت دور ہے اور اس وجہ سے بھی کہ ستارہ نامساعد ہے، کوئی اس کے پاس نہیں پھٹکتا۔ نالہ و زاری میں جو یک آہنگی ہوتی ہے اس کی مناسبت سے گردش کرتے ہوئے سیارے کی ایک آہنگ اور ماتمی آواز انتہائی خوب صورت اور بر محل ہے۔ عاشق مسلسل صحرا نوردی اور گردش میں گرفتار رہتا ہے۔ صحراے حیات میں عاشق کی تنہائی اور آوارہ گردی کی تمثیل اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ اسے ایک نامساعد سیارہ فرض کیا جائے۔ سیارے کی سرشت گردش کرنا ہے، آوارگی سے اسے مفر نہیں۔ یہی حال عاشق کا ہے۔ سیارہ کسی سورج کے گردش چکر کاٹتا ہے، یعنی سورج اس کے لیے بمنزلہ معشوق ہے۔ سورج اور معشوق میں مناسبت ظاہر ہے۔ سیارہ تاریک ہوتا ہے، عاشق کی دنیا بھی تیرہ و تار ہوتی ہے جس طرح گردشِ سیارہ لامحالہ آواز پیدا کرتی ہے، اسی طرح گردشِ عاشق نالہ پیدا کرتی ہے۔

اس طرح سیارہ اور پیکرِ عاشق میں چند در چند مناسبتیں ہیں۔ جدید علمِ افلاک کی رو سے کائنات لامتناہی ہے، یا کم سے کم اتنی وسیع ہے کہ بڑی بڑی کہکشاکیں اور عظیم الشان ستاروں کے جھرمٹ اس میں گم ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے اتنی دور ہیں کہ اکثر کے درمیان کا فاصلہ انسان کے تصور سے بھی ماورا ہے۔ غالب کے زمانے میں یہ دریافتیں ابھی کتمِ عدم میں تھیں، لیکن ان کے وہبی وجدانی علم نے حسب معمول ان دقائق تک رسائی حاصل کر لی جو ابھی کسی کی دسترس میں نہ تھے۔ شعر زیر بحث میں بھی تنہا گردش کرتے ہوئے سیارے کا پیکر اسی طرح کے وجدانی علم کا کرشمہ ہے۔

ان تمام باتوں سے قطع نظر شعر میں عشاق، ساز، ناساز، طالع، گردش، سیارہ، گویا اور آواز میں اس قدر بیچ در بیچ رعایتیں ہیں کہ نوجوان شاعر کے ذہن رسا کی داد دینی پڑتی ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ غالب نے از دل خیزد و بردل ریزد کے مقولے کو غلط ثابت کر دیا۔

بعض لوگوں (مثلاً جناب ظفر صدیقی) نے اس بات میں شک کیا ہے کہ ’ساز‘ بمعنی ’ساختہ‘ مضافی حیثیت میں درست ہے بھی کہ نہیں یعنی ’خدا ساز‘ وغیرہ تو ٹھیک ہے،

لیکن 'ساز خدا' اسی معنی میں شاید درست نہ ہو۔ یہ بات صحیح ہے کہ 'ساز خدا' جیسی تراکیب دیکھنے میں نہیں آئی ہے، لیکن نحوی اعتبار سے انہیں غلط نہیں کہا جاسکتا۔ 'خدا ساز' دست ساز وغیرہ میں بھی 'ساز' مضافی حیثیت میں ہے یہ اور بات ہے کہ اضافت مقلوبی کے باعث مضاف کی جگہ بدل گئی ہے۔ 'بہارِ عجم' میں لکھا ہے کہ 'ساز' کبھی مصدری و مفعولی معنی میں (یعنی بمعنی 'ساختہ') استعمال ہوتا ہے۔ خود غالب کا ایک اور شعر 'ساز' کے اس معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے:

ہوں سراپا ساز آہنگِ شکایت کچھ نہ پوچھ  
ہے یہی بہتر کہ لوگوں میں نہ چھیڑے تو مجھے

شارحین نے یہاں بھی 'ساز' سے 'باجا' مراد لی ہے، حالاں کہ کوئی 'باجا' ایسا نہیں جس میں صرف آہنگِ شکایت ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر باجے پر ہر آہنگ چھیڑا جاسکتا ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں 'ساز' کے معنی 'ساختہ' لیے جائیں تو بات فوراً بن جاتی ہے کہ میں سراپا آہنگِ شکایت سے بنا ہوں، میری پوری شخصیت آہنگِ شکایت ہے۔

آخری بات یہ کہ 'برہانِ قاطح' میں 'ساز' کے ایک معنی 'نظیر'، 'مثل' اور 'مانند' بھی دیے ہوئے ہیں۔ اگر 'ساز' کے یہ معنی درست ہیں تو دونوں اشعار کی شرح اس طرح ہو سکتی ہے کہ شعر زیر بحث میں عشاق کا پیکر طالعِ ناساز (یعنی ناساعد ستارے) کی طرح ہے۔ اور مندرجہ بالا شعر میں متکلم خود کو آہنگِ شکایت سے مشابہ (یعنی آہنگِ شکایت کی طرح کا) بیان کر رہا ہے۔ اس معنی کی روشنی میں دونوں اشعار کا زور کم ہو جاتا ہے، کیوں کہ استعارے کی جگہ تشبیہ رہ جاتی ہے۔ ہاں 'ساز' اور 'آہنگ' اور 'آواز' کا ضلع علیٰ حالہ باقی رہتا ہے۔ بحیثیتِ مجموعی میں 'ساز' بمعنی 'ساختہ' کو ترجیح دیتا ہوں۔ جب استعارے کا امکان واضح طور پر موجود ہے تو تشبیہ کیوں فرض کی جائے؟

(۱۱۵)

ہے آرمیدگی میں کوشش بجا مجھے  
صبحِ وطن ہے خندہ دنداں نما مجھے

(زمانہ تحریر: ۱۸۱۲ء)

اس شعر پر بیچو دموبانی نے لاجواب شرح لکھی ہے۔ لیکن ایک نکتے کا اضافہ پھر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مصرعِ ثانی میں 'صبحِ وطن' کو خبر قرار دیں اور 'خندہ دنداں نما' کو مبتدا فرض کریں اور 'مجھے' کے معنی 'میرے لیے'، 'میرے نزدیک' لیں تو حسبِ ذیل مفہوم نکلتا ہے: میں غربت میں آرام سے ہوں، میرے اس آرام کو دیکھ کر لوگ مجھ پر طنز کرتے ہیں۔ یہ طنز اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ میں وطن کے باہر ہوں اور پھر بھی خوش ہوں یا اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وطن نے تمہاری قدر نہ کی، تمہیں آرام یہیں آ کر نصیب ہوا۔ لوگوں کا خندہ دنداں نما (یعنی ان کی طنز یہ ہنسی) مجھے اپنے وطن کی صبح کی یاد دلاتی ہے یا وہ مجھے اپنے وطن کی صبح معلوم ہوتی ہے کیوں کہ وہ صبح بھی میرے اوپر طنز کرتی تھی۔ یعنی وطن والے بھی میرے کچھ دوست نہ تھے۔ اس اعتبار سے یہ شعر غالب کے مندرجہ ذیل شعر کی طرح کا معلوم ہوتا ہے:

کرتے کس منہ سے ہو غربت کی شکایت غالب

تم کو بے مہری یارانِ وطن یاد نہیں

یہ معنی بعید ہیں، لیکن ناممکن نہیں، کیوں کہ 'صبحِ وطن' کا اشارہ موجود ہے، متکلم یا تو وطن میں ہے یا وطن میں نہیں ہے بلکہ غربت میں ہے۔ 'آرمیدگی' سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے کہ غربت کی موت بھی عام مضمون ہے۔

(۱۱۶)

کرتا ہے بس کہ باغ میں تو بے جایاں کرتا  
آنے لگی ہے مجھے کھت گل سے حیا مجھے

(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر کی متداول شرح سے اختلاف کی گنجائش نہیں، لیکن متداول شرح شعر کو پوری طرح واضح نہیں کرتی۔ بیجو دہلوی نے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے کہ کھت گل کے مزاج میں ضبط بالکل نہیں۔ ذرا سی ہوا چلی اور وہ آپے سے باہر ہوئی اور گھر گھر کھونٹے لگی۔ لیکن اب تو معشوق بھی باغ میں بے جایاں کرنے لگا ہے، اس لیے اب مجھے اس سے شرم آنے لگی ہے، کیوں کہ معشوق کی بے جایاں تو کھت گل کی آزاد روی سے بھی بڑھ کر ہیں۔

یہ شرح بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ باغ میں معشوق کی بے جایوں کے لیے کوئی تمہید نہیں بنائی گئی ہے اور کھت گل کے سامنے شرمندہ ہونے کی یہ دلیل کافی نہیں کہ معشوق تو کھت گل سے بھی بڑھ کر بے حجاب نکلا کیوں کہ شعر میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ معشوق کی بے جایاں کھت گل کی آزاد روی سے بھی سوا ہیں۔ شعر میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ تو باغ میں بہت زیادہ بے جایاں کرنے لگا ہے (اگر 'بس کہ' کو بہت زیادہ کے معنی میں لیا جائے) یا چون کہ تو باغ میں بے جایاں کرنے لگا ہے، اس لیے مجھے کھت گل سے شرم آنے لگی ہے۔

ان مسائل کو حل کرنے کے لیے 'بس کہ' اور 'آنے لگی ہے' کی معنویت پر مزید غور کیجیے۔ 'بس کہ' کے دو معنی ہیں (۱) چون کہ (۲) بہت زیادہ۔ 'آنے لگی ہے' میں نکتہ یہ ہے کہ پہلے شرم نہیں آتی تھی، لیکن اب آنے لگی ہے۔ یعنی اب صورت حال پہلے سے مختلف

ہے لہذا 'بس کہ' بمعنی 'چوں کہ' لیے جائیں تو بہتر ہے۔ چون کہ تو باغ میں بے جایاں کرتا ہے اس لیے مجھے کھت گل سے حیا آنے لگی ہے۔

اب کھت گل کے سامنے شرمندہ ہونے کی وجہ پر غور کریں۔ ایک وجہ تو وہی ہے جو بیجو دہلوی وغیرہ نے بیان کی ہے کہ میں کھت گل کو آزاد روی اور معشوق کو حیا کا پتلا سمجھتا تھا لیکن جب معشوق نے بھی بے حجابی اختیار کر لی تو میں کھت گل کے سامنے شرمندہ ہوا۔ لیکن لطیف تر معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے آپ کو یا آپ کے کسی قریبی شخص کو ایسا کام کرتے دیکھا ہو جو موجب اعتراض ہو (مثلاً کسی نے آپ کے بیٹے کو یا خود آپ کو چوری کرتے دیکھا) تو اس شخص سے آپ کو لامحالہ شرم آئے گی۔ آپ اس سے آنکھیں چار نہ کر سکیں گے۔ لہذا چون کہ معشوق نے (جس کو ہم عزیز رکھتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم کو ہر اچھی بات کا گمان ہے) پھولوں کے سامنے بے حجاب ہونا شروع کر دیا ہے، اس لیے ہم کو کھت گل سے شرم آتی ہے۔

یہاں سوال اٹھ سکتا ہے کہ معشوق تو پھولوں کے سامنے بے حجاب تھا، پھولوں کی خوشبو سے شرم آنے کی کیا وجہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھولوں کی خوشبو گھر گھر اڑتی پھرتی ہے، اس لیے امکان ہے کہ وہ اس راز کو لوگوں سے کہہ دے گی۔ ممکن ہے خود مجھ سے بھی یہ راز کھت گل نے کہا ہو۔ اس لیے کھت گل سے شرمانا لازمی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بے حجابی برابر ہے 'آپے سے باہر ہو جانے' کے۔ پھول کی خوشبو کا اڑنا اس کا آپے سے باہر ہو جانا ہے لہذا معشوق کی بے حجابی اور معشوق میں وہی رشتہ ہے جو پھول کی خوشبو اور پھول میں ہے۔

اب اس سوال پر غور کیجیے کہ معشوق کی بے جایوں کی کوئی تمہید شعر میں نہیں ہے، لہذا اس بات کی وجہ نہیں بیان ہوئی کہ معشوق باغ میں کیوں بے حجاب ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے لفظ 'بے جایاں' پر غور کرنا ضروری ہے۔ سیر کی غرض سے معشوق کا باغ میں جانا رومیات شعر میں ہے۔ تیر نے اس پر متعدد عمدہ شعر کہے ہیں:

لیتی ہے ہوا رنگ سراپا سے تمہارے  
معلوم نہیں ہوتے ہو گلزار میں صاحب



صبح چمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی  
رخ سے گل کو مول لیا قامت سے سرو غلام کیا

خود غالب کا شعر ہے:

انہیں منظور اپنے زنجیوں کا دیکھ آنا تھا  
اٹھے تھے سیر گل کو دیکھنا شوخی بہانے کی

لہذا معشوق بغرض سیر و تفریح باغ میں جایا کرتا ہے۔ شروع شروع میں شاید وہ نقاب پوش ہی رہا، لیکن پھر جب ذرا ہمت کھلی تو اس نے نقاب الٹ لی۔ یہ محض بے حجابی ہوئی۔ پھر شاید زیادہ ہمت کھلی تو اس نے برقعہ بالکل ہی اتار دیا۔ مزید ہمت بڑھی تو اس نے پھولوں سے اور ہجولیوں سے بھی مذاق، باغ میں دوڑ بھاگ شروع کر دی۔ اب بے حجابی سے بے حجابیاں ہو گئیں۔ دو چار بظاہر معمولی سے الفاظ میں اتنے معنی بھر دینا غالب کا کمال ہے اور وہ بھی جب ان کی عمر انیس برس سے زیادہ نہ تھی۔

(۱۱۷)

کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے عدو  
کس دن ہمارے سر پہ نہ آئے چلا کیے  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۳۷ء، قبل ۱۸۳۹ء)

طباطبائی کا خیال ہے کہ تہمت تراشنا محاورے میں داخل نہیں بلکہ صرف آئے چلا کیے کی مناسبت سے غالب نے لکھ دیا ہے۔ اس پر شاداں بلگرامی کا قلمی حاشیہ ہے کہ 'تہمت تراشیدن' شاید فارسی میں ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ 'تراشیدن' کے معنی معلوم کرنے میں دونوں صاحبوں سے چوک ہو گئی۔ 'بہارِ نجم' میں اس مصدر کے معنی دیے ہیں: 'ساختن، ایجاد کردن' اور علی حسن سلیم کی 'موارد المصائر' میں 'تراشیدن' کے معنی 'ایجاد کردن' لکھ کر لکھا ہے، مثلاً: دروغ تراشیدن، عذر تراشیدن۔ خود اردو میں اسی اعتبار سے 'تراشنا' بمعنی 'گڑھنا، ایجاد کرنا، بنانا' مستعمل ہے مثلاً: 'الزام تراشی'، 'عذر تراشی'، 'افسانہ تراشی'، روایت 'تراشنا' وغیرہ۔ تعجب ہے کہ علامہ طباطبائی نے 'تہمت تراشنا' کو محاورہ کی قسم سے قرار دیا، جب کہ 'تراشنا' یہاں اپنے اصل معنی میں استعمال ہوا ہے اور آرنے کی رعایت سے بہت خوب استعمال ہوا ہے۔

دوسرے مصرعے میں دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ دشمنوں نے ہمارے اوپر جھوٹے الزام لگائے اور اس الزام تراشی سے ہمیں اتنی تکلیف پہنچی گویا ہمارے سر پر آئے چل رہے ہوں۔ دوسرے معنی یہ کہ دشمنوں کی تہمت تراشی معشوق کو ہماری طرف سے بدظن کرتی رہی اور معشوق ہمیں تعزیر دیتا رہا۔ یہ تعزیر کئی طرح کی ہو سکتی ہے، مثلاً معشوق ہمیں برا بھلا کہتا رہا یا اس نے ہماری طرف التفات نہ کیا یا اس نے واقعی ہمیں کوئی سزا

دی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی تعویذ نہ ہوئی ہو، لیکن معشوق کا ہماری طرف سے بدظن ہو جانا ہی ہمارے لیے بہت بڑی زحمت اور ستم تھا، گویا ہمارے سر پر آرے چل رہے ہوں۔  
سر پر آرے چلنے کا استعارہ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ یاد دلانا ہے اور اس طرح مشکل کی بے گناہی اور اس کے علوے مرتبت کا کنایہ قائم کرتا ہے۔

(۱۱۸)

رفقار عمر قطع رہ اضطراب ہے  
اس سال کے حساب کو برق آفتاب ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۳۱ء)

اس شعر کا مفہوم تو شارحین نے صحیح بیان کیا ہے، لیکن لفظ 'اضطراب' کے جو معنی لکھے ہیں وہ اس شعر سے برآمد نہیں ہوتے۔ لہذا تمام شرحیں ناقص رہ گئی ہیں۔ پھر اس شعر میں کئی لفظی محاسن ہیں جو شارحین سے عام طور پر نظر انداز ہو گئے ہیں۔  
'اضطراب' کے معنی لوگوں نے 'بے چینی' لکھے ہیں اور 'رہ اضطراب' کے معنی بتائے ہیں 'وہ راستہ جو بے چینی میں کئے'۔ شارحین نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جو راستہ بے چینی میں کٹتا ہے وہ بہت ست رفقاری سے کٹتا ہوا معلوم ہوتا ہے، مثلاً آپ اپنے معشوق سے ملنے جا رہے ہیں، آپ کو بے چینی ہے کہ جلد از جلد پہنچیں۔ لیکن آپ راہ کتنی ہی تیزی سے کیوں نہ کریں، مسافت بہت طویل معلوم ہوتی ہے۔ شعر کے معنی یہ ہیں کہ عمر کی رفقار اس قدر تیز ہے کہ اس کے ایک سال کی مدت ایک دور آفتاب نہیں بلکہ بجلی کی ایک چمک کے برابر ہے۔ لہذا 'رہ اضطراب' کے معنی وہ نہیں ہو سکتے جو شارحین نے بیان کیے ہیں۔

صورت حال دراصل یہ ہے کہ اردو میں 'اضطراب' کے عام معنی 'بے چینی'، 'بے قراری' وغیرہ ہیں۔ لیکن یہ لفظ 'گھبراہٹ'، 'بدحواسی' کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ خود غالب نے 'اضطراب' بمعنی 'بدحواسی' حسب ذیل شعر میں استعمال کیا ہے:

میں اور حظ وصل خدا ساز بات ہے  
جاں نذر دینی ببول گیا اضطراب میں

مومن کا بھی دوغزلہ اس زمین میں مشہور ہے اور یہ مقطع تو زبان زد خلائق ہے:

پہیم سجود پائے صنم پر دم وداع  
مومن خدا کو بھول گئے اضطراب میں

ظاہر ہے کہ جو راستہ بدحواسی اور گھبراہٹ میں طے کیا جائے وہ بہت تیزی سے طے ہوتا ہے۔ لہذا شعر زیر بحث میں 'رہ اضطراب' کے معنی ہوئے وہ راستہ جو بدحواسی اور گھبراہٹ میں طے کیا جائے۔ لفظ 'اضطراب' کے اصل معنی عبدالرشید حسینی نے منتخب اللغات میں حسب ذیل درج کیے ہیں: "خلل یافتن کار، و پریشان شدن، و جنیدن"۔ ظاہر ہے کہ گھبراہٹ اور بدحواسی کے معنی جو اردو میں رائج ہیں 'اضطراب' کے اصل معنی ہی سے برآمد کیے گئے ہیں۔

کئی لوگوں نے 'سال' کے معنی 'عمر' لکھے ہیں، لیکن 'سال' بمعنی عمر نہ اردو میں ہے نہ فارسی میں۔ حقیقت یہ ہے کہ فارسی میں 'سال' اس مدت کو کہتے ہیں جس میں آفتاب ایک دور پورا کرتا ہے۔ وقت کی مدت کو بھی سالوں میں شمار کرتے ہیں۔ سعدی کا مصرع ہے:

چهل سال عمر عزیزت گذشت

جتنی تمھاری عمر عزیز میں سے اتنی مدت گزر گئی جس میں آفتاب کے چالیس دور پورے ہو جائیں۔ اب مصرع ثانی کا مفہوم یہ ہوا کہ عمر کا دوران شمار کرنے کی اکائی ایک سال ہے اور سال برابر ہے اس مدت کے جس میں آفتاب ایک دور پورا کرتا ہے۔ لیکن اس سال کی (یعنی وہ سال جس سے عمر کی مدت ناپتے ہیں) رفتار اس قدر تیز ہے کہ اس کی مدت سورج کے ایک دور کے برابر نہیں، بلکہ بجلی کی چمک کے برابر ہے۔

سورج میں چمک ہوتی ہے اور بجلی میں بھی، اس لیے سال کے دوران کو سورج کے دور کے بجائے بجلی سے ناپنے میں جو معنوی حسن ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ مصرعے میں 'سال' کی جگہ اور کوئی لفظ ہوتا تو یہ بات نہ پیدا ہوتی اور نہ 'سحاب' کی معنویت پوری طرح بروئے کار آتی۔ 'اضطراب' (بمعنی 'حرکت، جنبش') اور 'رفار' میں رعایت معنوی ہے، پھر 'اضطراب' بمعنی 'بے چینی' اور 'سال' (بمعنی 'خلش') میں ضلع کا لطف ہے۔ غیر معمولی شعر کہا ہے۔

(۱۱۹)

بیناے سے ہے سرو نشاط بہار سے  
بال تدر و جلوہ موج شراب ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

بہت سے نسخوں میں مصرع اولیٰ کا آخری لفظ 'سے' کی جگہ 'ئے' ہے۔ 'ئے' غلط ہے اور اس سے مطلب بھی پوری طرح نہیں بنتا۔ جن شراح نے 'سے' کی جگہ 'ئے' پڑھا ہے، اُن کو خاصی دشواری پیش آئی ہے۔

شعر کے دو مفہوم ہیں، لیکن عام طور پر ایک ہی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ پہلے مصرعے میں 'بیناے' مبتدا ہے اور دوسرے مصرعے میں 'جلوہ موج شراب' مبتدا ہے لہذا تشریح یہ ہوئی کہ نشاط بہار کے باعث بیناے سے سرو کا گمان گزرتا ہے۔ یعنی بیناے سے کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ یہ سرو کا درخت ہے یا بیناے سے، سرو کے درخت کا حکم رکھتا ہے۔ اور جلوہ موج شراب، بال تدر و (بادل کا گلڑا) معلوم ہوتا ہے۔ یعنی موسم بہار کا جوش اس قدر ہے کہ گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے سے خوار کو گلشن کا لطف حاصل ہو جاتا ہے۔

مندرجہ بالا مفہوم میں کوئی قباحت نہیں، لیکن پہلے مصرعے میں 'سرو' اور دوسرے مصرعے میں 'بال تدر و' کو مبتدا بھی جان سکتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوئے کہ نشاط بہار کے باعث سرو کا درخت بیناے سے کی طرح یا بیناے سے کے رنگ کا دکھائی دیتا ہے اور بادل کا گلڑا دیکھ کر گمان گزرتا ہے کہ یہ موج شراب کا جلوہ ہے۔ یعنی موسم بہار نے ہر چیز میں کچھ ایسی مستی پیدا کر دی ہے کہ سرو کا درخت بیناے سے معلوم ہوتا ہے اور بادل کا گلڑا موج شراب کا جلوہ معلوم ہوتا ہے۔

چوں کہ بہت سے لوگوں نے 'بال تدرؤ' کا مطلب سمجھنے میں غلطی کی ہے اس لیے اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ 'بال تدرؤ' کا تعلق کسی پرندے کے پرواز سے نہیں۔ 'بال تدرؤ' اس سفید بادل کو کہتے ہیں جو سیاہی فلک میں نمودار ہوتا ہے اور پانی برساتا ہے۔ (بہارِ عجم اور 'سائہ نکاس')۔ پانی برسانے کی شرط کو ملحوظ رکھیے تو دوسرے معنی بہتر معلوم ہوتے ہیں کہ 'بال تدرؤ' مبتدا ہے اور 'جلوہ موج شراب' خبر۔ کیوں کہ پانی برسانے والا بادل ہر چیز کو تر کر دے گا اور شراب کا بھی اثر یہی ہے کہ وہ دماغ کو تر کر دیتی ہے۔ ('تر دماغ' اس شخص کو کہتے ہیں جو نشے میں ہو)۔

مجنوں کو رکھوہری نے اپنی کتاب 'غالب، شخص اور شاعر' میں 'بال تدرؤ' کے معنی تو کم و بیش ٹھیک لکھے ہیں، لیکن وہ مصرع اولیٰ کے آخری لفظ 'کوسے' کے بجائے 'سے' ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ لفظ 'سے' سے شعر کا مفہوم بالکل خبط ہو جاتا ہے۔ مجنوں صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسرت موہانی اس شعر کی شرح کرتے ہوئے آخر میں 'واللہ اعلم' کہہ کر رہ گئے ہیں۔ یہاں اصل واقعہ یہ ہے کہ حسرت موہانی نے اس شعر کی شرح ہی نہیں لکھی، مجنوں صاحب کو کچھ مسامحہ ہو گیا۔ (ملاحظہ ہو شرح دیوان غالب از حسرت موہانی، مطبوعہ شہزاد بک ہاؤس دہلی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نسخے میں بھی 'سے' ہی ہے، 'سے' نہیں، جو مجنوں صاحب کو قبول نہ تھا)۔ بیخود موہانی نے 'بال تدرؤ' کو ٹھیک بیان کیا ہے، لیکن غلام رسول مہر کو زبردست دھوکا ہوا ہے۔

اب مندرجہ ذیل لفظی محاسن پر غور کریں: 'سرو' اور 'تدرؤ' ہم قافیہ ہیں۔ یہ ایک طرح کی صنعت ہے۔ 'بال' اور 'مینا' میں ضلع کا لطف ہے (مینا میں بال آجاتا ہے۔ 'بال' بمعنی Crack) بادل اکثر لہروں کی شکل میں امدنڈتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس اعتبار سے 'بال تدرؤ' اور 'موج' میں مناسبت ہے۔ مغل نقاشی میں سرو بنا کر مینا مراد لیتے ہیں۔ اس لیے سرو اور مینا میں کئی طرح کی مناسبت ہے۔ (رنگ، کیوں کہ مینا اکثر سبز ہوتا ہے، شکل، کیوں کہ دونوں کی شکل ایک طرح کی ہوتی ہے اور علامت، کیوں کہ سرو علامت ہے مینا کی)۔ 'جلوہ' کے اصل معنی ہیں 'ظاہر ہونا' اور 'خود کو کسی کے سامنے پیش کرنا' (منتخب اللغات)۔ اس اعتبار سے 'جلوہ' اور 'موج' میں مناسبت ہے، کیوں کہ موج اٹھتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے۔ 'جلوہ' اور 'موج شراب' میں ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ (بقول

صاحب 'بہارِ عجم') جلوہ کی ایک صفت 'مستانہ' بھی ہے۔ آخری بات یہ کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے آسمان پر بادلوں کی جتنی بگڑتی صورتوں کو غالب کے سوا کسی اردو فارسی شاعر نے شعر کا مضمون نہیں بتایا۔ مضمون پابی ہو تو ایسی ہو۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ 'نشاط بہارے' کہتے تو یہ مضمون نہ پیدا ہوتا۔

(بمعنی 'نشے میں چور') بادہ نوشی، رنداں اور غافل اور خراب۔ غافل اور گمان میں ضلع کا ربط ہے، کیوں کہ غفلت کی وجہ سے حقیقت کا علم نہیں ہوتا اور گمان ضد ہے یقین کی، جو حقیقت کا تفاعل ہے۔ عربی میں کہاوت ہے: الظن لا یغنی من الحق۔ یعنی گمان، حقیقت سے بے نیاز نہیں کرتا، گمان، حق کا بدل نہیں ہوتا۔ 'نشش' جہت اور کیتی میں رعایت ظاہر ہے۔

(۱۲۰)

جا داد بادہ نوشی رنداں ہے نشش جہت  
غافل گماں کرے ہے کہ کیتی خراب ہے

(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

حسرت موہانی نے 'کیتی خراب' کو مرکب فرض کیا ہے اور اسے 'رنداں' کی صفت مانا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس لیے درست نہیں کہ 'رنداں' جمع ہے لہذا اس کے لیے 'ہے' نہیں آسکتا۔ اکثر شارحین نے 'نشش' جہت' بمعنی 'دنیا' قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اس کو لغوی معنی میں لیا جائے تو بھی بہت مناسب ہے۔ یعنی چھ کی سمتوں میں جدھر نظر دوڑاویے، رنداں کی جاگیر نظر آتی ہے، لہذا اگر 'نشش' جہت' کو استعاراتی مفہوم میں لیں تو یہ تصوراتی ہے اور اگر پیکر فرض کریں تو بصری ہے۔ تصوراتی مفہوم کی رو سے کائنات کچھ نہیں ہے، صرف جائداد ہے بادہ نوشوں کی۔ یعنی تخلیق کائنات کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بادہ نوشوں کے لیے جائداد کا کام کرے۔ بصری مفہوم کی رو سے بادہ نوش پوری کائنات کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں یا کائنات انہیں جاگیر کے طور پر دے دی گئی ہے۔

دوسرے مصرعے میں کہا گیا ہے کہ غافلوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ دنیا خراب (یعنی ویران اور بے مصرف) ہے۔ جن لوگوں کو یہ گمان ہوا ہے وہ بادہ نوش تو ہو نہیں سکتے، ورنہ وہ جانتے کہ یہ سب تو ہماری جائداد ہے۔ لہذا زمین کے وارث وہی ہیں جو بادہ نوش ہیں۔ جو شراب نہیں پیتے، دنیا ان کی نظر میں ویران ہے۔ بادہ نوشی اور رندی کو مے عرفان کا استعارہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر مضمون میں شوخی ذرا کم ہو جاتی ہے۔ شعر میں رعایتیں کثرت سے ہیں۔ 'جا داد' اور 'نشش' جہت، 'غافل' اور 'خراب'

(۱۲۱)

نظارہ کیا حریف ہو اس برق حسن کا  
جوش بہار جلوے کو جس کے نقاب ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

اس شعر کے اکثر پہلوؤں کو شارحین بے نقاب کر چکے ہیں، لیکن ایک دو نزاکتیں پھر بھی قابل ذکر ہیں۔ 'برق حسن' پر توجہ کم دی گئی ہے۔ 'برق' اور 'جلوہ' میں رعایت تو ہے ہی، لیکن اگر 'برق حسن' نہ کہتے تو بہار کا نقاب ہونا ثابت نہ ہوتا کیوں کہ نظر جب اٹھے گی تو بہار ہی پر پڑے گی۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ بہار کے پیچھے بھی کوئی ہے جس کے لیے بہار نقاب کا کام کر رہی ہے۔ لہذا 'برق حسن' کہہ کر اشارہ کر دیا کہ اس کی جگہ مثل برق چمکتی اور چمکتی رہتی ہے، اس لیے پردہ بہار کے پیچھے سے نظر آتی ہے۔ وہ جگہ اس قدر لطیف ہے کہ بہار، جو خود لطیف ہے، اس کے لیے نقاب کا کام کرتی ہے اور اس کا جلوہ اس قدر وسیع و کثیر ہے کہ محض بہار نہیں، بلکہ جوش بہار اس کے لیے نقاب ہے اور وہ جلوہ روشن اس قدر ہے کہ نقاب کے پیچھے سے بھی جھلک مارتا ہے۔ لہذا 'برق' کا لفظ محض رسمی نہیں بلکہ تہ دارا استعارہ ہے۔

(۱۲۲)

داغ دل گر نظر نہیں آتا  
بو بھی اے چارہ گر نہیں آتی  
(زمانہ تحریر: بعد ۱۸۲۷ء، قبل ۱۸۲۹ء)

جلتے ہوئے یا جلے ہوئے گوشت اور اس کی بو کا مضمون آج کل کے طبائع کو ناگوار گزرے گا۔ میر بھی اسے باندھ چکے ہیں:  
آتش غم میں دل بھنا شاید  
دیر سے بو کباب کی سی ہے  
کسی مضمون کا کسی زمانے میں مرغوب یا نامرغوب ٹھہرنا خود اس مضمون کی خوبی یا خرابی کا تصفیہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ دونوں شعر کسی خاص بلندی کے حامل نہیں ہیں۔ اس وقت غالب کے شعر پر بحث اس لیے مقصود ہے کہ شوکت میرٹھی نے لکھا ہے "دوسرا مصرع غالباً یوں ہوگا:

بو بھی کیا چارہ گر نہیں آتی  
اس پر بیخود موبانی چیں بجبیں ہو کر کہتے ہیں: "کیا اے سے 'کیا' زیادہ فصیح ہے؟ اے میں ملامت کی شان اور تیور نظر آتے ہیں۔"

ایمان کی بات یہ ہے کہ بیخود صاحب سے شوکت میرٹھی کا جواب نہ بن پڑا۔ ذرا ہم بھی غور کریں کہ کون سی شکل بہتر ہے، اصل غالب کی یا شوکت میرٹھی کی اصلاحی شکل؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انشائیہ انداز بیان کے لحاظ سے دونوں شکلیں برابر کی ہیں۔ غالب کے یہاں استفہام انکاری ہے تو شوکت کے یہاں بھی استفہام انکاری ہے۔ لہذا دونوں طرح بات برابر رہتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اپنی مجرد حیثیت میں

’اے بہتر ہے، یا ’کیا بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ چارہ گر سے مخاطب کے لیے ’اے کی ضرورت نہیں۔ ’چارہ گر! بو بھی نہیں آتی؟‘ میں بات پوری ہے اور لفظ ’اے‘ حشو ٹھہرتا ہے۔ شوکت میرٹھی کی اصلاح سے حشو کا عیب رفع ہو جاتا ہے اور مصرعے کی شان میں کوئی فرق بھی نہیں آتا۔

لہذا بظاہر تو لگتا ہے کہ غالب یہاں چوک گئے۔ یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں۔ آخر غالب بھی انسان ہی تھے، لیکن یہ معاملہ مزید غور کا متقاضی ہے۔ ’اے کی جگہ ’کیا‘ کچھ ایسی دور کا لفظ نہیں کہ غالب کو نہ سوجھتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ غالب نے ’اے کیوں رکھا اور ’کیا‘ کیوں نہ رکھا؟ شعر میں بیان کردہ صورت حال پر غور کیجئے۔

یہ بات تو ظاہر ہے کہ چارہ گر کی کسی بات کے جواب میں یہ شعر کہا گیا ہے۔ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ متکلم خود چارہ گر کے پاس نہ گیا ہوگا، کیوں کہ یہ شان عاشقی سے بعید ہے۔ کوئی شخص چارہ گر کو بلا لایا ہے کہ متکلم کا علاج ہو۔ مرض یہ ہے کہ آتش عشق نے دل کو داغ داغ کر دیا ہے۔ چارہ گر کہتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم اس شخص کے دل میں داغ ہے؟ اس کے جواب میں متکلم (جو خود عاشق ہو سکتا ہے یا عاشق کا وہ دوست جو چارہ گر کو لے آیا ہے) کہتا ہے کہ اے چارہ گر! اگر داغ نظر نہیں آ رہا ہے تو کیا تمہیں اس کی بو بھی نہیں آتی؟ یعنی لفظ ’اے‘ کے ذریعے چارہ گر کی چارہ گری کو لکارا ہے، اس کی بے عقلی ثابت کی ہے۔ ایسی صورت میں براہ راست مخاطب کے ذریعے کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے کہ اے چارہ گر، تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اس اندازِ مخاطب کے ذریعے چارہ گر کی معالجانہ حیثیت معرض بحث میں آ جاتی ہے۔ اگر ’اے‘ نہ لکھتے تو یہ شخص جس جاتی رہتی۔

جن لوگوں کو شیراز اور اصفہان کے بازاروں میں ’کباب دل‘ کھانے کا اتفاق ہوا ہوگا وہ تیر کے شعر اور غالب کے شعر زیر بحث کے مذوقی اور مشامی پہلوؤں سے لطف اندوز ہوں گے۔ کہا گیا ہے کہ کبابی کے یہاں جب دل کے کباب بھجنتے ہیں تو سارا بازار مہک اٹھتا ہے۔

(۱۲۳)

جلاد سے لڑتے ہیں نہ واعظ سے جھگڑتے  
ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس بھیس میں جو آئے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۱ء)

تمام شرح نے اس شعر کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حقیقت ایک ہی ہے اور وہ حقیقت آخری یعنی ذات الہی ہے۔ خدا جس بھیس میں ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اسے پہچان لیتے ہیں، مثلاً غلام رسول مہر کا بیان ہے کہ ”ایک وجود حقیقی کو مان لینے سے تمام ظاہری امتیازات مٹ گئے اور کوئی وجود کوئی بھیس بدل کر ہمارے سامنے آئے، ہمارے نزدیک تیرے سوا کوئی نہیں“۔ یہ معنی درست تو ہیں، لیکن ایک لطیف معنی اور بھی ہیں۔ جس بھیس میں آئے، جو آئے، ہم اسے سمجھے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی بھیس کا جادو نہیں چل سکتا۔ چاہے وہ جلاد ہو یا واعظ ہو، اور چاہے وہ کسی بھیس میں ہمارے سامنے آئے، ہم اس کی اصلیت کو پہچان لیتے ہیں۔ اس معنی کی رو سے شعر کے لہجے میں ایک طنطنہ اور کلیت ہے کہ دنیا کے لوگ ہماری توجہ کے مستحق نہیں ہیں۔ جلاد اور واعظ کے ذریعے شعر میں دو دنیا کی قائم ہوتی ہیں۔ جلاد اس دنیا کی سزا کو انجام دیتا ہے اور واعظ عقبی کی باتیں بتاتا ہے اور وہاں کی سزا سے ہم کو ڈراتا ہے۔ ہم دونوں کی حقیقت جانتے ہیں۔

(۱۲۳)

نکوہش ہے سزا فریادی بیداد دلبر کی  
مبادا خندہ دندان نما ہو صبح محشر کی

(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر کی فہم دو الفاظ 'سزا' اور 'مبادا' کے معنی جاننے پر منحصر ہے۔ چون کہ یہ دونوں ہی لفظ بہت سامنے کے ہیں، اس لیے شعر کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن تعجب ہے کہ تقریباً سبھی شراح نے شرح اس طرح کی ہے کہ دو میں سے ایک مصرع بے کار ہوا جاتا ہے۔ 'مبادا' عام طور پر دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ ایک مفہوم دعائیہ ہے۔ (خدا کرے ایسا نہ ہو۔) دوسرے مفہوم میں تشویش و تردد ہے۔ (کہیں ایسا نہ ہو۔) دونوں مفہوم ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہیں کہ بعض اوقات ان کو الگ نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ 'مبادا' کلمہ استعجابیہ نہیں ہے اور نہ یہ رفع تعجب ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا بیخود موبہانی کا یہ بیان غلط ہے کہ دوسرے مصرعے کا مفہوم یہ ہے کہ عجب نہیں جسے لوگ صبح قیامت کہتے ہیں، یہ صبح نہ ہو بلکہ فریادیاں جھانے دلبر پر خندہ دندان نما ہو۔ حسرت موبہانی کا بھی یہ خیال درست نہیں معلوم ہوتا کہ کیا عجب کہ صبح محشر بھی خندہ دندان نما ہو، یعنی آمادہ ملامت ہو۔ اس لیے کہ اس دن بیداد یار کی فریاد کی جائے گی۔ مصرعے میں تو کیا، شعر میں بھی احتمالی لمحہ نہیں ہے اور یہ ضروری بھی نہیں کہ قیامت کے دن بیداد یار کے خلاف فریاد کی جائے۔

بیخود موبہانی کا یہ نکتہ تو بہت عمدہ ہے کہ صبح قیامت کا مقصد متکلم کی نظر میں صرف یہ ہے کہ وہ معشوق کے خلاف ظلم کی فریاد کرنے والوں پر خندہ دندان نما کرتی ہے۔ یعنی قیامت آنے کی وجہ صرف یہی ہے۔ وہ ایسے لوگوں کی سزا کے لیے آئے گی، لیکن مشکل یہ

ہے کہ 'مبادا' میں استعجاب یا رفع شک کا کوئی پہلو نہیں، صرف دعا اور تشویش کا ہے اور بیخود و حسرت دونوں کی شرح اس بنیاد پر ہے کہ 'مبادا' کے معنی میں استعجاب اور رفع شک کا پہلو ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ معشوق کی بیداد کے خلاف فریاد کرنے کی سزا نکوہش (ملامت) ہے۔ یعنی ایک عام کلیہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد صبح محشر کی تخصیص کرنا غیر ضروری ہے۔ ہاں اگر دوسرے مصرعے میں لفظ 'بھی' ہوتا تو اس معنی کی گنجائش تھی جو بیخود و دہلوی نے بیان کیے ہیں کہ ایسا نہ ہو صبح محشر بھی اس کم بخت فریادی کے حق میں خندہ دندان نما بن کر نمودار ہو۔ موجودہ صورت میں دونوں مصرعے الگ الگ معلوم ہوتے ہیں۔

مولانا غلام رسول مہر نے اس عدم ربط کو دور کرنے کے لیے 'کچھ دور نہیں' کا فقرہ اضافہ کیا ہے۔ لیکن شعر کی نثر کرتے وقت ایسے الفاظ یا فقروں کو بڑھانا درست نہیں جن کے بغیر مطلب نکل سکتا ہو۔ اگر بعض الفاظ کو بڑھائے بغیر جملہ نہ پورا ہوتا ہو، یا مطلب نہ نکلتا ہو اور ان الفاظ کا قرینہ بھی ہو، تو بڑھانا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ شعر کے الفاظ اپنے مکمل مفہوم کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ شعر زیر بحث میں ایسی صورت ہرگز نہیں ہے۔ ایسے الفاظ کو بڑھانے میں کبھی کوئی قباحت نہیں، جو قواعد یا صرف دشواری رو سے ضروری ہوں۔ لیکن معنی کو پورا کرنے کے لیے لفظ اسی وقت بڑھانا چاہیے جب شعر کے اپنے الفاظ کافی نہ ہوں۔

میں نے اوپر لکھا ہے کہ شعر زیر بحث کی فہم دو لفظوں کے معنی پر منحصر ہے۔ ایک تو 'سزا' اور دوسرا 'مبادا'۔ چون کہ لفظ 'مبادا' میں زیادہ بحث کی گنجائش تھی، اس لیے میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ وہ اوپر گزر چکی۔ اب 'سزا' کو دیکھیے۔ اس کو سب لوگوں نے تعزیر (Punishment) کے معنی میں لیا ہے۔ لیکن اگر اسے 'مناسب' کے معنی میں لیا جائے اور 'مبادا' کے وہ معنی مد نظر ہوں جو میں نے بیان کیے ہیں تو دونوں مصرعوں کی وہ بے ربطی دور ہو جاتی ہے جو متداول شرحوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ 'سزا' کے معنی 'مناسب' اور 'مبادا' کے معنی 'کہیں ایسا نہ ہو' رکھ کر شعر کی نثریں بنتی ہے:

فریادی بیداد دلبر کی نکوہش مناسب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر کی

صبح خندہ دندان نما ہو۔

یعنی جو شخص معشوق کے ظلم کے خلاف فریاد کرتا ہے، اس کو ملامت کرنا مناسب



ہے تاکہ اس کو اپنے کیے کی سزا دینا ہی میں مل جائے۔ اگر یہاں اس پر لعنت ملامت نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ رسوا ہو اور صبح محشر اس کے حق میں طغیہ ہنسی ہنستی ہوئی دکھائی دے۔ قیامت میں سب لوگوں کو اپنے اعمال کی جزا ملے گی۔ جو لوگ معشوق کے ظلم کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کریں گے، انھیں انعام ملے گا، جو لوگ بے صبرے اور شاکہ رہے ہوں گے ان کو کچھ نہ ملے گا (یا سزا ملے گی) اور صبح محشر ان پر خندہ دندان نما کرتی ہوئی معلوم ہوگی۔ اس لیے یہ مناسب ہے کہ شکایت کرنے والے کو لعنت ملامت کی جائے تاکہ (۱) اس کی سزا اسی دنیا میں ہو جائے (۲) اس کو جہنم ہو جائے اور وہ آئندہ ایسا نہ کرے۔

شعر میں معنی کی کئی خوبیاں ہیں: (۱) معشوق کے ظلم کی فریاد کرنا شرعی اعتبار سے گناہ ہے۔ قیامت میں اس پر مواخذہ ہوگا۔ (۲) مشہور فقہی مسئلہ ہے کہ انسان پر دنیا میں جو مصیبتیں پڑتی ہیں وہ دراصل اس کے گناہوں کا ثمرہ ہوتی ہیں۔ یعنی اگر دنیا میں تکلیف اٹھائی تو عقبی میں شدت کم ہوگی۔ لہذا بے صبرے عاشق کے گناہ (معشوق کے خلاف فریاد) کا صلہ اسے یہیں مل جائے تو بہتر ہے۔ (۳) تاکہ قیامت میں اس کو عشق کی مصیبت سہنے کا انعام تو مل سکے۔ (۴) حشر کے دن انصاف ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق تعالیٰ اپنے بے وقوف بندوں پر طنز نہ کرے گا۔

اب لفظی خوبیاں ملاحظہ ہوں۔ 'سزا' بمعنی 'تعزیر'، 'فریاد'، 'بیداؤ' اور 'محشر' میں مراعات النظر ہے۔ دال مہملہ کی تکرار نے شعر میں ایسا آہنگ پیدا کیا ہے جو عام شعرا کے یہاں نہیں ملتا۔ دال مہملہ کی تکرار سے شعر میں کھر دراپن پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو خوش گواری طریقے سے برتا ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ شعر میں جملہ پندرہ الفاظ ہیں، جن میں سے چھ الفاظ (فریادی، بیداؤ، دلبر، مبادا، خندہ، دندان) میں دال کی آواز آٹھ بار استعمال ہوئی ہے۔

یہ غالب کے بہترین شعروں میں سے نہیں ہے، لیکن معنی آفرینی کا نمونہ ضرور ہے۔ معنی آفرینی سے مراد ہے شعر میں ایسے الفاظ رکھنا جن کے معنی بظاہر کچھ بھی ہوں، لیکن غور کرنے پر مزید یا مختلف معنی نکلیں۔ معنی آفرینی کے ذریعے شعر تہ دار ہو جاتا ہے، یعنی جتنا وہ بظاہر کہتا ہے، دراصل اس سے زیادہ معنی اس میں ہوتے ہیں۔

(۱۲۵)

رگ لیلیٰ کو خاک دشت مجنوں ریشگی بخشے  
اگر بودے بجائے دانہ دہقان نوک نشتر کی  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

لفظ 'ریشگی' کے معنی میں اختلاف کے علاوہ اس شعر میں بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بنیادی معنی پر تمام شراح متفق ہیں۔ 'ریشگی' کے معنی غلام رسول مہرنے 'اگنا، بڑھنا، پھلنا پھولنا' بیان کیے ہیں۔ بیخود دہلوی نے 'زخمی ہونا' اور 'اگنا' دونوں معنی لکھے ہیں اور یہ خیال نہیں کیا ہے کہ دونوں میں تضاد ہے۔ اگر ایک معنی بر محل ہیں تو دوسرے نہ ہوں گے، بشرطیکہ شعر کے دو معنی الگ الگ بیان کیے جائیں۔ بیخود موبانی نے بھی دونوں معنی لکھ دیے ہیں۔ انھوں نے بھی تضاد کا خیال نہیں کیا ہے بلکہ بیخود موبانی کی شرح ان کے عام، بلند معیار سے بہت پست اور خاصی ژولیدہ ہے۔ آغا باقر اور حسرت موبانی نے 'ریشگی' سے 'دخش' مراد لی ہے۔ طباطبائی اسے 'اگنا اور بڑھنا' سے تعبیر کرتے ہیں۔

'ریشگی' کے معنی میں اس قدر اختلاف کے باوجود سب لوگوں کو اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ شعر عاشق اور معشوق کے روحانی اتحاد کا مضمون بیان کرتا ہے جس طرح لیلیٰ کے فصد کھلانے پر مجنوں کے ہاتھ سے خون جاری ہو گیا تھا، اسی طرح اگر مجنوں کے دشت کی خاک میں نشتر بوئے جائیں تو رگ لیلیٰ متاثر ہوگی۔ بقول بیخود دہلوی "جذبہ عشق نے عاشق و معشوق اور رگ و نشتر میں اس قدر اتحاد باہمی پیدا کر دیا ہے" کہ عاشق کی تکلیف سے معشوق کو بھی تکلیف ہوتی ہے یا معشوق بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔

کسی بھی شارح نے خیال نہ کیا کہ مندرجہ بالا مفہوم خود بھی مہمل ہے اور شعر کو بھی مہمل کیے دیتا ہے۔ بنیادی مفہوم جیسا بیان کیا گیا ہے، مندرجہ ذیل سوالات کا جواب فراہم نہیں کرتا:

(۱) عاشق کی تکلیف سے معشوق کا متاثر ہونا کلیہ نہیں ہے۔ لہذا اس دعوے کو قائم کرنے کے لیے دلیل یا کم سے کم تمہید، ضروری تھی۔ شعر میں ایسی کوئی تمہید یا دلیل نہیں ہے۔ موجود صورت میں یہ دعویٰ کہ رگ لیلیٰ کو ریشگی حاصل ہوگی، محتاج دلیل ہے۔

(۲) دہقان کو کیا پڑی ہے کہ اس دشت میں، جہاں خاک مجنوں ہے (یعنی جہاں مجنوں مٹ کر خاک ہو یا جہاں مجنوں دفن ہے) کھیتی کرنے جائے؟

(۳) اور اگر کسی مجبوری کے باعث دہقان ایسے کھیت میں کھیتی کرنے جاتا بھی ہے تو اسے کس حکیم نے کہا ہے کہ وہ دانے کی جگہ نوک نشتر بونے؟ نوک نشتر کسی پودے یا غلے کا نام نہیں۔ نوک نشتر بونا کوئی محاورہ بھی نہیں، رسم بھی نہیں۔ پھر نوک نشتر بونے کی کیا تنگ ہے؟

(۴) نشتر بونا کو کانٹے بونا کا مرادف بھی نہیں فرض کر سکتے (جیسا کہ بیخود موبانی نے کیا ہے) اور اگر نشتر بونا بمعنی کانٹے بونا مان بھی لیا جائے تو لغوی اعتبار سے اس بات کے کوئی معنی نہیں کہ خاک دشت مجنوں میں کانٹے بونے جائیں۔ کانٹے بونے جاتے بھی نہیں، کانٹے دار پودا بویا جاتا ہے۔ اور اگر کانٹے بونا کو محاورہ فرض کیجیے تو کانٹے کسی کی خاک میں نہیں بونے جاتے، کسی کے حق میں بونے جاتے ہیں۔ اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ دہقان کو کیا دشمنی ہے جس کی بنا پر وہ اتنی عجیب جگہ پر کسی کے حق میں کانٹے بورہا ہے؟ مجنوں تو مرہی چکا ہے یا آوارہ دشت و صحرا ہے اور لیلیٰ سے دشمنی کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔

(۵) فرض کیجیے مجنوں مرانہیں ہے۔ خاک دشت مجنوں سے مراد اس دشت کی خاک بھی ہو سکتی ہے جہاں مجنوں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بات صاف نہیں ہوتی کہ دنیا سے دور جس دشت میں مجنوں صحرا گرد ہے، اس میں کھیتی کرنے کی کون سی ضرورت یا مجبوری ہے؟ مجنوں کسی گاؤں میں تو رہتا نہیں تھا اور نہ کھیتوں باغوں

میں فلمی ہیرو کی طرح گاتا بجاتا پھرتا تھا۔ اس دشت بے گیاه میں جہاں وہ آوارہ تھا یا آوارہ ہے، کھیتی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر کھیتی کرنی بھی ہے تو نوک نشتر کو کیوں بونیں؟

(۶) اگر لیلیٰ اور مجنوں (حسن اور عشق) میں ایسا ہی اتحاد ہے، جیسا کہ شارح نے اس شعر میں بیان کیا ہے تو مجنوں کے مرتے ہی لیلیٰ خود کیوں نہ مر گئی؟ یا اس کے دیوانہ ہوتے ہی خود بھی دیوانہ کیوں نہ ہو گئی؟ یہ عجیب بات ہے کہ مجنوں کی موت کا کوئی اثر لیلیٰ پر نہ ہو، اور جب مجنوں کے دشت میں نوک نشتر بونی جائے تو لیلیٰ کی رگ کو ریشگی حاصل ہو۔ اور اگر مجنوں ابھی مرانہیں ہے بلکہ کوہ و دشت میں آوارہ پھرتا ہے، پھر تو اس کو ہزاروں کانٹے چبھتے ہوں گے، ان سے رگ لیلیٰ کو ریشگی کیوں نہیں ہوتی؟ اس بات کا انتظار کیوں ہے کہ اس دشت کی خاک میں نوک نشتر بونی جائے اور بت رگ لیلیٰ متحرک ہو؟

(۷) جو صاحبان 'ریشگی' کے معنی 'بڑھنا، پھولنا پھلنا' قرار دیتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ لیلیٰ کی رگ بڑھنے پھولنے پھلنے لگے بھی تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ سوال تو لیلیٰ کے متاثر ہونے کا ہے۔ یہ کون سا اثر ہوا کہ مجنوں کے دشت کی خاک کو نشتر چھا تو لیلیٰ کی رگ پھولنے لگی؟

(۸) 'ریشگی' کے معنی Fibrousness تو ہو سکتے ہیں، لیکن 'بڑھنا، پھولنا پھلنا' نہیں ہو سکتے کیوں کہ 'ریشہ' بمعنی Fibre ہے۔ 'ریشگی' کے معنی 'ریشی ہونے کی کیفیت، خلش زیادہ مناسب ہیں۔ لیکن اوپر کے سوالات پھر بھی حل نہیں ہوتے۔

مندرجہ بالا تجزیے کی روشنی میں کہنا پڑتا ہے کہ شعر مہمل ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ شعر طنزیہ ہے۔ پہلے مصرعے میں ایک طنزیہ دعویٰ ہے اور دوسرے مصرعے میں ایک طنزیہ شرط ہے۔ یعنی شعر کے معنی تو وہی ہیں جو شارح نے لکھے ہیں، لیکن اس کا مدعا مختلف ہے۔ مدعا یہ ہے کہ ہاں، مجنوں کے ہاتھ سے تو اس وقت خون جاری ہو گیا تھا، جب لیلیٰ نے فصد کھلوائی تھی۔ لیکن جہاں تک خود لیلیٰ کے مجنوں کے قعب سے متاثر ہونے کا سوال ہے، تو وہ ناممکن ہے۔ اگر ایسی ہی کوئی ناممکن بات ہو جائے کہ کوئی شخص خاک دشت مجنوں میں نوک نشتر بولے، تو لیلیٰ کی بھی رگ مجروح

(۱۲۶)

گریہ نکالے ہے تیری بزم سے مجھ کو  
ہائے کہ رونے پہ اختیار نہیں ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

مصرع اولیٰ عام طور پر یوں چھاپا ملتا ہے:

گریہ نکالے ہے تری بزم سے مجھ کو

یعنی 'تیری' کی جگہ 'تری' لکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نسخہ عرشی کے دونوں اڈیشنوں میں اور دیوان غالب کامل، تاریخی ترتیب سے مرتبہ کالی داس گپتا رضا میں بھی 'تری' ہی ملتا ہے۔ تعجب ہے کہ کسی مرتب اور شارح نے غور نہیں کیا کہ 'تیری' کی جگہ 'تری' رکھنے سے مصرع خارج از بحر ہو جاتا ہے۔ (حامد علی خاں کا مرتبہ دیوان [لاہور، ۱۹۶۹ء] مستثنیٰ ہے)۔ عرشی صاحب مرحوم نے کوئی حاشیہ بھی نہیں دیا کہ 'تیری' پر 'تری' کو کیوں ترجیح دی گئی؟ کالی داس گپتا رضا نے بھی کوئی حاشیہ نہیں دیا ہے۔ بعض سنجیدہ قارئین 'تری' کو غالب کے سہو پر محمول کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ مشکل بحر کی وجہ سے غالب کو یہ دھوکا ہوا کہ 'تری' کے باوجود مصرع خارج از بحر نہیں ہوتا۔ اس بحر میں فارسی میں غالب نے بہت کہا ہے اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، کہیں بھی کوئی مصرع مخدوش نہیں ہوا۔ یہ غزل نسخہ عرشی زاوہ (مرتبہ ۱۸۱۶ء مطبوعہ ۱۹۶۹ء) میں نہیں ہے۔ لیکن نسخہ حمیدیہ (مرتبہ ۱۸۲۱ء، مطبوعہ ۱۹۲۱ء) میں ہے۔ کالی داس گپتا رضا نے اس کا زمانہ تحریر ۱۸۲۱ء متعین کیا ہے۔ اس وقت تک غالب خاصے پختہ کار ہو چکے تھے اور اپنی اکثر بہترین غزلیں کہہ چکے تھے۔ لہذا یہ فرض کرنا مشکل ہے کہ نوشقی کی بنا پر غالب نے 'تیری' کی جگہ 'تری' لکھ دیا۔ نسخہ حمیدیہ میں اصل کیا لکھا ہے، یہ تو خدا ہی جانے۔ مخطوطہ اب معدوم

ہوگی۔ یعنی مجھوں کے درد سے لیلیٰ کا متاثر ہونا ویسی ہی مہمل بات ہے جیسی کہ کوئی شخص دور دراز ویرانے میں، جہاں خاک مجھوں ہے، کھتی کرنے جائے اور وہاں بھی دانے کی جگہ نوک نشتر بودے۔ شعر میں اعلا درجے کی Irony ہے۔ Irony کا کمال یہی ہے کہ وہ لغوی سطح پر یا بظاہر، مہمل معلوم ہو۔ اس شعر کو طنزیہ نہ فرض کیجیے تو یہ واقعی مہمل ہے۔ Irony کی سطح پر یہ سوئفٹ (Swift) کے بعض طنزیہ مضامین کی یاد دلاتا ہے۔

ہے۔ لیکن مطبوعہ نسخے میں تیری ہی درج ہے۔ ممکن ہے کہ ۱۸۶۲ء والے کانپوری ایڈیشن کی بنا پر (جس میں تیری ہے) لوگوں کو خیال ہو گیا ہو کہ غالب نے یوں ہی لکھا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صریحاً کتابت کی غلطی ہے۔ نسخہ شیرانی (۱۸۲۶ء) جو نسخہ حمید یہ کے فوراً بعد کا اہم ترین مخلوطہ ہے، اس کی فوٹو کاپی میرے سامنے ہے۔ اس میں صاف 'تیری' درج ہے۔ پہلے مطبوعہ ایڈیشن (۱۸۳۱ء) کی فوٹو کاپی (مرتبہ کالی داس گپتا رضا) بھی میرے سامنے ہے۔ اس میں بھی صاف صاف 'تیری' ہے۔ لہذا ہمیں یہ ماننے میں تامل نہ ہونا چاہیے کہ غالب نے تیری ہی لکھا تھا۔

ممکن ہے غالب کے مخالفین کہیں کہ اس زمانے میں تیری اور مری وغیرہ الفاظ کے نیچے بھی دو نقطے لگانے کا رواج تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض غلط ہے۔ اگر 'میری' لکھا ہوا ہے، لیکن مصرع 'مری' سے موزوں ہوتا ہے تو اسے 'مری' پڑھنا چاہیے اور شاعر یا کاتب کو خواہ مخواہ الزام نہ دھرنا چاہیے۔ لیکن اگر 'میری' لکھا ہے اور 'میری' ہی سے مصرع بھی موزوں ہوتا ہے، تو محض بغض غالب میں اسے 'مری' پڑھنا اور مصرعے کو ناموزوں قرار دینا ناانصافی ہے۔ اسی ۱۸۳۱ء والے ایڈیشن میں اس غزل کا مطلع یوں درج ہے:

آ کہ میری جان کو قرار نہیں ہے  
طاقت بیداد انتظار نہیں ہے

تو کیا اب ہم یہ کہیں کہ مصرع اولیٰ خارج از بحر ہے، کیوں کہ 'مری' کی جگہ 'میری' لکھا ہوا ہے؟ اسی ایڈیشن اور اسی غزل کے دو شعر حسب ذیل ہیں:

قتل کا میرے کیا ہے عہد تو بارے  
وائے اگر عہد استوار نہیں ہے  
تو نے قسم سے کشی کی کھائی ہے غالب  
تیری قسم کا کچھ اعتبار نہیں ہے

اس ایڈیشن میں پہلے شعر کا میرے اور مقطع کا 'تیری' اسی طرح درج ہیں جس طرح میں نے لکھے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ چون کہ اس زمانے میں نقطے لگانے کا کوئی خاص اصول نہ تھا، اس لیے اگرچہ میرے اور 'تیری' چھاپا ہے، لیکن غالب نے مرے اور تیری لکھا ہوگا، لہذا دونوں مصرعے خارج از بحر ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہ کہے گا۔ (نسخہ)

شیرانی میں بھی یقیناً اسی طرح لکھا ہے جس طرح ۱۸۳۱ء والے نسخے میں ہے، یعنی شعر زیر بحث میں 'تیری' مقطع کے پہلے والے شعر میں 'قتل' کا میرے اور مقطع میں 'تیری' قسم کا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ غالب نے شعر زیر بحث میں 'تیری' ہی لکھا تھا اور یہی قرأت صحیح ہے اور مصرع خارج از بحر نہیں ہے۔

اب معنی پر آئیے۔ مختلف شراح نے اس شعر کی شرح میں جو لکھا ہے وہ بہت خوب ہے۔ میں صرف ایک دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ رونے پر اختیار نہیں ہے، یعنی آنسو نکلے آتے ہیں۔ آنسوؤں کے نکلے آنے کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے تیری بزم سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ یعنی آنسوؤں پر تو میرا اختیار نہیں ہے، لیکن میں آنسوؤں کے اختیار میں ہوں اور وہ بھی اس طرح کہ جب وہ نکلتے ہیں تو میں بھی نکلتا ہوں۔ پھر رونے پر اختیار نہیں ہے۔ میں جو زور ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ رونے پر تو اختیار نہیں ہے لیکن کسی اور چیز پر اختیار ہے۔ وہ چیز میرا نکلتا ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، کیوں کہ یہ گر یہ ہی تو ہے جو مجھے تیری بزم سے نکال رہا ہے۔ اگر مجھے رونے پر اختیار ہوتا تو میں اسے (یعنی آنسوؤں کو) نکال ہی دیتا، جس طرح آنسوؤں کو مجھ پر اختیار ہے اور وہ مجھے نکالے دے رہے ہیں۔ لیکن اگر میں آنسوؤں کو نکالتا تو وہ ظاہر ہو جاتے اور نتیجہ پھر وہی ہوتا کہ مجھے بزم سے نکلنا پڑتا۔ خوب شعر ہے۔

(۱۲۷)

ہم سے عبث ہے گمان رنجش خاطر  
خاک میں عشاق کی غبار نہیں ہے

(زمانہ تحریر: ۱۸۱۲ء)

طباطبائی نے لکھا ہے کہ 'خاک' بمعنی 'سرشت'، طینت، خلاف محاورہ ہے اور غالب نے یہ لفظ محض 'غبار' کی مناسبت سے لکھ دیا۔ یہ اعتراض اتنا باوزن معلوم ہوتا ہے کہ آج تک کسی سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ بیخود موبانی نے ڈپٹ کر کہہ تو دیا کہ 'خاک' بمعنی 'سرشت' یقیناً استعمال ہوتا ہے، لیکن انھوں نے کوئی سند نہ پیش کی۔ بس یہ کہہ کر رہ گئے کہ 'مٹی' کو 'سرشت' کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور 'خاک' بھی اس معنی میں درست ہے۔ ظاہر ہے کہ بیخود موبانی یہاں محض دھاندلی کر رہے ہیں کیوں کہ 'مٹی' بھی 'سرشت' کے معنی میں نہیں بلکہ 'ذات' کے معنی میں آتا ہے۔ فلاں کی طینت اچھی ہے یا سرشت اچھی ہے، اس معنی کو ادا کرنے کے لیے 'فلاں کی مٹی اچھی ہے' نہیں بول سکتے اور اگر 'مٹی' بمعنی 'طینت' مان بھی لیا جائے تو محاورے میں تصرف کر کے 'مٹی' کی جگہ 'خاک' کہنا درست نہ ہوگا۔ زبان کا بنیادی قاعدہ ہے کہ محاورہ چاہے کتنا ہی خلاف قواعد کیوں نہ ہو، اس کو قواعد پر ترجیح ہوتی ہے۔ پھر اس کا التا بھی درست ہے کہ محاورے میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔

اگرچہ بعض شارحین نے 'خاک' کے معنی 'طینت' لکھے ہیں (شاید اس وجہ سے کہ عربی میں 'مٹی' کو 'طین' کہتے ہیں) لیکن واقعہ یہ ہے کہ 'خاک' بمعنی 'طینت' بالکل نہیں ہے اور طباطبائی کا اعتراض برقرار رہتا ہے۔ دراصل جس نکتے کی رو سے طباطبائی کا اعتراض رفع ہوتا ہے، اس پر شرح کی نظر نہیں گئی ہے۔ 'خاک' بمعنی 'طینت' تو نہیں

ہے، لیکن بمعنی 'سانچا' ضرور ہے۔ (اشائنگاس۔) لہذا مصرع ثانی کا مطلب ہوا کہ عشاق جس سانچے میں بنے ہیں یا جس سانچے میں ڈھلے ہیں، یعنی جیسی ان کی فطرت ہے اس میں غبار (کدورت) بالکل نہیں ہے اور جب ان کی فطرت میں غبار نہیں تو آپ کا یہ گمان کہ ان کے دل میں آپ کی طرف سے غبار ہوگا، یا وہ آپ کے دل کو غبار آلود کریں گے، غلط ہے۔

ایک امکان اور بھی ہے۔ 'خاک' بمعنی 'خاکستر' اردو میں بھی ہے اور فارسی میں بھی۔ اردو میں تو محاورہ ہی ہے، فلاں چیز جل کر خاک ہوگئی۔ اور فارسی کے لیے ملاحظہ ہو فرہنگ آنگ راج، جہاں 'خاک' بمعنی 'خاکستر' کی سند میں فیضی کا شعر درج ہے:

بہ آب دیدہ خود بیچ شست و شو نہ کنی

مگر در آتش سوزندہ خاک خوانی شد

لہذا فرض کیجئے کہ عاشق سوز عشق یا سوز فراق سے جل کر خاک ہو گیا ہے۔ معشوق کو گمان گزرا ہے کہ عاشق کے دل میں رنجش ضرور ہوگی کہ اس شخص کے عشق میں جان گئی۔ اب عاشق کہتا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں رنجش خاطر کا گمان نہ کریں، عشاق کی خاکستر تک میں غبار نہیں ہے، تو دل میں کہاں سے ہوگا؟ اب لفظ 'خاک' بہت دل چسپ اور معنی خیز ہو جاتا ہے کہ معنی تو اس کے 'خاکستر' ہیں، لیکن اس میں اشارہ طینت، سرشت کا بھی موجود ہے۔ 'فرہنگ آنگ راج' ہی میں مسعود سعد سلمان کا ایک شعر درج ہے جس میں 'خاک' وجود کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ بمعنی 'شخصیت'، کردار۔ لہذا 'خاک' میں طینت کا اشارہ بہر حال موجود ہے۔

لیکن طباطبائی نے ایک اعتراض اور کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ عشاق کی طبیعت میں غبار نہیں ہے، محض ادعاے شاعر ہے۔ اس کے لیے تغلیل ضروری تھی، ورنہ دعویٰ بے دلیل رہا جاتا ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب 'خاک' بمعنی 'خاکستر' فرض کیا تو یہ مبالغے کا صیغہ ہو گیا، اس کے لیے دلیل ضروری نہیں۔ دوسرے شرح نے جواب یہ دیا ہے کہ سچے عاشق کے مزاج میں کدورت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ جواب کمزور ہے، کیوں کہ شعر میں سچے عاشق کا ذکر نہیں ہے۔ اور سچے عاشق کے بھی دل میں رقیب کی طرف سے کینہ ہو سکتا ہے۔ طباطبائی کے اعتراض کا صحیح جواب یہ ہے کہ

مصرع اولیٰ میں 'ہم' سے مراد واحد متکلم یعنی 'میں' ہے۔ یعنی یہ ایک فرد واحد کا بیان ہے کہ مجھ سے گمان رجحش خاطر مت رکھو۔ دوسرے مصرعے میں متکلم نے ایک کلیہ بیان کیا ہے کہ دیکھو عاشقوں کے دل میں تو غبار ہوتا ہی نہیں، وہ تو سراپا خلوص ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں مصرعے ایک فرد واحد کا بیان ہیں اور ادعاے شاعر نہیں ہیں، لہذا محتاج دلیل نہیں ہیں۔ ایک شخص اپنے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ تم میری طرف سے کدورت کا گمان نہ کرو، میں تو عاشق ہوں اور عاشقوں کا دل کدورت سے پاک ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ ادعاے شاعر اور ادعاے شاعرانہ میں فرق ہے۔ ادعاے شاعرانہ کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، مثلاً خود کو مرغ گرفتار فرض کرنا ادعاے شاعرانہ ہے، اسے دلیل کی حاجت نہیں۔ لیکن میں کچھ دن میں گرفتار ہو جاؤں گا، یہ ادعاے شاعر ہے۔ اس کو دلیل کی ضرورت ہے۔

(۱۲۸)

پاہ دامن ہو رہا ہوں بس کہ میں صحرا نورد  
خار پا ہیں جو ہر آئینہ زانو مجھے

(زمانہ تحریر: ۱۸۱۲ء)

طباطبائی نے لکھا ہے کہ اس شعر میں تشبیہ کے سوا معانی میں کچھ لطف نہیں۔ اول تو تشبیہ کا ہی لطف کسی شعر کے لیے کافی و مناسب جواز ہے، لیکن شاعرین نے بھی اس شعر کے معنی میں اتنی الجھنیں پیدا کر دی ہیں کہ ان کو دیکھ کر یہی کہنا پڑتا ہے کہ واقعی اس شعر میں معنی کا کچھ لطف نہیں۔

باقر کہتے ہیں: ”میں صحرا نورد تھا لیکن پاؤں میں کانٹے چبھ جانے سے میں صحرا نوردی سے معذور ہو گیا اور اب پابدامن بیٹھا ہوں۔ وہ کانٹے جو صحرا نوردی میں میرے پاؤں میں چبھے تھے، آئینہ زانو کا جو ہر معلوم ہوتے ہیں..... تلووں میں سے کانٹے نکالنے کے لیے جس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے، مصنف نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ جب پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو..... آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح بیٹھنے سے کانٹے سامنے آجاتے ہیں اور انھیں نکالنے میں آسانی ہوتی ہے۔“ باقر نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ شعر میں تلووں سے کانٹے نکالنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، آلتی پالتی مار کر بیٹھنا تو دور کی بات ہے اور نہ ہی شعر میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ میں پاؤں میں کانٹے چبھ جانے کے باعث صحرا نوردی سے معذور ہو گیا ہوں۔ پھر نہ تو پابدامن کے معنی بیان کیے ہیں اور نہ آئینہ زانو کے اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو کانٹے پاؤں میں چبھے تھے وہ صرف پابدامن ہونے پر ہی آئینہ زانو کا جو ہر کیوں معلوم ہو رہے ہیں؟ پہلے یہ صورت کیوں نہ تھی؟ باقر کی شرح شعر کی کسی بھی تہ کو نہیں کھولتی۔

بیچو دموبانی کے خیال میں 'پادامن ہونا' کے معنی ہیں 'ایک جگہ بیٹھ رہنا'۔ وہ شعر کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں کہ صحرا نورد عاشق اپنے پاؤں میں کانٹے چبھ جانے کے باعث دشت نوردی سے محروم ہے اور زانو پر پاؤں رکھے ہوئے، پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹوں کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ ان ہی کم بختوں کی وجہ سے میں پاؤں توڑے بیٹھا ہوں۔ اس شرح میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ جوہر آئینہ زانو کے خار پا ہونے کی کوئی تشریح نہیں کی گئی ہے۔ پھر، پاؤں میں کانٹے چبھ جانے کی وجہ سے صحرا نوردی سے محرومی کا کوئی ذکر شعر میں نہیں ہے اور اس بات کا تو کوئی اشارہ بلکہ کوئی قرینہ بھی نہیں کہ متکلم اپنے زانو پر پاؤں رکھے ہوئے ہے اور کانٹوں کو دیکھ کر ناراض ہو رہا ہے۔ بیچو دموبانی کی دوسری شرح یہ ہے کہ اب میں نے دشت نوردی ترک کر دی ہے اور اپنے خیالات میں الجھا رہتا ہوں۔ یہی خیالات میرے پاؤں کے کانٹے بن گئے ہیں جس طرح انسان پاؤں میں کانٹوں کے باعث چل پھر نہیں سکتا، اسی طرح یہ خیالات مجھے صحرا نوردی سے محروم رکھتے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ اس شرح میں بھی جوہر آئینہ زانو کی کوئی تشریح نہیں، یہ شرح اس لیے بھی مہمل ہے کہ ایک طرف تو خیالات میں الجھے رہنے کو (جس کی کوئی دلیل شعر سے نہیں دی ہے) دشت نوردی سے محرومی کا سبب بتایا ہے اور دوسری طرف اسی دشت نوردی کو ترک کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ میں اپنے خیالات میں الجھا رہتا ہوں۔

طباطبائی نے اپنی طرف سے ایک نکتہ نکالا ہے کہ چون کہ زانو اور پاؤں متصل ہیں، اس لیے پاؤں کے کانٹے آئینہ زانو کا جوہر بن گئے ہیں۔ یہ بات نہ شعر میں ہے اور نہ بدیہی ہے۔ لیکن اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بات کیا بنی؟ بات چوں کہ کوئی بنی نہیں، اس لیے طباطبائی نے یہ کہہ کر قصہ تمام کیا کہ اس شعر میں تشبیہ کا لطف تو ہے لیکن معنی کا لطف نہیں۔

مندرجہ بالا محاکموں پر اوروں کو قیاس کر لیجئے۔ مزید لطف درکار ہو تو نیاز فتح پوری کو سینے۔ نیاز کا کہنا ہے کہ 'آئینہ زانو' اور 'زانو' ایک ہی شے ہے۔ پھر فرماتے ہیں: "زانو کو آئینہ کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آئینے کو زانو پر رکھ کر دیکھا جاتا ہے اور دوسری یہ کہ زانو کی ہڈی آئینہ کی طرح ہوتی ہے"۔ اس عقلمندی کے گدے کا ہم رتبہ یہ بیان بھی نیاز

صاحب ہی کا ہے کہ "آئینہ زانو کے جوہر مجھے بالکل خار پا کی طرح نظر آتے ہیں"۔ انہیں یہ بھی خیال نہ رہا کہ فولاد کے گول نشانوں کے معنی میں 'جوہر' کو واحد استعمال کرتے ہیں۔ یعنی 'آئینے کے جوہر' اور 'تلوار کے جوہر' نہیں بلکہ 'آئینے کا جوہر' اور 'تلوار کا جوہر' کہتے ہیں۔ غلام رسول مہر نے قیاس دوڑایا ہے کہ چون کہ مراقبے میں سر کو زانو پر رکھا جاتا ہے (یہ مشکوک ہے) اور مراقبے میں دل جلا پاتا ہے، اس لیے زانو کو آئینہ کہنے لگے۔ مراقبے میں جلا ملے دل کو، اور آئینے کا لقب ملے زانو کو۔ ماروں گھٹنا پھولے آنکھ شاید اسی کو کہتے ہیں۔

ان معروضات کے بعد شعر پر دوبارہ غور کرتے ہیں۔ 'پادامن کردن' کے معنی ہیں: (۱) کنارہ کشی اختیار کرنا (۲) کسی چیز کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا (۳) کسی چیز پر قانع ہو جانا (اشائنگاس)۔ ٹیک چند بہار نے 'پادامن کردن' نہیں درج کیا ہے، لیکن 'پا بہ دامن کشیدن' لکھا ہے اور معنی دیے ہیں "آمد و رفت ترک کرنا"۔ اشائنگاس نے 'برہان قاطع' کا اتباع کیا ہے کیوں کہ وہاں 'پادامن کردن' اسی معنی میں درج ہے جو اشائنگاس میں ہیں۔ لہذا 'پادامن ہونا' کے معنی ہونے ترک آمد و رفت کرنا، کنارہ کشی اختیار کرنا، 'ہورہا ہوں' کے دو معنی ہیں: (۱) ہو کر رہ گیا ہوں، یعنی اب اس حالت کے بدلنے کی کوئی توقع نہیں۔ (۲) ہو گیا ہوں۔ یعنی پہلے ایک حالت تھی، اب ایک حالت ہے۔ یہ تبدیلی اختیار ہی بھی ہو سکتی ہے اور اضطراری بھی۔

مندرجہ بالا تجربے کی روشنی میں بمصرع اولیٰ کا مطلب ہوا کہ میں کسی وجہ سے صحرا نوردی ترک کر چکا ہوں اور اب صحرا نوردی سے معذور ہوں۔ یا میں کسی وجہ سے صحرا سے کنارہ کشی اختیار کر چکا ہوں۔ اب 'آئینہ زانو' کو دیکھیے:

'آئینہ زانو' دراصل گھٹنے کی گول ہڈی (Knee Cap) یعنی چھنی کو کہتے ہیں (اشائنگاس)۔ یہ استعارہ کس طرح بنا، اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ اغلب یہ ہے کہ اگر پائینچے اونچے اٹھالیے جائیں لیکن زانو ڈھکے رہیں تو بھی گھٹنے کی ہڈی دکھائی دیتی ہے۔ اس کو دیکھ کر زانو کے حسن کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کو زانو کا آئینہ (یعنی وہ چیز جس سے زانو کا حال کھلتا ہے) کہہ سکتے ہیں۔ یہ محاورہ اس قدر نادر ہے کہ میں نے اسے غالب کے علاوہ صرف دو جگہ اور دیکھا ہے۔ معنی کی وضاحت کے

لیے وہ حوالے بھی درج کرتا ہوں۔ ناسخ کا شعر ہے:

نظر آتی ہے صاف اس میں مجھے انجام کی صورت  
جو گورستاں میں دیکھا ہے کوئی آئینہ زانو کا

”طلسم ہوش ربا“ مصنفہ محمد حسین جاہ (جلد سوم، صفحہ ۳۶۲) میں آتا ہے: ”کسی کا سر آئینہ زانو پر بصد حیرانی رکھا ہوا کہ خدا جانے کیا صورت ہو“۔ ناسخ اور جاہ دونوں نے استعارہ اور رعایت دونوں کا حق خوب نبھایا ہے۔ غالب نے ایک قدم آگے جا کر استعارہ اور لغوی معنی دونوں کو ضم کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

گھٹنے کی ہڈی کو آئینہ زانو کہا، پھر آئینے کو منہ دیکھنے والا آئینہ فرض کیا، اب جب ہڈی سے آئینہ بننے کی منزل طے ہو گئی تو آئینے میں جو ہر بھی فرض کیے۔ اب آئینہ زانو محض ایک ہڈی کا نام نہ رہا بلکہ اسے لغوی معنی میں برت کر غالب نے نئی استعاراتی جہت پیدا کر دی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ’دل شب‘ کے معنی ہیں ’آدھی رات‘ لیکن میر نے اسے ’رات کا دل‘ کے معنی میں استعمال کر کے نئی استعاراتی جہت پیدا کر دی ہے:

کریں ہیں حادثے ہر روز وار آخر تو  
سنان آہ دل شب کے ہم بھی پار کریں

مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں شعر کا مفہوم یہ بنتا ہے: میں صحرا نور د تھا۔ صحرا نور دی وحشت کے باعث ہوتی ہے۔ ایسے عالم میں، جب میں مارا مارا پھر رہا تھا، آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کی اور اپنا حال معلوم کرنے کی فرصت یا توفیق کے تھی؟ اب میں صحرا نور دی ترک کر چکا ہوں اور گھٹنے پر سر ٹکائے بیٹھا ہوں۔ ترک صحرا نور دی کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وحشت میں کمی، واماندگی، مایوسی وغیرہ۔ میں گھٹنے پر سر ٹکائے بیٹھا ہوں، گویا آئینہ زانو میں اپنا منہ دیکھ رہا ہوں۔ آئینے کی خوبی اس کے جوہر میں ہوتی ہے۔ آئینے کے جوہر کو اکثر کانٹے سے تشبیہ دیتے ہیں، خود غالب کا شعر ہے:

کمال گرمی سستی تلاش دید نہ پوچھ  
برنگ خار مرے آئینے سے جو ہر پوچھ

اب جو میں آئینہ زانو کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کانٹے جو عالم صحرا نور دی

میں میرے پاؤں میں چبھے تھے، وہی اس آئینے کا جوہر ہیں۔ یعنی یہ آئینہ اس لیے لائق دیدار بنا کہ میرے پاؤں میں کانٹے چبھے تھے۔ نہ میرے پاؤں میں کانٹے چبھتے اور نہ میں اس طرح پاؤں توڑ کر گھٹنے پر سر ٹیک کر بیٹھتا کہ آئینہ زانو میں منہ دیکھنا نصیب ہوتا۔ صحرا نور دی کے باعث میرا آئینہ زانو جوہر دار ہوا اور اب جب صحرا نور دی ترک ہے، تو بھی وہ کانٹے اپنا جوہر دکھا رہے ہیں۔ خاص غالب کے رنگ کا شعر ہے۔



(۱۲۹)

تغافل دوست ہوں میرا دماغ عجز عالی ہے  
اگر پہلو تہی کیجے تو جا میری بھی خالی ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

اس شعر نے بھی شرح کو وہ جھکاٹیاں دی ہیں کہ تو بہ بھلی۔ نیاز فتح پوری نے مشکلات غالب کو حل کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا اور ان کا خیال تھا کہ ”غیر ضروری مباحث میں الجھے بغیر اگر سادہ الفاظ میں غالب کے مشکل اشعار کا مفہوم ظاہر کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔“ نیاز صاحب شعر زیر بحث پر یوں رقم طراز ہیں: ”مقصود صرف عالی ظرفی کا اظہار ہے، جس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص میری طرف سے پہلو تہی بھی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جگہ بدستور خالی ہے۔“ اس بات سے قطع نظر کہ نیاز صاحب کی ”شرح“ دراصل شعر کے ایک حصے کی نثر ہے اور دنداں تو جملہ درد بانند کی مصداق ہے، سوال یہ ہے کہ دماغ عجز کا عالی ہونا اور تغافل دوست ہونا عالی ظرفی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ عالی ظرفی کے معنی ہیں: ”تخل کی طاقت، یعنی کسی زیادتی یا قصور کو معاف کر دینا، کسی دشمن کے بھی ساتھ نیک سلوک کرنا، کسی ذاتی پر خاش کی بنا پر کسی کی امداد سے انکار نہ کرنا“ وغیرہ۔ آپ خود سوچیے کہ دوسرے مصرعے میں عالی ظرفی کا اظہار ہے کہ خودداری اور بددماغی کا؟

حسرت موہانی کہتے ہیں: ”میرے عجز کا درجہ یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہ تغافل کو دوست رکھنے لگا ہوں۔ پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ پہلو تہی کریں گے تو گویا میرا پاس کریں گے۔“ اس تشریح کی بنیاد پر حسرت نے یہ نکتہ نکالا ہے کہ ”تغافل، التفات سے بہتر ہے۔“ لیکن مشکل یہ ہے کہ دماغ عجز کے عالی ہونے کا مفہوم عجز کا درجہ

بڑھا ہوا ہونا نہیں ہو سکتے، کیوں کہ دماغ کے معنی درجہ یا مرتبہ نہیں ہوتے۔ بیخود دہلوی فرماتے ہیں: ”میری طینت میں عجز و انکسار کا مادہ اس قدر زیادہ پیدا کیا گیا ہے کہ میں اغماض کو اکرام سمجھتا ہوں۔“ یہاں مشکل یہ ہے کہ عجز و انکسار کی کثرت ہونا اور چیز ہے اور دماغ عجز کا عالی ہونا اور چیز۔ پھر پورے شعر میں کوئی بھی لفظ اغماض و اکرام کے مضمون کی طرف اشارہ تک نہیں کرتا، یہ مضمون مذکور ہونا تو دور کی بات ہے۔ غلام رسول مہر نے بھی نیاز وغیرہ کا نتیجہ کیا ہے، ہاں انھوں نے غالب کا ایک فارسی شعر ضرور نقل کیا ہے:

در آغوش تغافل عرض یک رنگی توں دادن

تہی تا می کنی پہلو بما بنمودہ جا را

(مولانا مہر نے ’دادن‘ کی جگہ ’دیدن‘ لکھا ہے، ممکن ہے یہ ہو کتابت ہو۔) مولانا مہر کے خیال میں فارسی اور اردو شعر ہم مضمون ہیں۔ مجھے اس میں کلام ہے۔ فارسی شعر کا مضمون معشوق کے اخلاص اور وفاداری پر طنز ہے یا خود پر طنز ہے۔ اردو شعر کا مضمون بالکل صاف صاف یہ ہے کہ مشکل تغافل دوست ہے۔

شعر میں دو کلیدی لفظ ہیں: ’دماغ‘ اور ’پہلو تہی‘۔ ’دماغ‘ کے کئی معنی ہیں۔ جو معنی ہمارے مفید مطلب ہیں، وہ ہیں ’غرور، گھمنڈ‘ (برہان قاطع)۔ اردو میں بھی یہ معنی آج تک مستعمل ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں (۱) فلاں کو اپنی دولت پر بہت دماغ ہے (۲) فلاں شخص بڑا دماغ دار ہے، عام لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا وغیرہ۔ لہذا ’دماغ عجز‘ کے معنی ہوئے ’عجز (عاجزی) پر غرور اور گھمنڈ‘۔ اور ’تیرا دماغ عجز عالی ہے‘ کے معنی ہوئے ’مجھے اپنی عاجزی پر بہت زیادہ گھمنڈ ہے‘۔ یہاں بھی غالب نے حسب معمول استعارہ دراستعارہ برتا ہے۔ دماغ کا عالی ہونا استعارہ ہے۔ اس کے معنی ہیں ’بہت ذہین ہونا، دماغ کا بہت پُر قوت ہونا‘۔ پھر ’دماغ‘ بمعنی عجب و غرور و تجتر دوسرا استعارہ ہے۔ غالب نے دونوں کو ملا کر دماغ عجز کے عالی ہونے کا تیسرا استعارہ بنا لیا۔

’پہلو تہی‘ کے معنی لوگوں نے ’بے توجہی، اغماض، بے التفاتی‘ وغیرہ فرض کیے ہیں۔ دراصل اس کے معنی ہیں ’اجتناب کرنا، گریز کرنا‘۔ یہ درست ہے کہ ان معنی سے ’بے توجہی‘ وغیرہ پر بھی اشارہ ہے، لیکن بے توجہی وغیرہ اس محاورے کے اصل معنی نہیں

ہیں۔ لہذا اگر پہلو تہی کی جیسے کے معنی ہوئے "اگر آپ مجھ سے اجتناب کریں، دور دور رہیں"۔ شرح نے جو معنی فرض کیے ہیں ان کی رو سے 'تغافل' اور 'پہلو تہی' تقریباً ہم معنی ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر ضروری بلکہ نامناسب ہے۔

ان نکات کی روشنی میں شعر کی شرح حسب ذیل ہے:

بعض لوگ تغافل کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن میں اپنی عاجزی کی بنا پر تغافل کو پسند کرتا ہوں۔ یہ میری امتیازی صفت ہے، اس لیے مجھے اس پر گھمنڈ بھی ہے۔ لہذا اگر آپ مجھ سے اجتناب کریں تو میری بھی جگہ خالی پائیں گے۔ یعنی میں تو اپنی تغافل دوستی اور غرور عاجزی کی بنا پر آپ کے پاس پھنگوں گا نہیں اور آپ کو میرے جیسا دوسرا ملنے والا نہیں۔ اس لیے میری جگہ خالی ہی رہے گی۔

ایک اور مفہوم حسب ذیل ہے۔ میں تغافل کو پسند کرتا ہوں اور ایسا بھی ہے کہ اپنے عجز پر میں مغرور بھی بہت ہوں۔ لہذا اگر آپ نے مجھ سے اجتناب کیا تو میں بھی محفل میں جگہ خالی کر دوں گا۔ اگر میں صرف تغافل دوست ہوتا تو آپ کا اجتناب شاید مجھے برا نہ معلوم ہوتا۔ لیکن چون کہ مجھے اپنے عجز پر غرور بھی ہے، اس لیے جہاں آپ نے مجھ سے پہلو تہی کیا، میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا۔

نکتہ یہ ہے کہ 'تغافل' اور 'پہلو تہی' کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تغافل تو یہ ہے کہ کوئی ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ اور پہلو تہی کرنا یہ ہے کہ کوئی ہم سے گریز کرے، ہم کو دیکھ کر الگ ہو جائے، منہ پھیر لے، ہٹ جائے۔ تغافل تو ہم کو پسند ہے، لیکن اجتناب گوارا نہیں۔ تغافل اس لیے پسند ہے کہ اس میں ارادی بے توجہی اور توہین ثابت نہیں ہوتی۔ میں عاجزی و انکسار کے باعث اسی پر خوش ہوں کہ آپ مجھ سے تغافل کرتے ہیں، براہ راست میری توہین نہیں کرتے۔ لیکن اجتناب تو ارادی ہوتا ہے، اس میں توہین کا عنصر ہے، اس لیے جہاں آپ نے اجتناب دکھایا، میں نے اپنی جگہ خالی کی۔

تیسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی عاجزی پر گھمنڈ ہے اور اس درجہ گھمنڈ ہے کہ اسی بنا پر میں تغافل تک کو پسند کرتا ہوں۔ کیوں کہ عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو بالکل پس پشت ڈال دیں اور اس چیز کو عزیز رکھیں (مثلاً تغافل) جس سے آپ کی شخصیت کی نفی ہوتی ہو۔ لہذا اگر آپ مجھ سے اجتناب کریں گے تو میں اور بھی

خوش ہوں گا اور سمجھوں گا کہ آپ نے میرے لیے جگہ خالی کر دی۔  
چوں کہ تہی کے معنی 'خالی' ہیں، اس لیے 'پہلو تہی' اور 'جا میری بھی خالی ہے' میں ایہام اور ضلع کا تعلق ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔

آخری سوال یہ ہے کہ عجز پر گھمنڈ کس طرح ہو سکتا ہے، کیوں کہ عجز تو غرور کی ضد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دینیات کا مانا ہوا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اپنی عبادت پر، اپنے انکسار پر، اپنے علم و تواضع پر گھمنڈ ہو سکتا ہے اور شرع میں ایسے غرور کی ممانعت شدت سے آئی ہے۔

(۱۳۰)

بے خودی بستر تمہید فراغت ہو جو  
پرہے سائے کی طرح میرا شبستاں مجھ سے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

آفریں ہے طباطبائی پر، کہ ایک طرف تو انھوں نے کلام غالب کی نکتہ رسی میں وہ معیار قائم کیا ہے کہ اچھے اچھے اس تک نہ پہنچ پائے اور دوسری طرف انھوں نے غالب پر نکتہ چینی، حتیٰ کہ غالب کا تحقیر کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے اور جب ان پر جوش کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ مناسب موقعے کا بھی انتظار نہیں کرتے بلکہ بے موقع ہی چاند ماری کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ شعر زیر بحث میں لفظ 'ہو جو' کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ "ہو جو خود ہی واہیات لفظ ہے۔ مصنف نے اس پر اور طرہ کیا کہ تحفیف کر کے ہو جو بنایا"۔ لفظ 'ہو جو' کو واہیات قرار دینے سے پہلے طباطبائی کو چاہیے تھا کہ وہ انیسویں صدی کے اوائل اور وسط میں راج محاورہ کی چھان بین کرتے اور دیکھتے کہ اس زمانے کے شعرا کا رویہ اس لفظ کے بارے میں کیا تھا۔

بیچود موبہانی نے 'ہو جو' کو اساتذہ دہلی کے تصرفات قادرانہ کی مثال بتایا ہے۔ لیکن یہ دفاع ناکافی بھی ہے اور غیر ضروری بھی۔ طباطبائی نے غالب کی زبان پر اس انداز سے اظہار خیال کیا ہے گویا غالب کو انیسویں صدی کی آخری دہائی میں مروج لکھنوی روزمرہ کا پابند ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ غالب کی زبان کم و بیش وہی ہے جو شاہ نصیر اور ذوق کی تھی، یعنی وہ زبان جو انیسویں صدی کے نصف اول میں دہلی کا روزمرہ تھی۔ طباطبائی کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ غالب کی یہ غزل ان کے زمانہ نوجوانی کی ہے۔ (اس وقت تک نسخہ حمید یہ شائع نہ ہوا تھا۔) لیکن بیچود موبہانی کو تو یہ بات بخوبی

معلوم ہونی چاہیے تھی کہ ۱۸۲۰ء کے آس پاس کی دہلوی زبان کو ۱۹۰۰ء کے لکھنوی روزمرہ کے معیار سے نہیں جانچ سکتے۔

ایک اور بات بھی قابل لحاظ ہے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد ہماری زبان بہت تیزی سے بدلی۔ جتنی تبدیلیاں انیسویں صدی کے نصف دوم میں رونما ہوئیں، وہ ان تبدیلیوں سے بہت زیادہ تھیں جو اٹھارویں صدی کے نصف دوم میں واقع ہوئیں۔ ذوق، غالب، مومن، ان سب پر اٹھارویں صدی کے نصف دوم کے اثرات نمایاں ہیں۔ یہی عالم آتش و ناسخ کا ہے۔ چنانچہ خود ناسخ (وفات ۱۸۲۸ء) نے لفظ 'ہو جو' آزادی سے استعمال کیا ہے:

ناسخ نہ ہو جو مگس خوان اغنیا  
سنتا ہوں یہ سخن لب نان جو جس سے میں

جہاں تک سوال تحفیف کا ہے، تو کیجیو، لیسجیو، دیجیو کی تحفیف کچھ، لچو، دیکو دتی کی زبان میں عام تھی۔ مصنف نے تو ایک پوری غزل 'کہہ دیجو' کی ردیف میں لکھی ہے۔ خیر، یہ بات الگ ہے کہ 'ہو جو' واہیات ہے اور 'ہو جو' واہیات تر۔ اس امکان پر بھی غور کرنا ہے کہ صحیح متن 'ہو جو' (یعنی 'ہو جو کا محقق') ہے یا یہ 'ہو اور جو' کا مجموعہ ہے۔ ('ہو' دعائیہ اور 'جو' حرف شرط)۔ حامد علی خاں نے اپنے مرتب کیے ہوئے دیوان میں اصرار کیا ہے کہ یہ 'ہو اور جو' کا مجموعہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ فرض کر لیتے ہیں، بلکہ 'ہو جو' کا محقق ہے اور 'ہو' میں واؤ معروف ہے۔ 'ہو' کا واؤ معروف سے ہونا مشکوک ہے، لیکن اس وقت یہ بحث نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے 'ہو جو' کو 'ہو جو' کا محقق نہیں بلکہ 'ہو جو پڑھا ہے۔ نسخہ عرشی کے دونوں اڈیشنوں میں 'ہو جو' کے بعد علامت ندا (۱) ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا عرشی نے بھی 'ہو جو' کو 'ہو جو' کا محقق قرار دیا ہے۔

اس وقت خوش قسمتی سے ہم میں سے اکثر کے سامنے غالب کے قدیم ترین مخطوطوں (بہ استثناء نسخہ حمیدیہ) اور اڈلین اڈیشن کے فوٹو موجود ہیں۔ مطبوعہ نسخہ حمیدیہ کی اشاعت اول (۱۹۲۱ء) بھی دستیاب ہے۔ ان کا مطالعہ کرنے سے مندرجہ ذیل صورت حال نظر آتی ہے:

(۱) زیر بحث شعر نسخہ عرشی زادہ (تاریخ کتابت ۱۸۱۶ء) میں نہیں ہے۔

(۲) زیر بحث شعر پہلی بار نسخہ حمیدیہ (تاریخ کتابت ۱۸۲۱ء) میں نظر آتا ہے۔ مخطوطے کا حال معلوم نہیں، کیوں کہ اس کی فوٹو نہیں ملتی اور مخطوطہ خود معلوم نہیں کہاں پوشیدہ ہے۔ مطبوعہ اڈیشن (۱۹۲۱ء) کے صفحہ ۱۸۶ پر 'ہو' اور 'جو' الگ الگ بالکل صاف صاف لکھے ہوئے ہیں۔

(۳) نسخہ شیرانی (تاریخ کتابت ۱۸۲۶ء) کے ورق ۸۷ الف پر یہ شعر ہے۔ اس میں 'ہو' اور 'جو' الگ الگ نسخہ حمیدیہ (مطبوعہ) سے بھی زیادہ واضح لکھے ہوئے ہیں۔

(۴) پہلے مطبوعہ اڈیشن (۱۸۴۱ء) فوٹو کاپی شائع کردہ کالی داس گیتارضا کے صفحہ ۸۰ پر یہ شعر ہے۔ طباعت داغدار ہے، لیکن 'ہو' جو اس طرح لکھا ہے کہ ایک لفظ معلوم ہوتا ہے۔

(۵) ۱۸۶۲ء کے کانپوری اڈیشن (صفحہ ۶۸) پر 'ہو' جو والا شعر ہے 'ہو' جو اس طرح لکھا ہے کہ اس کو 'ہو+جو' بھی پڑھ سکتے ہیں اور 'ہو' جو (ایک لفظ) بھی۔

مندرجہ بالا محاکے سے معلوم ہوتا ہے کہ 'ہو+جو' کی قرأت کچھ اتنی بعید نہیں، کیوں کہ کچھ شہادتیں اس کی موافقت میں ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ 'ہو+جو' ہے تو معنی کیا ہیں؟ جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے 'جو' کو حرف شرط قرار دیا جاسکتا ہے۔ اب معنی یہ ہوئے کہ اگر میرا شبستاں سائے کی طرح مجھ سے پر ہے تو مجھے امید ہے (یا میں سمجھتا ہوں) کہ اب مجھے بے خودی نصیب ہوگی اور یہ بے خودی تمہید فراغت کا بستر ہوگی۔ یعنی یہ بے خودی ایسا بستر، ایسی آرام گاہ ہوگی، جسے فراغت کی تمہید کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ 'تمہید' اور 'بستر' میں ضلع کا تعلق ہے، کیوں کہ 'تمہید' کے اصل معنی 'بستر پھیلانا' ہوتے ہیں۔

سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر شبستاں میرے سائے کی طرح مجھ سے پر ہے تو اس سے بے خودی کیوں کر حاصل ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک میں آشفتگی اور وحشت کے عالم میں مارا مارا پھرتا تھا، میں شبستانوں اور آرام گاہوں سے بے تعلق تھا۔ اب جو میں اپنے شبستاں میں آکر بیٹھا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وحشت کو ترک کر چکا ہوں۔ اب میں عشق کی اس منزل میں ہوں جو استغراق اور حیرت کی منزل ہے۔ ظاہر ہے کہ اب بے خودی، اور اس کے نتیجے میں وحشت، سراسیمگی اور سرگردانی سے فراغت ہی حاصل ہونے کی امید ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب تک مجھ کو اپنی ہستی اور اپنے وجود کا

احساس تھا، تب تک مجھ میں وحشت اور شوریدہ سری تھی۔ اب جب مجھے بے خودی حاصل ہونے والی ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی ہستی سے بھی فراغت حاصل ہوگی۔ جب میرا شبستاں میرے سائے سے پر ہو جائے گا تو مجھے بے خودی اور پھر آرام ہی آرام ہوگا۔ جب ہستی کا احساس نہ ہوگا (بے خودی ہوگی) تو فراغت بھی حاصل ہوگی۔

یہ سب باتیں تو ہوئیں، لیکن میرا شبستاں سائے کی طرح مجھ سے پر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ شرح نے اس سکتھی کو حل کرنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر لا حاصل۔ یوسف سلیم چشتی فرماتے ہیں: "جس طرح سائے کا گھر سائے سے معمور ہوتا ہے، لیکن شعر میں نہ سائے کے گھر کا ذکر ہے اور نہ سائے سے اس گھر کے معمور ہونے کا بیان۔ بیخود موبانی کا ارشاد ہے: "میرا شبستاں اس طرح پر ہے جس طرح سائے سے سایہ دار چیز۔" یعنی یہاں یوسف سلیم چشتی اور بیخود موبانی ہم خیال ہیں۔ بیخود دہلوی نے نثر کر کے مصرع چھوڑ دیا ہے۔ "سائے کی طرح میرا شبستاں مجھ سے بھرا ہوا ہے۔" حسرت موبانی کے خیال میں "میرا شبستاں مجھ سے پر ہے، جس طرح سائے کا شبستاں سائے سے پر ہوتا ہے۔" لیکن مصرعے میں سائے کے شبستاں کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ طباطبائی نے عمدہ بات کہی ہے کہ 'فراغت' کے لغوی معنی 'خالی ہونا' ہیں اور یہ لفظ 'پر' کے مناسبات میں سے ہیں۔ لیکن 'سائے' اور 'پر' میں کیا مناسبت ہے، یہ بات واضح نہیں ہوئی۔

دراصل غور کرنے کا لفظ 'مجھ سے' ہے۔ میرا شبستاں مجھ سے پر ہے، جس طرح کہ میرا سایہ مجھ سے پر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی شخص کے سائے میں صرف اس شخص کی ہی کارفرمائی ہوتی ہے جس کا سایہ ہوتا ہے۔ یعنی سائے سے زیادہ ذاتی اور شخصی چیزیں کم ہوتی ہیں۔ سایہ تاریک ہوتا ہے، یعنی بھرا بھرا ہوتا ہے، کیوں کہ تاریکی خالی جگہ کو بھر دیتی ہے۔ ('سایہ ناک' کے معنی 'تاریک' ہوتے ہیں۔) اب سایہ خود کس چیز سے بھرا ہوا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس شے سے، جس کا وہ سایہ ہے لہذا میں اپنے شبستاں میں سائے کی طرح محیط ہوں۔ سارا شبستاں مجھ سے اسی طرح بھرا ہوا ہے جس طرح میرے سائے میں صرف میرے جسم یا وجود کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ تشبیہ بہت بدلتی ہے، لیکن اتنی دور کی ہے کہ لطف کم ہو گیا ہے۔

(۱۳۱)

نگہ گرم سے اک آگ چکتی ہے اسد  
ہے چراغاں خس و خاشاک گلستاں مجھ سے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

طباطبائی نے لکھا ہے کہ ”نگہ گرم کی کچھ وجہ نہ معلوم ہوئی“ اور بات بظاہر ٹھیک بھی ہے کہ شعر میں کوئی وجہ مذکور نہیں ہے۔ بیخود دہلوی فرماتے ہیں کہ فراق یار میں باغ کی سیر کو جانے کی وجہ سے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے اور پھولوں کو دیکھ کر آنکھوں سے ایسے شعلے نکلے ہیں کہ ان سے خس و خاشاک گلستاں جل کر چراغاں کا رنگ اختیار کر گئے ہیں۔ یہ شرح یوں تو بہت ٹھیک ہے لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ شعر میں اس بات کا ذکر نہیں کہ فراق یار میں سیر باغ کو گئے ہیں اور اگر گئے بھی ہیں تو کیوں گئے ہیں؟ فراق یار کے عالم میں باغ کی سیر کرنے کی طرف دل بھلا کیوں مائل ہی ہوا؟ بیخود موبانی نے ”نگہ گرم“ کا مطلب بتایا ہے ”نگاہ معرفت“ لیکن انھوں نے نہ کسی لغت کی سند دی ہے اور نہ یہ بتایا ہے کہ ”نگہ گرم“ کو ”نگاہ معرفت“ کہنے کی وجہ ان کے خیال میں کیا ہے؟

جناب عرشِ ملبانی نے عمدہ نکتہ نکالا ہے میں بہار باغ کو تیرا جلوہ سمجھ کر باغ کو گرم نگاہی سے دیکھ رہا ہوں۔ میری گرم نگاہی نے خس و خاشاک کو جلا کر چراغ روشن کر دیے ہیں۔ یعنی تیرے جلوے کی وجہ سے باغ میں کوئی چیز ہی نظر نہیں آرہی ہے جسے خس و خاشاک کہا جاسکے۔ بیشک یہ بات بہت بدلیج ہے۔ لیکن اس میں بھی قباحتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بہار باغ کو جلوہ معشوق سمجھ لینے کا کوئی قرینہ شعر میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ”نگاہ“ کی صفت ”گرم“ ضرور مستعمل ہے لیکن ”گرم نگاہی“ کے معنی اردو میں ”غصہ بھری نگاہ“ کے ہیں۔ فارسی میں ”گرم نگاہی“ کی مثال مجھے نہیں ملی۔ ”گرم“ کے معنی

فارسی میں ”سرد کا الٹا“، ”جلد“، ”تیز“، ”بسیار بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی معنی جناب عرش کی شرح کی تائید نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ کہ اردو میں ”گرم“ بمعنی ”مشغول“، ”سرگرم“ ضرور مستعمل ہے، لیکن فارسی میں اس کی کوئی سند نہیں، الا اس کے کہ ”گرم کار بودن“ / شدن کے معنی ”کام میں تندہی کے ساتھ لگا ہونا“ لگ جانا“ فارسی میں ضرور ہیں۔ اسکا سکا نے اسی پر قیاس کر کے ”گرم“ کے ایک معنی ”Active“ ضرور لکھے ہیں لیکن ان معنی کی کوئی سند نہیں درج کی۔ یعنی تنہا لفظ ”گرم“ کے معنی ”مصرف“ یا ”Active“ فارسی میں نہیں ہیں۔

بہر حال، جناب عرش کی شرح میں یہ خرابی برقرار رہتی ہے کہ ”نگہ گرم“ کے معنی ”نگاہ“ کی مصروفیت“ لیے جائیں تو بات بنتی نہیں اور اس کے معنی ”غصہ بھری آنکھ“ قرار دیے جائیں تو بھی بات نہیں بنتی۔ اگر ”نگہ گرم“ کے معنی لیے جائیں ”مصرف“ نگاہ، تو یہ معنی نامناسب بلکہ غلط ہیں، کیوں کہ مصروفیت کی صفت ”نگاہ“ کے لیے درست نہیں۔ پھر بھی، اگر یہ معنی تسلیم بھی کر لیے جائیں کہ ”نگہ گرم“ سے مراد وہ ”نگاہ“ ہے جو مصرف ہے، یعنی اپنا کام کر رہی ہے، تو بھی اس آنکھ سے آگ کے ٹپکنے کی کوئی وجہ ظاہر نہیں ہوتی اور طباطبائی کا سوال اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ عرش صاحب کی شرح میں ایک مشکل اور بھی ہے: ان کا کہنا ہے کہ باغ کو معشوق کا جلوہ سمجھ لینے کے باعث باغ کی ہر چیز روشن ہو گئی ہے اور باغ میں کہیں پر خس و خاشاک نظر نہیں آتا۔ لیکن شعر تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یہ میں ہوں جس کے باعث گلستاں کے خس و خاشاک چراغاں بن گئے ہیں۔ اشارہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تصور معشوق کی بنا پر باغ کے خس و خاشاک بھی پھول یا چراغ بن گئے ہیں۔

جناب سہا مجددی نے اور بھی زیادتی کی ہے۔ عرش صاحب نے تو اچھا مطلب نکالا تھا، خواہ وہ شعر سے دور جا پڑا ہو۔ سہا صاحب نے تو ایسا مطلب بیان کیا جو شعر میں ہے ہی نہیں۔ سہا صاحب فرماتے ہیں کہ ”نگہ گرم“ دراصل ”غصہ بھری آنکھ“ کو کہتے ہیں جو سرخ ہوتی ہے، لیکن بقول سہا، یہاں پر ”آگ ٹپکنا“ استعارہ ہے ”خوں فشانی“ کا، اس لیے بقول جناب سہا، ”نگاہ گرم“ سے صرف سرخی یا خوں فشانی میں سرگرمی مراد ہے۔ اس تاویل میں پہلی قباحت تو یہ ہے کہ آگ ٹپکنا کو خوں فشانی کا استعارہ کہنے کا جواز دور دور تک نہیں اور اگر ہے بھی تو دوسری قباحت یہ ہے کہ اس صورت میں یا تو ”نگہ گرم“

غیر ضروری ہے یا آگ شکتی ہے غیر ضروری ہے۔ یعنی یہ کہنا کافی تھا کہ میری خوں نشانی کی وجہ سے خس و خاشاک گلستاں چراغاں بن گئے ہیں یا پھر یہ کہتے کہ میری نگاہ گرم کی وجہ سے خس و خاشاک گلستاں چراغاں بن گئے ہیں۔ سہا صاحب کی شرح نہ صرف یہ کہ غلط ہے بلکہ اس کی وجہ سے مصرع اولیٰ میں حشو کی کارفرمائی نظر آتی ہے اور شعر اپنے رتبے سے گر جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ طباطبائی نے ٹھیک سوال پوچھا، لیکن ان کا سوال بے وجہ تھا، کیوں کہ انھیں جاننا چاہیے تھا کہ نگاہ / نگہ گرم یا چشم گرم رکھنا عاشق کی صفات میں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ معشوق کے چہرے کو آفتاب اور آتش، اور خاص کر بھڑکتی ہوئی آگ سے تشبیہ دیتے ہیں، جیسے تیر کے اس شعر میں ہے:

برافروختہ رخ ہے اس کا کس خوبی سے مستی میں

پی کے شراب تکلفتہ ہوا ہے اس توکل پہ بہار ہے آج

غالب نے فارسی میں اور بھی وضاحت سے کہا ہے:

ہر کہ بیند در رہش گوید ہی

قبلہ آتش پرستاں می رود

لہذا ظاہر ہے کہ آفتاب یا بھڑکتی ہوئی آگ جیسے چہرے والے کے عاشق کی آنکھ میں گرمی تو آہی جائے گی۔ عربی کے مندرجہ ذیل اشعار میں عاشق کی آنکھ کو گرم کہا گیا ہے اور پہلے شعر سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عاشق کی آنکھ معشوق کی وجہ سے گرم ہے:

بفروش کہ بازار چوں چشم بتو گرم است

حسن است متاع تو و نقصان نہ پذیرد

اس شعر میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ بفروش بڑے غضب کا لفظ ہے۔ یہاں اس کے معنی دکھاؤ، ظاہر کرو تو ہیں ہی، لیکن بازار، متاع اور نقصان کی رعایت بھی پیدا ہوگئی ہے، کیوں کہ بفروش کے ایک معنی فروخت کرو بھی ہیں۔

عربی کا دوسرا شعر حسب ذیل ہے:

چہ گرمی است کہ در سر شراب می سوزد

چہ آتش است کہ در دیدہ خواب می سوزد

اس شعر سے بات بالکل ظاہر ہے کہ عاشق کی آنکھ اس قدر گرم ہے کہ نیند بھی وہاں نہیں ٹھہر پاتی اور جل جاتی ہے۔ لہذا یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ غالب نے 'نگہ گرم' صاف صاف انھیں معنی میں لکھا ہے۔ مزید لطف کی بات یہ ہے کہ پھولوں کو معشوق کا استعارہ تو کرتے ہی ہیں، انھیں 'گرم' بھی کہتے ہیں۔ اس طرح غالب کے شعر میں باغ میں چراغاں ہو جانے کی ایک معنوی مناسبت بھی پیدا ہوئی۔ 'بہارِ نجم' میں میرزا رضی دانش کا شعر درج ہے:

شرساریم از سلوک گرم خوبان چمن

برگ گل دارد زبان خار در آزار ما

مناسبت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نظر کسی چیز پر ٹھہر جائے تو اسے 'نظر گرم شدن' کہتے ہیں۔

یہ محاورہ 'بہارِ نجم' میں درج ہے اور سنداً میر طاہر وحید کا شعر لکھا ہے:

دل بیتاب من از شوق تماشا سوزد

پیش از نیم کہ بہ روے تو نظر گرم شود

اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عاشق کی آنکھ کی ایک صفت گرمی بھی ہے۔ غالب نے اپنی نگاہ کو جو گرم بتایا تو بالکل صحیح بتایا۔ طباطبائی کو سوال پوچھنا ہی نہ چاہیے تھا کہ نگاہ کی گرمی کس وجہ سے ہے۔ اور اگر پوچھنا ہی تھا تو جواب بھی انھیں فراہم کرنا چاہیے تھا۔

ساغر کے لیے مڑگاں کا کام کرے گا جب میکدے کو چشم ناز کے مقابلے میں ٹکست ہوگی۔ بہ الفاظ سہا "پس یہ تکمیل دیدہ ساغر اس وقت ہو سکتی ہے کہ چشم معشوق سے میکدے کو ٹکست ہو، کیوں کہ شیشے میں بغیر ٹوٹے بال نہیں پڑتا"۔ یہ نکتہ خوب ہے، لیکن مندرجہ ذیل مزید باتوں پر غور کیجیے۔

(۱۳۲)

مے کدہ گر چشم مست ناز سے پاوے ٹکست  
موے شیشہ دیدہ ساغر کی مڑگانی کرے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر کے شارحین کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک کی نظر میں موے شیشہ کا دیدہ ساغر کی مڑگانی کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ دیدہ ساغر کو حیرانی ہے۔ دوسرے کا خیال ہے کہ دیدہ ساغر کی حیرانی نہیں، بلکہ ساغر کا شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لینا مراد ہے۔ بچو دو موہانی نے صحیح لکھا ہے کہ شعر میں حیرانی کا کوئی ذکر نہیں۔ لہذا یہی مفہوم درست ہے کہ شرمندگی کے باعث ساغر کی آنکھ جھک جاتی ہے۔ پہلے مصرعے کی شرح میں ایک خفیف سا اختلاف رائے بعض شرح کے درمیان ہے۔ بعض نے 'ٹکست پانا' کے معنی لیے ہیں 'ہار جانا' اور بعض نے 'ٹوٹ جانا' مراد لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ 'ہار جانا' ہی صحیح ہے، کیوں کہ 'ٹوٹ جانا' کے لیے 'ٹکست ہونا' یا 'ٹکست ہونا' بولتے ہیں، نہ کہ 'ٹکست پانا'۔ لیکن یہ بھی ہے کہ غالب نے 'ٹکست' بمعنی 'ٹوٹنا' سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، کیوں کہ اس کے بغیر 'موے شیشہ' کا جواز نہ پیدا ہوتا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، تیر اور غالب دونوں کی نمایاں صفت ہے کہ وہ الفاظ کے لغوی معنی پر استعارہ تعمیر کرتے ہیں اور اس طرح رعایت کے نئے نئے رنگ دکھاتے ہیں۔ یہ سب تو ہوا۔ اور یہ بھی کہ شعر معمولی ہے، کیوں کہ مضمون میں کوئی لطف نہیں۔ طباطبائی نے ٹھیک کہا ہے کہ "اس قدر فصیح اور مضمون کچھ نہیں"۔ لیکن متداول شرحیں بعض مقامات پر تشنہ معلوم ہوتی ہیں۔ صرف علامہ سہانے ایک نکتہ نکالا ہے کہ مصرع ثانی کو مصرع اولیٰ کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کی شرط سمجھنا چاہیے۔ یعنی موے شیشہ اس وقت دیدہ

ساغر کو آنکھ سے تشبیہ دی ہے، لیکن ایسی آنکھ سے جونگی ہے، کیوں کہ اس پر مڑگاں کا سایہ نہیں۔ وہ آنکھ جونگی ہے، وہ شرم سے منہ نہیں چھپا سکتی، کیوں کہ مڑگاں ہی آنکھوں کو ڈھانپنے کا کام کرتی ہے۔ اب جب چشم ساغر شرمندہ ہوئی تو وہ اپنی شرم کو کس طرح چھپائے، کہ مڑگاں تو ہیں ہی نہیں۔ لہذا میکدے کی ٹکست کے ساتھ ساغر بھی ٹکست ہو جاتا ہے (ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس میں بال آجاتا ہے) اب جو اس میں بال پڑا (یعنی موے ساغر پیدا ہوا) تو اس نے دیدہ ساغر کو چھپانے کے لیے مڑگاں کا کام کیا۔ یعنی ذہنی کیفیت (شرم) طبعی حالت پر اثر انداز ہوئی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ذہنی کیفیت کا نتیجہ جسمانی عارضے یا طبعی تبدیلی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اس شرح کی رو سے شعر میں نازک خیالی کا پہلو تو آگیا، لیکن کوئی خاص خوبی اب بھی نہیں پیدا ہوئی۔ کیوں کہ ساغر کو آنکھ سے تشبیہ دینا کوئی بہت بدیع یا مناسب بات نہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ شیشے میں پڑے ہوئے ایک بال یا چند بالوں کو مڑگاں قرار دینا نہ صوری اعتبار سے مناسب ہے اور نہ معنوی اعتبار سے۔ کھینچ کھانچ کر ساغر کو آنکھ سے تشبیہ تو دے بھی سکتے ہیں، لیکن بال تو ساغر کے منہ کے اوپر یا لب ساغر پر تو پڑتا نہیں کہ مڑگاں کی محاکات مکمل ہو سکے۔ بال تو ساغر کے بدن میں پڑتا ہے، جب کہ مڑگاں کی شرط یہ ہے کہ وہ آنکھ پر سایہ کیے ہوئے ہو یا کر سکتی ہو۔ لہذا یہ تشبیہ بہت بودی ہے۔ لیکن ابھی ایک پہلو اور بھی ہے۔ مصرع اولیٰ میں 'اگر پر غور کیجیے۔ ظاہر ہے کہ یہ حرف شرط ہے۔ یعنی اس کے ذریعے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو بیان ہے، وہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ واقعے کے امکان کا پتا دیتا ہے۔ مثلاً ہم نے کہا اگر بارش ہوئی، یعنی بارش کا ہونا یقینی اور واقعی نہیں ہے بلکہ احتمالی ہے۔ لہذا مے کدہ اگر چشم ناز سے ٹکست پائے کے معنی ہونے کے اگر ایسا واقعہ پیش آیا۔ یعنی چشم مست ناز ہزار نشہ بردوش ہو، لیکن یہ یقینی نہیں کہ وہ میکدے کو ٹکست دے دے گی۔ ہاں، اگر وہ ٹکست دے دے تو موے

ساغر اسی طرح ساغر کی حفاظت کرے گا جس طرح مڑگاں آنکھ کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر سوال ہو کہ موے شیشہ بھلا کس طرح ساغر کی حفاظت کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ جس چیز میں بال پڑ جائے وہ نکلے نکلے نہیں ہوتی، صرف چنگ جاتی ہے اور اغلب امکان رہتا ہے کہ اگر نہ چپکتی تو نکلے نکلے ہو جاتی۔ بال پڑ جانے کے بعد نکلے نکلے ہو جانے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔

موے شیشہ کے مضمون میں اس قدر موشگافیوں کے باوجود طباطبائی کی بات بڑی حد تک صحیح رہتی ہے۔ معلوم ہوا جب تک مناسبتیں بر محل اور مضمون نہ دار نہ ہو، بات بنتی نہیں ہے۔

(۱۳۳)

سرشک سر بہ صحرا دادہ نور العین دامن ہے  
دل بے دست و پا افتادہ بر خوردار بستر ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر میں مضمون اور معنی کی ندرت ہے، لیکن کوئی خاص باریکی نہیں۔ اس کے باوجود اس کے بعض پہلو شارحین کی نگاہ سے پوشیدہ رہے ہیں۔ مفہوم تو یہ ہے کہ وہ آنسو جو صحرا کا ارادہ کر کے نکلا تھا، دامن کو بہت پیارا ہے۔ اور وہ دل جو بے دست و پا پڑا ہوا ہے، بستر کا برخوردار ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 'سر بہ صحرا دادہ' اور 'سرشک' میں ترکیب تو صغی نہیں بلکہ تملیکی ہے۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ سر بہ صحرا دادہ کے آنسو، یعنی وہ آنسو جو اس شخص نے بہائے ہیں جو صحرا میں سرگرداں و پریشاں ہے۔ لیکن یہ محض بے کاری موشگافی ہے اور کچھ قرین قیاس بھی نہیں کیوں کہ ایسے موقع پر، جہاں کسی شخص کے بارے میں کوئی عمومی اسم استعمال کیا جائے تو وضاحت کر دیتے ہیں (مثلاً من سر بہ صحرا دادہ، یا آن سر بہ صحرا دادہ) یا پھر جمع استعمال کرتے ہیں (مثلاً لب شک در تنگی مردگاں کا)۔ دوسری بات یہ کہ اگر مصرع اولیٰ میں 'سر بہ صحرا دادہ' سے کوئی شخص مراد ہے، تو مصرع ثانی میں 'بے دست و پا افتادہ' سے بھی کوئی شخص مراد ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ایسی تخصیص ممکن ہے۔ تو پھر مصرع اولیٰ میں تخصیص کیوں ہو؟

بعض شارحین نے کہا ہے کہ 'دامن' کو صحرا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ صحرا اور دامن میں رعایت ضرور ہے، کیوں کہ دامن صحرا بولتے ہیں۔ لیکن دامن کو صحرا سے تشبیہ نہیں دیتے اور نہ ہی اس شعر میں دامن کو صحرا کا استعارہ فرض کرنے کا کوئی



جواز ہے۔

نکلنے کی باتیں حسب ذیل ہیں:

(۱) آنسو بہانے والے کا ارادہ یا خیال تھا کہ اتنے آنسو بہاؤں گا کہ آنسوؤں کی نہر بن جائے گی۔ اور صحرا تک پہنچے گی یا آنسو اتنے جوش سے نکلے تھے کہ گویا ان کا ارادہ صحرا تک پہنچنے کا تھا۔ لیکن وہ دامن تک آ کر رہ گئے۔ دامن تک آ کر رہ جانا اس باعث ہو سکتا ہے کہ آنسوؤں میں دراصل اتنا زور ہی نہ تھا کہ وہ صحرا تک پہنچتے۔ یا پھر یہ کہ دامن اتنا وسیع تھا کہ آنسوای میں گم ہو کر رہ گئے۔ دونوں صورت حالات میں شاعر کا لہجہ طنزیہ ٹھہرتا ہے اور یہ طنز خود اپنے اوپر ہے۔ آنسو دامن تک ہی رہ گئے، گویا وہ دامن کو بہت پیارے تھے۔

(۲) 'برخوردار' کو اردو میں اولاد یا عزیز خورد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن فارسی میں یہ مفہوم نہیں ہے۔ بعض شرح نے 'برخوردار' کی تشریح میں موشگافیاں اس نقطہ نظر سے کی ہیں کہ 'برخوردار' بمعنی 'اولاد' ہے۔ لیکن 'برخوردار' بستر فارسی ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں 'برخوردار' کے اردو معنی کا وجود فرض کرنا غالب کے نقطہ نظر سے غلط ہوگا بلکہ آج بھی بعض لوگ اس نظریے کے قائل ہیں کہ اگر فارسی لفظ کسی ایسے معنی میں استعمال ہو جو فارسی میں نہیں ہیں تو اس معنی کو برتتے ہوئے اس لفظ کو فارسی ترکیب میں باندھنا غلط ہوگا۔ چنانچہ بعض لوگ اقبال کے مصرعے:

تا کجا آویزش دین و وطن

پر اعتراض کرتے ہیں کہ 'آویزش' بمعنی 'جھگڑا، مناقشہ' فارسی نہیں ہے، اس لیے 'آویزش' دین و وطن' بمعنی 'دین اور وطن میں جھگڑا، مناقشہ، اختلاف' رائے غلط ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی دو لفظ، چاہے وہ دیسی ہوں یا بدیسی، مرکب ہو سکتے ہیں۔ خود فارسی والے بھی یہی کرتے رہے ہیں۔ لیکن غالب کا بھی خیال تھا کہ فارسی لفظ اگر اردو معنی میں آئے تو مرکب نہ کیا جائے، کیوں کہ وہ ترکیب مستند نہ ہوگی۔ لہذا غالب نے 'برخوردار' بستر سے 'بستر کی اولاد' نہ مراد لیا ہوگا۔ اگر بعض ہندوستانی فارسی گوئیوں نے 'برخوردار' کو 'اولاد' یا 'عزیز خورد' کے معنی میں برتا بھی ہو تو وہ غالب کے لیے مستند نہ ہوگا۔ اس لیے غالب کا عام طریقہ دیکھتے ہوئے اس شعر میں 'برخوردار' کو

فارسی ہی معنی میں فرض کرنا چاہیے۔

بعض فارسی لغات میں 'برخوردار' نہیں ملتا، لیکن 'برخورڈ' کے معنی میں لکھا ملتا ہے کہ "وہ جو برخوردار ہو"۔ بہر حال 'برخورڈ' اور 'برخوردار' فارسی میں ہم معنی ہیں۔ اور ان کے معنی حسب ذیل ہیں: (۱) خوش و خرم (۲) جس کی عمر لمبی ہو (۳) جس کو روزیہ ملتا ہو (۴) فخر و مباہات کرنے والا (۵) گھر کا سامان، برتن وغیرہ (۶) وہ جس کی مرادیں پوری ہوں اور اپنی حاجات پر مظفر ہو (۷) فائدہ اٹھانے والا، کسی سے مل جانے والا (اسٹائین گاس 'شش اللغات'؛ 'مہار عجم')۔

یہ بات واضح ہے کہ 'اولاد' یا 'عزیز خورد' کے مفہوم والے اردو لفظ 'برخوردار' کی اصل اوپر درج کردہ معنی نمبر ایک، دو، چھ اور سات میں ہے۔ شعر زیر بحث کے لیے جو معنی زیادہ مناسب ہیں وہ نمبر تین اور سات ہیں۔ علامہ طباطبائی اور پنڈت جوش ملیح آبادی نے مبہم طور پر یہی معنی بیان کیے ہیں۔ اوروں نے معنی غلط لکھے ہیں۔ مثلاً بیخود موہانی نے 'ناز پروردہ' لکھا ہے اور بیخود دہلوی نے 'فرزند دلہند' درج کیا ہے۔

(۳) مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں مصرع ثانی کا مفہوم یہ ہے کہ دل بے دست و پا افتادہ بستر کا روزیہ خوار ہے (یعنی بستر کی خدمت میں لگا ہوا ہے، بستر کی سرکار سے منسلک ہے) یا بستر سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سے مل گیا ہے۔ مراد یہ ہوتی کہ دل بے دست و پا افتادہ کا لجا و ماویٰ بستر ہی ہے۔

(۴) لیکن 'برخوردار' کے اردو معنی کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 'نورالعین' اولاد کو بھی کہتے ہیں۔ اس لیے 'نورالعین' اور 'برخوردار' میں ضلع کا لطف ہے۔ غالب کی شوخی نے 'دادہ' کے لفظ سے بھی فائدہ اٹھالیا ہے۔ یعنی 'نورالعین'، 'برخوردار' (بمعنی اولاد) اور 'دادہ' (دادا) میں بھی ضلع کا لطف ہے۔ ممکن ہے یہ ترکیب غالب کو میر سے سوجھی ہو: وہ دھوبی کا کم ملتا ہے میل دل اودھر ہے بہت کوئی کہے اس سے ملنے میں اس کو کیا ہم دھولیں ہیں (میل دل: میلے دل۔ دھوبی اور میلے)۔

(۵) دونوں مصرعے دو حصوں میں منقسم ہیں اور مصرعین کے پہلے کلمے ہم وزن بھی ہیں اور ہم قافیہ بھی (دادہ، افتادہ)۔ اس طرح شعر میں دلکش ترمیم پیدا

ہوتی ہے۔

(۶) ایک طرح سے دیکھیے تو یہ شعر متکلم کے آنسوؤں اور دل کی حالت نہیں بلکہ عام کلیہ بیان کر رہا ہے۔ سرشک سر بہ صحرا دادہ کیا ہے؟ نور العین دامن ہے اور دل بے دست و پا افتادہ کیا ہے؟ بر خور دار بستر ہے۔

(۷) آنسو آنکھ سے نکلتا ہے اور اس میں آب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آنسو کو 'نور العین' (آنکھ کا نور) کہنا مزید لطف رکھتا ہے۔ 'دل' کی ایک صفت 'افتادگی' بھی ہے۔ اس لحاظ سے دل کو بے دست و پا افتادہ کہنا بھی خالی از لطف نہیں۔

چھوٹے سے مضمون میں اتنی باتیں پیدا کر دینا غالب کا ادنیٰ کارنامہ ہے۔ مزید ار شعر کہا ہے۔

(۱۳۴)

خطر ہے رشتہ الفت رگ گردن نہ ہو جاوے  
غرور دوستی آفت ہے تو دشمن نہ ہو جاوے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

طباطبائی اور حسرت موہانی دونوں کا خیال ہے کہ 'غرور دوستی' کا تعلق معشوق سے ہے۔ یعنی عاشق کی وفاداری پر معشوق کو اس قدر اعتماد ہے کہ وہ (معشوق) مغرور ہو گیا ہے۔ اس میں کئی سقم ہیں۔ اول تو یہ کہ معشوق کو اس بات کا غرور کیوں ہو کہ اس کا عاشق (یعنی متکلم) وفادار ہے؟ عاشق کی وفا پر مغرور ہونا غرور کے معشوق کی رسمیات میں نہیں۔ معشوق کو اس بات کا غرور تو ہو سکتا ہے کہ اس کے عاشق بہت سے ہیں۔ لیکن عاشق کی وفاداری یا جفاکشی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ معشوق کی بلا سے، کوئی مرے یا جیے، یا سچا وفادار عاشق ہو۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ اس مفہوم کی رو سے مصرعین کا ربط بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ 'رگ گردن' کے معنی ہیں 'غرور'۔ لہذا مصرع اولیٰ کے معنی ہوئے: "رشتہ الفت کے (موجب) غرور بن جانے کا خطر ہے"۔ ظاہر ہے کہ دوسرے مصرعے میں 'غرور دوستی' اور مصرع اولیٰ میں 'رشتہ الفت' ایک ہی شے ہیں۔ 'غرور دوستی' سے طباطبائی اور حسرت نے مراد لیا ہے، معشوق کا غرور، کہ اس کا عاشق بہت وفادار ہے۔ اگر ایسا ہے تو 'رشتہ الفت' کا غرور میں بدلنا بے معنی ہے کیوں کہ عاشق اور معشوق کے مابین رشتہ الفت تو ہے نہیں۔ معشوق کا عاشق سے کوئی رشتہ نہیں، معشوق کو صرف غرور ہے (ہاں عاشق کو معشوق سے رشتہ الفت ہو سکتا ہے)۔ لہذا اگر معشوق رشتہ الفت میں بندھا ہوا نہیں ہے، تو دونوں مصرعوں میں ربط باقی نہیں رہتا، جب تک ہم یہ بھی فرض نہ کریں کہ معشوق کو عاشق کی وفاداری پر جو غرور ہے وہ آئندہ

چل کر الفت میں بدل جائے گا۔ اور یہ فرض کرنے میں بھی کئی قباحتیں ہیں۔ شعر میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس کی بنا پر ہم یہ فرض کر سکیں کہ معشوق کا غرور مبدل بہ الفت ہو جائے گا۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ 'غرور' اور 'رگ گردن' ایک ہی چیز ہے، لہذا ان میں سے ایک فاضل معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ غرور دوستی آفت ہے، خطر ہے کہ کہیں رشتہ الفت غرور نہ بن جائے، بات کو ضرورت سے زیادہ پھیلا کر بیان کرنا ہے۔ یہ کہنا کافی تھا کہ رشتہ الفت کے رگ گردن بن جانے میں تیری دشمنی کا خطرہ ہے۔ لہذا اس شعر کے معنی وہی بہتر ہیں جو بیخود موبہانی نے بیان کیے ہیں: میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں تیری محبت کے رشتے میں بندھا ہوا ہوں۔ تجھ سے محبت کر کے میں مغرور ہو گیا ہوں۔ ایسا نہ ہو اس غرور کی سزا مجھے یہ ملے کہ تو میرا دشمن ہو جائے۔

مولانا طباطبائی نے لفظ 'خطر' پر بڑی سخت تقریر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مصرع اولیٰ میں 'یہ' کا حذف بلاشبہ برا معلوم ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ غالب نے پہلے یہ ڈرے لکھا ہوگا۔ لیکن انھوں نے بعد میں خیال کیا ہوگا کہ 'یہ' کی ہائے ہوز کا گرنا خالی از ثقل نہیں، اس لیے 'یہ' ڈرے کو بدل کر 'خطر' ہے کر دیا۔ طباطبائی مزید لکھتے ہیں کہ "گو اس 'ہ' کا گرنا درست ہے، مگر خالی از ثقل نہیں، خصوصاً ابتدائے کلام میں۔" لفظ 'یہ' کی ہائے ہوز کا گرنا (یا دینا) خالی از ثقل نہیں، یہ بیان بالکل مہمل ہے۔ ابتدائے کلام ہو یا اور کوئی مقام، 'یہ' کی ہائے ہوز ساقط کر دینے میں کوئی عیب نہیں۔ خود غالب اور میر کے یہاں اس کی درجنوں مثالیں ہیں، ان سے پہلے والوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے:

غالب : یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے  
ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو  
میر : یہ سنا تھا میر ہم نے کہ فسانہ خواب لا ہے  
تری سرگذشت سن کر گئے اور خواب یاراں

تعب ہے کہ بیخود موبہانی نے طباطبائی کے اس اعتراض برائے اعتراض کا جواب نہ دیا۔ طباطبائی کے دوسرے اعتراض (یعنی 'یہ خطر ہے' کی جگہ 'خطر ہے' لکھنا) کے بارے میں

وہ کہتے ہیں کہ محاورہ یوں ہی ہے، مثلاً ہم کہتے ہیں: "خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو"۔ پھر بیخود یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 'یہ' مقدر ہے تو قرینہ اس پر شاہد ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ طباطبائی کی ایراد اور بیخود موبہانی کا جواب، دونوں غلط ہیں۔ دونوں حضرات 'خطر' اور 'خطرہ' کو ہم معنی سمجھ رہے ہیں۔ حالاں کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ 'خطرہ' کے تین معنی ہیں (۱) Danger مثلاً "وہاں نہ جائے، وہاں خطرہ ہے"۔ (۲) Fear مثلاً "مجھے جان کا خطرہ تھا، اس لیے میں وہاں نہ ٹھہرا"۔ (۳) Risk مثلاً "میں کسی انجانے شخص کے ساتھ مل کر تجارت کرنے کا خطرہ نہیں قبول کر سکتا"۔ اس کے برخلاف 'خطر' کے صرف دو معنی ہیں (۱) Danger اور (۲) Risk، یعنی 'خطر' کے معنی 'ڈر' ہیں ہی نہیں۔ مراد صرف یہ ہے کہ اس بات کا خطرہ (Danger) ہے کہ رشتہ الفت مبدل بہ رگ گردن ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ 'خطرہ' کے پہلے لفظ 'یہ' غیر ضروری ہے، لہذا اعتراض ناواجب ہے۔

اب 'رگ گردن' پر غور کیجیے۔ یہ استعارہ / محاورہ ہے، معنی ہیں 'غرور'۔ لغوی معنی کے اعتبار سے رشتہ اور 'رگ' میں رعایت ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ رشتہ الفت (غرور کے باعث) گردن کا پھندا بن سکتا ہے۔ یعنی رشتہ الفت مبدل بہ غرور ہوا، اور اس کی بنا پر تیری دشمنی ہم نے مول لی اور یہ رشتہ ہماری گردن کا پھندا بن گیا۔ استعارے کو لغوی معنی میں استعمال کرنا اور استعاراتی معنی بھی قائم رکھنا، یہ غالب اور میر کا خاص انداز ہے۔

(۱۳۵)

ہے کشاد خاطر وابستہ در رہن سخن  
تھا طلسم قفل ابجد خانہ مکتب مجھے

(زمانہ تحریر: ۱۸۱۲ء)

متداول شروع کا ما حاصل یہ ہے کہ میری خاطر وابستہ کا کھلنا (یعنی میرے دل کی رنجیدگی اور افسردگی کا دور ہونا) سخن (بہتسی کلام، شاعری، یا گفتگو) پر موقوف ہے۔ کیوں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ قفل ابجد اسی وقت کھلتا ہے، جب بات بنتی ہے تو میں نے سمجھ لیا کہ میرا دل بھی (جو قفل کی طرح بند ہے) اسی وقت کھل سکتا ہے جب میں محو کلام ہوں۔ لہذا طلسم قفل ابجد میرے لیے مکتب کی طرح سبق آموز نکلا۔

یہ شرح اپنی جگہ پر مکمل ہے۔ اگرچہ اس میں لفظ 'طلسم' کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی ہے، لیکن شعر کی وضاحت میں یہ شرح کامیاب ہے۔

جوشِ مسلیانی نے یہ نکتہ نکالا ہے کہ 'خانہ مکتب' مبتدا ہے۔ یعنی مصرعے کی نثر یوں ہوگی: "خانہ مکتب مجھے (یعنی میرے لیے) طلسم قفل ابجد تھا"۔ لیکن جو شرح انھوں نے بیان کی ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ "قفل ابجد کا طلسم میرے لیے مکتب تھا"۔ بہر حال 'خانہ مکتب' کو مبتدا قرار دینے سے متداول مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غلام رسول مہر نے بھی 'خانہ مکتب' کو مبتدا بتایا ہے، لیکن زیادہ تر شراح کی طرح انھوں نے بھی لفظ 'طلسم' کی کوئی شرح نہیں کی ہے۔ طباطبائی نے خدا معلوم کس بنیاد پر 'طلسم' کو 'کارخانہ' بتایا ہے اور لکھا ہے کہ مکتب میرے لیے قفل ابجد بنانے کا کارخانہ تھا۔ (تجرب ہے بیخود موبانی نے اس مہمل شرح پر کوئی گرفت نہ کی)۔

شعر میں ایک بہت دل چسپ نکتہ ہے جس کی طرف شوکت میرٹھی نے ہلکا سا

اشارہ کیا ہے۔ افسوس کہ وہ اسے دور تک نہ لے گئے۔ 'در رہن سخن' کے معنی 'سخن کے پاس گرد ہونا، لہذا سخن پر موقوف و منحصر ہونا' بالکل درست ہیں۔ لیکن اس فقرے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے: "سخن کے بدلے میں گرد ہونا" کیوں کہ 'رہن' کے معنی 'گرد' اور 'گرد کرنا' دونوں ہوتے ہیں ('منتخب اللغات')۔ لہذا مصرع اولیٰ کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کشاد خاطر وابستہ کو رہن رکھ کر سخن کو حاصل کیا ہے۔ یعنی شاعری ہمیں تب حاصل ہوئی ہے جب ہم نے کشاد خاطر وابستہ کو اور طمانیت قلب کو قربان کیا ہے۔ یعنی شاعری کی وجہ سے ہمیں ذہنی کوفت اور دل گرگی حاصل ہوئی ہے۔

اب مصرع ثانی کا مفہوم یہ ہوا کہ خانہ مکتب میرے لیے ایک طلسم قفل ابجد تھا۔ یعنی مکتب میں حرف و سخن تو تھے، لیکن وہ قفل ابجد کی طرح تھے اور قفل ابجد طلسم کی طرح ہوتا ہے، کہ وہ ہر شخص سے نہیں کھل سکتا۔ اس کے لیے قفاح طلسم درکار ہوتا ہے۔ لہذا وہ حرف و سخن جو میں نے مکتب میں حاصل کیے، ان سے کشاد خاطر نہ ہو سکی۔ میں قفل ابجد کے طلسم کا قفاح نہ بن سکا۔ قفل ابجد کھلتا تو بات بنتی۔ ایسا نہ ہو سکا اور اب میں شاعری کر کے، یعنی حرف و سخن کا استعمال کر کے، اپنے علم کا اظہار کر رہا ہوں۔ یعنی جو چیز مجھے حاصل نہ ہوئی، اسی کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس کی قیمت مجھے یہ دینی پڑ رہی ہے کہ میں نے کشاد خاطر سے ہاتھ دھولیا ہے۔ مکتب میرے لیے کار آمد نہ ہوا، کیوں کہ وہ حرفوں کے تالے کے طلسم کی طرح تھا جو مجھ سے نہ کھل سکا۔ مکتب میں جو علم حاصل ہوا، شاعری کی بنیاد وہی علم ہے، لیکن چون کہ اس علم سے کشادہ خاطر کی اور انشراح قلب حاصل نہ ہو سکا تھا، اس لیے شاعری بھی کشادہ خاطر کی ضد ہے۔ شاعری کر کے بھی دل گرگی حاصل ہوتی ہے۔

سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ قفل ابجد کا طلسم کیوں نہ کھل سکا اور علم حاصل کر کے مجھے کشادہ خاطر کیوں نہ نصیب ہوئی۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دنیاوی اور عقلی علوم جو مکتب میں ہمیں سکھائے جاتے ہیں، وہ کائنات کو سمجھنے میں ہماری مدد نہیں کرتے، ان سے ہمیں عرفان نہیں حاصل ہوتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ علم حاصل کر کے شاعری کرنا سیکھا، لیکن شاعری اظہار مطلب میں ناکام رہی، جیسا کہ غالب نے اور جگہ کہا ہے:

فکر سخن یک انشا زندانی خموشی

دود چراغ گویا زنجیر بے صدا ہے

ظاہر ہے کہ شاعری جب اظہار مطلب میں ناکام ہو تو اس کا نتیجہ دل گرفتگی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟

آخری سوال یہ ہے کہ قفل ابجد کے لیے طلسم کی صفت کیوں استعمال کی؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ طلسم اسی وقت کھلتا ہے جب قناع طلسم ہو اور اس کے پاس وہ لوح بھی ہو جس پر طلسم کو کھولنے والے اسمائے تبرک لکھے رہتے ہیں۔ قفل ابجد بھی اسی وقت کھلتا ہے جب وہ حروف و الفاظ موجود ہوں جن کی ترتیب سے قفل کی کلید بنتی ہے۔ لہذا طلسم اور حرفوں کے تالے میں مناسبت ظاہر ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ 'طلسم' کے ایک معنی 'کوئی خفیہ کل' یعنی Secret mechanism بھی ہوتے ہیں (اسٹیمنگاس)۔ 'شمس اللغات' میں 'طلسم' کے معنی لکھے ہیں: 'حکمت ساختن در چیزے، یعنی کسی چیز میں کوئی حکمت رکھ دینا۔ ان تعریفوں کی روشنی میں طلسم اور قفل ابجد (جس میں خفیہ کل ہوتی ہے اور جو حکمت سے بنایا جاتا ہے) کی مناسبت ظاہر ہو جاتی ہے۔

یہ بات صحیح ہے کہ متداول شروع کی روشنی میں 'قفل ابجد' کا مفہوم بالکل سامنے کی چیز معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ اس مشہور شعر میں ہے:

تجھ سے قسمت میں مری صورت قفل ابجد

تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا

لیکن شعر کا کمال یہ ہے کہ اوپر جو معنی میں نے بیان کیے ہیں اور شوکت میرٹھی نے بھی جن کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ متداول معنی کی ضد ہیں، لیکن ان کی بھی گنجائش شعر میں ہے۔

'دُر' کا لفظ بھی کمال کا ہے، کیوں کہ یہ کشادہ، وابستہ، قفل اور خانہ کے ضلع کا لفظ ہے اور ان سب الفاظ میں مراعات الظہیر تو ہے ہی، غیر معمولی شعر کہا ہے۔

(۱۳۶)

کرے ہے بادہ ترے لب سے کسب رنگ فروغ  
خط پیالہ سراسر نگاہ گلچیس ہے

(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

طباطبائی نے حسب معمول 'سراسر' پر گرفت کی ہے کہ یہ براے بیت ہے۔ بیخود موبہانی نے حسب معمول دفاع کیا ہے کہ 'سراسر' تاکید کے بھی معنی دیتا ہے۔ بیخود کی بات درست ہے۔ لیکن شعر میں کئی پیچیدگیاں ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا مہر کی شرح ملاحظہ ہو: "اے محبوب! شراب تیرے لب لعلیں سے فروغ کا رنگ حاصل کر رہی ہے۔ یعنی تیرے لب کی بدولت اس میں وہ تمام ظاہری اور معنوی خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں جو شراب کے لیے خاص مانی جاتی ہیں۔ اور پیالے میں پیمائش کے لیے جو خط لگا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ ابتدا سے انتہا تک پھول چننے والے کی نگاہ بن گیا ہے۔" شاید مولانا مہر کو بھی اس شرح کی مہملیت کا دھندلا سا احساس تھا، کیوں کہ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں: "مطلب یہ کہ پیالہ تیرے لبوں سے چھوتے ہی شراب نے اتنا رنگ حاصل کر لیا، معلوم ہو رہا تھا، پیالے کے اندر پھلوانی مہیا ہو گئی ہے اور خط پیالہ نے پھول چننے شروع کر دیے۔" اب یہ الگ بات ہے کہ شرح کی شرح نہ صرف مہمل تر ہے بلکہ شرح اور شرح شرح میں کوئی ربط بھی نہیں ہے۔ شراب کا رنگ فروغ حاصل کرنا ایک بات ہے اور خط پیالہ کا نگاہ گلچیس ہونا ایک بات۔ شرح کی رو سے دونوں میں کوئی ربط نہیں قائم ہوتا۔ شرح شرح میں دونوں باتوں کی تعبیر بھی غلط ہے اور ربط کا پھر بھی پتا نہیں۔ شراب نے رنگ حاصل کر لیا، اس سے یہ مطلب کس طرح نکلا کہ پیالے کے اندر پھلوانی بن گئی؟ اور اگر پھلوانی بن بھی گئی تو خط پیالہ کس طرح پھول چتا ہے؟ شرح

میں 'رنگ فروغ' کے معنی یہ بیان کیے گئے کہ شراب نے وہ تمام ظاہری اور معنوی خوبیاں حاصل کر لیں جو شراب کے لیے خاص مانی جاتی ہیں۔ اور بعد میں یہ معنی بیان کیے کہ شراب نے اتنا رنگ حاصل کر لیا گویا گلستاں کھل گیا۔ شروع والے معنی میں قیاحت یہ ہے کہ مصرعے کا رشتہ دوسرے مصرعے سے قائم نہیں ہوتا۔ بعد والے معنی میں گڑبڑ یہ ہے کہ وہ لفظ 'فروغ' کو نظر انداز کر کے حاصل ہوتے ہیں۔

مشکل یہ ہے کہ تقریباً تمام ہی شراح نے کم و بیش یہی معنی بیان کیے ہیں۔ صرف حسرت موبانی کے یہاں اس ستمی کو حل کرنے کی کچھ کوشش نظر آتی ہے۔ حسرت کہتے ہیں: "شراب تیرے لب سے کب رنگ کرتی ہے۔ پس گویا وہ گل چھیں ٹھہرا اور خط ساغر نگاہ کھنچے۔" لیکن یہاں بھی وہی گڑبڑ ہے کہ شعر میں کب رنگ کا نہیں بلکہ کب رنگ فروغ کا ذکر ہے۔ لہذا بات بنتی نہیں۔

'بادہ' کے دو معنی ہیں: (۱) شراب اور (۲) شراب کا پیالہ۔ 'رنگ' کے کئی معنی ہیں۔ ان میں سے حسب ذیل ہمارے کام کے ہیں: (۱) حصہ، نصیب (۲) زور اور قوت (۳) طرز، روش، سیرت۔ اب 'فروغ' کو لیجیے۔ عربی میں اس کے معنی ہیں 'کسی کام سے فارغ ہونا' اور فارسی میں (۱) شان، چمک دک (۲) چمکیلا پن (۳) روشنی (۴) شعلہ۔ ان معنی کی روشنی میں شعر پر غور کیجیے تو دو معنی بنتے ہیں۔ 'بادہ' کو اگر 'پیالہ' قرار دیجیے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ شراب کا پیالہ جب تیرے لب تک پہنچتا ہے تو روشنی یا شعلے کی سیرت حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی تیرے ہونٹوں کی سرخی جب پیالے میں منعکس ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیالہ نہیں بلکہ شعلہ ہے۔ جام شراب کو آنکھ سے تشبیہ دیتے ہی ہیں اور پھول کو شعلہ یا چراغ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لہذا دوسرے مصرعے کے معنی یہ ہوئے کہ جام شراب تو تیرے لب تک پہنچ کر روشن ہو گیا، گویا چراغ بن گیا۔ یعنی دیدہ ساغر روشن ہو گیا۔ اس بنا پر وہ گل چھیں کا کام کر رہا ہے، کیوں کہ گل چھیں بھی اپنے دامن کو چراغ گل سے روشن کرتا ہے اور اگر پیالہ گل چھیں ہے تو خط پیالہ یقیناً نگاہ گل چھیں کھلائے گا۔ اس وجہ سے بھی کہ نگاہ بھی ایک خط کی طرح فرض کی جاتی ہے اور اس لیے بھی کہ خط پیالہ جام شراب کی روشنی سے روشن ہو گیا ہے جس طرح نگاہ روشن ہوتی ہے۔ ایک اور رخ سے دیکھیں تو پیالے کو گل چھیں فرض کرنا بھی ضروری نہیں۔ بس یہ کہنا کافی ہے کہ تیرے

لیوں کی رنگینی سے جام شراب روشن ہو گیا ہے اور خط پیالہ مثل نگاہ گل چھیں رنگ سے بھر پور ہو گیا ہے۔

اگر 'بادہ' بمعنی شراب قرار دیں تو معنی یہ بنتے ہیں کہ جب شراب تیرے ہونٹوں تک پہنچتی ہے تو ہونٹوں کی سرخی کی بنا پر خود بھی روشنی یا شعلے کا انداز حاصل کر لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شراب روشن ہوگی تو خط جام بھی روشن ہوگا اور اس روشنی کی بنا پر خط جام اسی طرح روشن ہے جس طرح نگاہ گل چھیں فروغ گل سے روشن ہوتی ہے۔ یہاں گلستاں تو نہیں ہے، لیکن تیرے لیوں کا فیض ہے کہ خط جام کو نگاہ گل چھیں سا لطف حاصل ہو رہا ہے۔ شراب کو شعلہ کر دینا اور خط جام کو نگاہ کی طرح روشن کر دینا معشوق کا کرشمہ ہے۔

مناسبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معشوق کے ہونٹ اور شراب دونوں کو پھول کہا جاتا ہے اور پھول کو شعلے یا چراغ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں شراب یا جام کو لب معشوق تک رسائی حاصل ہے، خط جام اس کو دور ہی سے تکتا رہتا ہے۔ اس لیے خط جام میں نگاہ کی صفت ہے۔

لہذا دونوں مصرعوں میں 'یہ' اس لیے وہ 'کاربط نہیں، بلکہ 'یہ بھی اور وہ بھی' کا ربط ہے۔ ممکن ہے غالب نے میرزا جلال اسیر کے خیال سے کچھ استفادہ کیا ہو، اس نے معشوق کے رنگ اور رنگ شراب کے باہم رد عمل پر معرکہ آرا مطلع کہا ہے:

پیالہ رنگ دگر زد رخ فرنگ ترا

شراب روغن گل شد چراغ رنگ ترا

برجستگی اور روانی کے اعتبار سے جلال اسیر کا شعر بڑھا ہوا ہے، لیکن تخیل کی نزاکت اور استعارے کی تہ داری کی بنا پر غالب کا شعر جلال اسیر سے بہت آگے ہے۔

ایسا ہے بھی تو یہ کیوں فرض کریں کہ آئینہ معشوق کو ملامت کرتا ہے؟ غرض کہ اس شرح میں جھگڑے ہی جھگڑے ہیں۔

طباطبائی نے لفظ 'داغ' کو نظر انداز کیا ہے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ "مطلب بھی اچھی طرح ادا نہیں ہوتا"۔ علامہ سہا مجددی کہتے ہیں کہ "خدا جانے وعدہ خلائی کا دھبہ کیسے دھلے گا..... وعدہ خلائی کا داغ آئینے کے سامنے اور زیادہ نمایاں ہو جانا چاہیے"۔ یہاں لفظ 'داغ' تو ہے، لیکن لفظ 'طعن' کا دامن چھوٹ گیا اور نہ یہ ظاہر ہوا کہ وعدہ خلائی کی وجہ کیا ہے؟ بیخود موبہانی کہتے ہیں: "مجھے حیرت ہے کہ بدعہدی کا دھبہ تیرے دامن اخلاق سے کیوں کر چھوٹے گا یعنی جو اتنا باحیا ہو کہ آئینہ دیکھتے ہوئے شرمائے، اس سے بدعہدی کیوں کر کی جائے گی؟" یہاں گڑبڑ یہ ہے کہ جب معشوق بدعہدی کرے گا ہی نہیں تو اس کا دھبہ چھوٹنے نہ چھوٹنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ 'داغ' کا لفظ پھر محتاج شرح رہ گیا، اور یہ بات بھی نظر انداز ہو گئی کہ شعر میں طعن بدعہدی کے داغ کی بات ہو رہی ہے نہ کہ بدعہدی کے داغ کی۔ یعنی بدعہدی کا واقع ہونا نہ ہونا زیر بحث ہی نہیں ہے۔ کہا صرف یہ گیا ہے کہ اگر کسی نے بدعہدی کا طعنہ دیا تو خدا معلوم اس طعنے کا داغ کیوں کر مٹے گا۔

اب از سر نو شعر پر غور کرتے ہیں۔ 'تجھے کہ سے لوگوں نے تجھے تو، یعنی تجھ کو تو' مراد لیا ہے، لیکن اس کے معنی 'تیری نظر میں'، 'تیرے نزدیک' بھی ہو سکتے ہیں۔ غالب ہی کا شعر ہے:

خاک فرصت بر سر ذوق فنا اے انتظار

ہے غبارِ شیبہ ساعتِ رم آہو مجھے

چوں کہ مصرعے میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ بدعہدی کا طعنہ معشوق کو دیا جائے گا یا دنیا جا رہا ہے، اس لیے ہم فرض کر سکتے ہیں کہ طعنے کا ہدف معشوق نہیں بلکہ عاشق ہے۔ اب 'تجھے کہ' بمعنی 'تیرے نزدیک'، 'تیری نظر میں' کی روشنی میں شعر کے حسب ذیل مفہوم ہو سکتے ہیں:

معشوق کی نظر میں آئینہ درطہ ملامت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آئینے کی آب (بمعنی چمک) کی رعایت سے آئینے کو دریا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آئینے کے جو ہر دائرے

(۱۳۷)

نہ جانوں کیوں کہ مٹے داغ طعن بدعہدی  
تجھے کہ آئینہ بھی ورطہ ملامت ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

طویل غور و فکر کے باوجود اس شعر کے معنی مجھ پر پوری طرح روشن نہیں ہوئے۔ مختلف فاضل شراح نے جو لکھا ہے اس سے الجھن اور بڑھتی ہے، کھتی نہیں۔ مثلاً حسرت موبہانی کہتے ہیں: "خدا جانے بدعہدی کا نشان کب مٹے گا۔ یعنی تو لاکھ آرائش و زیبائش کرے مگر اس داغ بدعہدی کے ہوتے ہوئے جب تو آرائش کے لیے آئینہ دیکھتا ہے تو وہ بھی تیرے لیے ورطہ ملامت بن جاتا ہے۔ آئینے کی تشبیہ ورطے سے ظاہر ہے اور آرائش چوں کہ اغیار کے دکھلانے کے لیے کی جاتی ہے اس لیے اس سے بدعہدی لازم ہے"۔

اس شرح میں متعدد قباحتیں ہیں۔ 'داغ' کے معنی 'نشان' لیے گئے ہیں اور لفظ 'طعن' کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اگر 'طعن' کو نیزے کے دار یا نیزے کی چوٹ کے معنی میں لیا جائے تو نشان کا جواز بنتا ہے۔ لیکن پھر بدعہدی کو نیزے کی چوٹ ماننا پڑے گا۔ اس سے بات پھر بگڑ جاتی ہے۔ ('نیزے کی چوٹ' یوں بھی مخدوش معنی ہیں، 'طعن' دراصل نیزہ زنی کو کہتے ہیں)۔ پھر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ آرائش و زیبائش سے یہ توقع ہی کیوں کی جائے کہ اس کے ذریعے بدعہدی کا نشان مٹ جائے گا، خاص کر جب ابھی بدعہدی کا داغ لگا بھی نہیں ہے؟ حسرت خود ہی کہہ چکے ہیں کہ آرائش سے بدعہدی لازم ہے۔ یعنی پہلے آرائش ہوئی، پھر بدعہدی کا الزام آیا، پھر یہ بھی کیا ضروری ہے کہ لفظ 'آئینہ' سے آئینہ دیکھنا اور وہ بھی آرائش ہی کے لیے آئینہ دیکھنا مراد لیا جائے؟ اور اگر

کی شکل کے ہوتے ہیں۔ اس لیے آئینے کی آب کی مناسبت سے ان جوہری دائروں کو بھنور کہا جاسکتا ہے۔ ملامت کو اکثر ورطہ کہتے ہیں، کیوں کہ جس طرح بھنور میں پھنس کر نکلنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح ملامت بھی چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ 'ورطہ ملامت' مشہور ترکیب ہے۔ لہذا معشوق کی نظر میں آئینہ بنی کا فعل ایسا ہے کہ وہ آئینہ دیکھنے والے کو ملامت میں مبتلا کر دیتا ہے، کیوں کہ آئینہ اسباب خود بینی میں سے ہے اور خود بینی عیب ہے۔ ماہصل یہ نکلا کہ معشوق حد درجہ سخت گیر اور پاکباز ہے۔ اب اگر کوئی شخص مجھ کو کسی وجہ سے بدعہدی کا طعنہ دے (مثلاً کوئی یہ کہے کہ تم سچے عاشق نہیں ہو، کیوں کہ تم اب تک زندہ ہو) تو یہ طعنہ چاہے جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن سخت گیر معشوق کی نظر میں یہ میرے کردار پر ایک داغ ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ پھر یہ داغ میرے دامن سے کس طرح چھٹے گا، کیوں کہ معشوق تو حد درجہ سخت گیر ہے۔ وہ تو اپنے عاشق سے ایسے کردار کی توقع کرتا ہے جو بہ ہمہ وجہ بے داغ ہو۔ اگر کسی نے مجھ پر بدعہدی کا اتہام بھی لگا دیا تو میں معشوق کی نظر میں تاعمر داغ دار رہوں گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بدعہدی کے طعنے کو معشوق کے ہی لیے فرض کیجیے۔ مصرع ثانی کا مفہوم وہی رکھیے جو میں نے اوپر بیان کیا ہے، یعنی معشوق اس درجہ سخت گیر و پاکباز ہے کہ وہ آئینہ دیکھنا بھی عیب سمجھتا ہے۔ اب 'داغ' بمعنی 'غم' فرض کیجیے، جیسا کہ میر کے شعر میں ہے:

گریے پہ رنگ آیا قید قفس سے شاید

خوں ہو گیا جگر میں اب داغ گلستاں کا

لہذا 'داغ طعن بدعہدی' کے معنی ہوئے 'بدعہدی کے طعنے کا غم'۔ یعنی معشوق کو کسی نے بدعہدی کا طعنہ دیا۔ طعنہ اگرچہ جھوٹا تھا، لیکن اس کا غم تو ہوا ہی کہ مجھے ایسا طعنہ دیا گیا۔ مشکل حیرت اور رنج میں ہے کہ وہ معشوق جس کو آئینہ بھی دیکھنے سے عار ہے، اس داغ کو کیوں کر مٹا سکے گا؟ اب 'داغ' کے دونوں معنی کارآمد ہو گئے (۱) وہ معشوق جو آئینہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس بات کا بہت غم کرے گا کہ اسے بدعہدی کا طعنہ دیا گیا۔ طعنہ جتنا جھوٹا ہوگا اتنا ہی اس کا غم بھی ہوگا۔ طعنہ بالکل (مطلق) جھوٹا ہے، اس لیے معشوق کو غم بھی مطلق ہوگا، یعنی ایسا غم جو کبھی نہ مٹ سکے گا۔ (۲) 'داغ' بمعنی 'نشان' کو مٹانے

کے لیے آئینہ دیکھتے ہیں، خاص کر اگر داغ چہرے پر ہو، یا سینے پر ہو جہاں نظر عام طور پر نہیں پہنچتی۔ لیکن جب معشوق آئینہ دیکھتا ہی نہیں تو وہ داغ کو کس طرح مٹا سکے گا۔

مندرجہ بالا دو شرح میں سے دوسری شرح دل کو زیادہ لگتی ہے۔ پہلی کچھ دور از کار ہے اور دونوں ہی میں یہ قباحت ہے کہ آئینہ بطور ورطہ ملامت کا پورا جواز شعر سے نہیں مہیا ہوتا۔ لیکن اب تک چتنی شرحیں اس شعر کی میں نے دیکھی ہیں، وہ ان دونوں سے بھی کم مطمئن کرتی ہیں۔ میری دوسری شرح شعر کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے اور 'داغ' کو بطور استعارہ استعمال کرنا اور اس کے لغوی معنی بھی کارآمد رہنے دینے والا نکتہ خاص میر اور غالب کے ڈھنگ کا ہے۔ لہذا میں اپنی دوسری شرح کو مرتجح سمجھتا ہوں۔



(۱۳۸)

عرض ناز شوخی دنداں برائے خندہ ہے  
دعویٰ جمعیت احباب جاے خندہ ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

طباطبائی لکھتے ہیں: ”توالی اضافات اور رکیک تکلفات اس شعر میں بھرے ہوئے ہیں۔ شوخی دنداں، نہایت مکروہ لفظ ہے۔ مصنف کی شوخی طبیعت نے ’خوبی‘ کو سامنے کا لفظ سمجھ کر چھوڑ دیا، ورنہ وہ بہتر تھا۔“

توالی اضافات (یعنی دو سے زیادہ اضافتیں استعمال کرنا) کو انیسویں صدی کے آخری زمانے میں بعض لکھنوی اساتذہ نے قبیح قرار دیا ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے بجز اس کے کہ یہ نخل فصاحت ہے۔ ظاہر ہے کہ فصاحت کا معیار شعرا کا طرز ہے، لہذا شعرا ہی کے طرز کو فصاحت کے معیار سے گرا ہوا قرار دینا غیر منطقی بات ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو زبان کے جوہر کے مطابق ہو، نخل فصاحت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسرۃ اضافت کا استعمال یا فارسی تراکیب کا استعمال اردو زبان کے جوہر کے خلاف پڑتا تو زبان اسے کبھی اختیار نہ کرتی۔ عربی کی اضافت جو الف لام لگا کر بنتی ہے، چند مقررہ فقروں کے علاوہ اردو میں رائج نہ ہو سکی۔ جب کہ فارسی اضافت رائج ہو گئی۔ وجہ ظاہر ہے الف لام والی اضافت ہماری زبان کے مزاج سے متعارف ہے اور کسرۃ والی اضافت اس کے موافق ہے۔

توالی اضافات کو عیب قرار دینے کی دوسری وجہ یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ ایرانی یا فارسی شعرا نے اسے مکروہ ٹھہرایا ہے۔ یہ خیال بھی غلط ہے۔ حافظ کا کلام معراج فصاحت سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے یہاں توالی اضافات بہت کثرت سے ہے۔ لہذا فارسی

مرکبات کو متوالی استعمال کرنا کوئی عیب نہیں۔

طباطبائی نے ان ’رکیک تکلفات‘ کی بھی کوئی مثال نہیں دی ہے جن سے یہ شعر ’بھرا ہوا ہے‘۔ مثال کی عدم موجودگی میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہاں طباطبائی کی سخن چینی سے زیادہ ان کا تعصب کارفرما ہے۔ بہر حال، طباطبائی کا بظاہر سب سے زیادہ وزنی اعتراض ’شوخی دنداں‘ پر ہے۔ اس فقرے کو وہ ’نہایت مکروہ‘ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غالب نے شوخی طبیعت کی بنا پر ’خوبی دنداں‘ نہ لکھا، ورنہ مناسب وہی تھا۔ طباطبائی شاید بھول گئے تھے کہ دنداں کو برقی سے تشبیہ دیتے ہیں اور برقی کی ایک صفت شوخی بھی ہے۔ بیخود موبائی کو اس بات کا دھندلا سا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے لکھا کہ ”ہنسی کے وقت آبدار دانتوں سے چھوٹ پڑتی ہے، بجلی سی کوندھ جاتی ہے۔“ لیکن بیخود نے بھی تشبیہ کی بنیادی وجہ نہ بتائی اور نہ یہ بتایا کہ ’شوخی‘ کے ایک معنی ’خوب صورت‘ بھی ہوتے ہیں (دبجد اور اسٹینگاس)۔ لہذا ’شوخی دنداں‘ نہ صرف صحیح ہے بلکہ مکروہ ہونے کے بجائے مستحسن اور تازہ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ شعر میں معنی بہت نہیں ہیں۔ اور اگر طباطبائی کی ناراضگی دراصل اس بنا پر تھی تو ایک حد تک حق بجانب تھی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ شعر میں معنی کا قحط ہے۔ لفظ ’ناز‘ پر غور کیجیے۔ اس کے اصل معنی ہیں ’معشوق کا وہ استغنا جس کے ذریعے وہ عاشق کے شوق کو مزید برانگیخت کرتا ہے (برہان قاطع)۔ یعنی ناز محض غرور یا عدم التفات نہیں بلکہ یہ وہ ادا ہے جس میں غرور اور عدم التفات دکھا کر آتش شوق کو تیز تر کرتے ہیں۔ ’ناز‘ کے دوسرے معنی ’نفاست، خوشنمائی‘ (اسٹینگاس) اور ’کشش عاشق‘ (’شمس اللغات‘) بھی ہمارے مفید مطلب ہیں۔ اب پہلے مصرعے کا مفہوم یہ نکلا کہ دانتوں کی خوب صورتی جب ناز کا اظہار کرتی ہے تو اس لیے کہ لوگ خوش ہوں۔ یعنی معشوق کو مسکراتے دیکھ کر لوگ بھی مسکرائیں اور ان کے دل میں معشوق کے لیے مزید کشش پیدا ہو۔ یعنی معشوق جب انداز استغنا کے ساتھ مسکراتا ہے تو بھی لوگ خوشی سے ہنس دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ناز خالی از علت نہیں بلکہ ہمارے لیے ہے۔

دوسرے مصرعے میں بظاہر غیر متعلق بات کہی گئی ہے کہ اگر دعویٰ کیا جائے کہ دوستوں میں جمعیت (یعنی یگانگت) ہے تو یہ محض ہنسی کی بات ہے، قابل اعتبار نہیں۔

معشوق کی ہنسی سب کے لیے ناز کا سامان پیدا کرتی ہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ ہنسی میرے لیے ہے۔ ایسی صورت میں یہ دعویٰ کرنا کہ سب دوست یک دل اور مجتمع ہیں، محض لغو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔

تقریباً تمام شراب نے لکھا ہے کہ دانتوں کو جمعیت احباب سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لہذا شعر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دانت آخر کار ہل کر الگ ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں اسی طرح دوست بھی آخر کار درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ لہذا معشوق اپنے دانتوں کی نمائش کر کے بتاتا ہے کہ جس طرح یہ دانت عارضی ہیں، اسی طرح مجمع احباب بھی عارضی ہے۔ اس شرح میں کئی کمزوریاں ہیں۔ دانتوں کو جمعیت احباب سے تشبیہ دینا میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی تو معشوق خود اپنے حسین دانتوں کو عارضی بتائے اور اپنی ہنسی کے ذریعے اخلاقی سبق پڑھائے، یہ غزل کے مزاج سے متعارف ہے۔ ہاں اگر معرض ناز شوخی دندان کو براہ راست معشوق سے متعلق نہ کیا جائے بلکہ ہنسی کے بارے میں ایک عام بیان سمجھا جائے، تو یہ مشکل رفع ہو سکتی ہے۔ حسرت موہانی نے جملہ اور سہا مجددی نے وضاحتاً ایسا ہی کیا ہے۔ بحیثیت مجموعی علامہ سہا کی شرح قابل قبول ہے، لیکن جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے، وہ شعر کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیتا ہے۔

(۱۳۹)

ہے عدم میں غنچہ محو عبرت انجام گل  
یک جہاں زانو تامل در قفائے خندہ ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

شعر کا مفہوم بالکل صاف ہے۔ تقریباً سب شارحین متفق بھی ہیں۔ غنچہ کھلنے یا وجود میں آنے کے پہلے انجام گل کی عبرت تا کی پر غور و فکر میں محو ہے۔ ذرا اسی ہنسی (کھلنا) اور اس کے بعد بہت دیر تک اور بہت کثرت سے غور و فکر، یہ اس کی زندگی ہے۔ لیکن غنچہ کو محو فکر کہنے کی دلیل یا اس کا جواز کیا ہے؟ وجود میں آنے کے بعد غور و فکر تو ٹھیک ہے، کہ یہ غور و فکر اپنے انجام کے بارے میں ہے اور خود وجود میں آنے کا انجام بھی غور و فکر ہے، کیوں کہ کلی کھلنے کے بعد ہی مرجھانے لگتی ہے، گویا وہ محو فکر ہے کہ میرا انجام اب کیا ہوگا، میری زندگی اب کتنی گھڑیوں کی ہے؟ غنچے کو دل گرفتہ تو کہتے ہیں، لیکن محو فکر نہیں کہتے۔ لہذا یا تو کوئی ایسی دلیل ہو جس کی بنا پر ہم غنچے کو محو فکر ثابت کر سکیں، یا کوئی سند ہو جس کے اعتبار سے ہم کہہ سکیں کہ غنچے کو محو فکر یا متفکر فرض کرنا بھی شاعرانہ رسومیات میں داخل ہے۔ جب تک اس مسئلے کو صاف نہ کیا جائے گا، شعر کی تشریح نامکمل رہے گی۔ غالباً اسی وجہ سے طباطبائی نے اس شعر کو چھپتائیں اور جاوید مستقیم سے خارج کہا ہے۔ اس پر بیخود موہانی ناراض تو بہت ہوئے ہیں، لیکن اعتراض کا جواب فراہم کرنے سے قاصر رہے ہیں۔

مولانا غلام رسول تہرنے البتہ لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کلی عدم میں بیٹھی ہوئی ہے اور پھول کے انجام سے عبرت حاصل کر رہی ہے۔ لیکن سوال تو پھر بھی وہیں رہا کہ غنچے کو متفکر فرض کرنے کی دلیل کیا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ شعر نہ چیتاں ہے اور نہ جاوہ مستقیم سے خارج۔ غنچہ اور فکر و تامل میں کئی اعتبار سے مناسبت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 'خاموش' اور 'سربستہ' غنچے کی صفات میں سے ہے ('بہارِ عجم')۔ ظاہر ہے کہ فکر و تامل کا براہِ راست تقابل خاموشی اور سربستگی ہے۔ آگے چلیے۔ غنچہ حسیدین، غنچہ خواہیدن، غنچہ نشستن، یہ محاورے ہیں۔ 'بہارِ عجم' میں لکھا ہے کہ ان کے معنی ہیں 'ہاتھ پاؤں سمیٹ کر سونا یا بیٹھنا' اور یہ کہ 'ایسا وقت تامل و تفکر میں ہوتا ہے۔ مزید لکھا ہے کہ 'غنچہ شدن' اور 'غنچہ بودن' کے معنی ہیں 'متامل ہونا'۔ لہذا لفظ 'غنچہ' ہی میں تفکر اور تامل کے معنی پنہاں ہیں۔ غالب نے کیا غلط کہا تھا کہ فارسی زبان میری سرشت میں یوں پوست ہے جیسے فولاد میں جوہر۔ انیس برس کی عمر میں غالب پر 'غنچہ' کی وہ معنویتیں عیاں تھیں جو بڑے بڑے اساتذہ کی دسترس میں تا عمر نہ آئیں۔

(۱۴۰)

تاکجا اے آگہی رنگ تماشا باختمن  
چشم وا گردیدہ آغوش وداع جلوہ ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

یہ مضمون بڑی حد تک میر سے مستعار ہے:

موند رکھنا چشم کا ہستی میں عین دید ہے  
کچھ نہیں آتا نظر جب آنکھ کھولے ہے حجاب

شعر کی شرح میں بھی تمام شارح کم و بیش متفق ہیں۔ لیکن 'رنگ باختمن' کے معنی بیان کرنے میں اکثر کو مغالطہ ہوا ہے۔ مولانا سہا، غلام رسول مہر، طباطبائی اور بیخود دہلوی نے اس کے معنی 'رنگ بدلنا' یا 'رنگ کا تغیر پذیر ہونا' بیان کیے ہیں۔ لیکن یہ معنی شعر سے برآمد نہیں ہوتے۔ اگر 'آگہی' کو قائل قرار دیا جائے تو 'رنگ بدلنا' یعنی رنگ کا تغیر پذیر ہونا بالکل بے محل اور مناسبت سے عاری ہے۔ اگر 'آگہی' قائل نہیں، صرف مناد ہی ہے تو اس صورت میں بات ذرا بنتی ہے۔ لیکن مصرعے کی بندش سست ہو جاتی ہے اور رنگ تماشا کا بدلنا ایک خود کار عمل ٹھہرتا ہے، اس کے لیے 'آگہی' کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ پھر یہ بھی ہے کہ رنگ تماشا کا بدلتے جانا یا جلووں کا وداع ہونا یا جلووں سے ہمارا تعلق ختم ہو جانا، یہ سب ایک ہی چیز نہیں ہیں۔ اور نہ وداع جلوہ کو رنگ تماشا کے بدلنے کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں۔

بیخود موبانی نے 'رنگ باختمن' کے معنی 'رنگ اڑنا' لیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ "تماشا کے چہرے کا رنگ کب تک اڑتا رہے گا؟" لیکن شعر میں تو تماشا کے رنگ باختمن کا ذکر ہے، تماشا کے چہرے کا کوئی ذکر نہیں۔ لہذا بیخود موبانی کی شرح درست نہیں۔

دراصل غالب نے 'رنگ باختن' کا محاورہ باندھا ہی نہیں ہے۔ انھوں نے 'رنگ' بمعنی 'قدر و قیمت' یا بمعنی 'قوت و کیفیت' لکھا ہے اور 'باختن' کو مصدر کے طور پر برت کر اس کے عام معنی مراد لیے ہیں، یعنی 'مضائع کرنا'، 'کھونا'، 'برباد کرنا'۔ لہذا مصرعے کے معنی یہ ہیں کہ اے آگہی تو کب تک تماشائی کی قدر و قیمت اور قوت و کیفیت کو ضائع کرتی رہے گی؟ شعر کے معنی یہ ہوئے کہ اگر آنکھ کھول کر دیکھا جائے تو جلوے کی قدر و قیمت ضائع ہو جاتی ہے۔ دیکھنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ظاہری آنکھ بند کر کے چشم دل سے دیکھا جائے۔

(۱۳۱)

جوہر تیج بہ سر چشمہ دیگر معلوم  
ہوں میں وہ سبزہ کہ زہراب آگاتا ہے مجھے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

شعر کے معنی میں کوئی باریکی نہیں۔ شعر اچھا ہے، لیکن غالب کے معیار کو دیکھتے ہوئے بہت بلند نہیں۔ تلوار کے جوہر سے وہ گول گول نشان مراد ہیں جو اعلا درجے کے فولاد میں ہوتے ہیں۔ تلوار کی آب کی مناسبت سے اسے 'دریا'، 'چشمہ' یا 'جدول' سے تشبیہ دیتے ہیں۔ چنانچہ میر کا مصرع ہے:

اس کی شمشیر کی جدول بھی بہا کیا کیا کی  
تو اگر تلوار چشمہ ہے تو جوہر اس کا سبزہ ہوا۔ یعنی جوہر وہ سبزہ ہے جو تلوار کے ہی کنارے آگ سکتا ہے۔ سبزہ اپنی شکل اور رنگ کے اعتبار سے زہر میں سمجھی ہوئی تلوار سے مشابہت رکھتا ہے، جیسا کہ غالب کے شعر میں ہے:

برنگ سبزہ عزیزان بد زباں یک دست

ہزار تیج بہ زہراب دادہ رکھتے ہیں

شعر زیر بحث میں 'زہراب' کے معنی ہیں 'غم و رنج'۔ لہذا شعر کے معنی یہ ہوئے کہ جس طرح چشمہ شمشیر ہی کے کنارے سبزہ جوہر آگ سکتا ہے، اسی طرح میں وہ سبزہ ہوں جو زہر لے ہوئے پانی (یعنی غم و رنج) سے آگتا ہے۔ یعنی میرا وجود ہی غم و غصہ و رنج کا مرہون منت ہے۔ غالب نے اس میں بھی ایک پہلو اختیار کر رکھا ہے کہ جس طرح جوہر تیج کا وجود تیج کی وجہ سے ہے، اسی طرح میرا وجود غم و غصہ کے باعث ہے۔ بقول طباطبائی "تلوار کا جوہر تلوار ہی میں ہوتا ہے، کسی اور چشمے پر یہ سبزہ کجا؟"

یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جھگڑا طباطبائی کے ہی اس قول سے شروع ہوتا ہے کہ ”معنف مرحوم نے غفلت کی کیوں کہ ایران میں زہراب اہل زبان پیشاب کو بھی کہتے ہیں۔ اس لفظ سے بچنا چاہیے تھا۔“

لفظ ’زہراب‘ کے باعث جو پہلوے ذم نظام اس شعر میں آگیا ہے، اس کا دفاع مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بیخود موہانی نے تسلیم کیا ہے کہ ’زہراب‘ بمعنی ’پیشاب‘ بھی ہے۔ لیکن انہوں نے مومن، ناسخ، بہادر شاہ ظفر وغیرہ کے یہاں اس لفظ کے استعمال کی مثالیں پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ اگر کسی لفظ کے کوئی معنی قبیح ہوں، لیکن عام معنی غیر قبیح ہوں، تو فصحا نے ایسے لفظ کو ترک نہیں کیا ہے۔ اس ضمن میں بیخود نے بعض بزرگان دین کے اسمائے گرامی اور حدیث کی بھی مثالیں دی ہیں۔

یہ سب درست، لیکن اعتراض اپنی جگہ پر رہتا ہے کہ شعر میں پہلوے ذم ہے۔ کیوں کہ پہلوے ذم کی تعریف ہی یہی ہے ایسے لفظ کا استعمال جس کے کوئی قبیح معنی ہوں یا جس میں کوئی قبیح اشارہ ہو اور جن کے باعث شعر کے اصل معنی پر ضرب پڑتی ہو۔ دراصل بیخود موہانی نے منطوق سے کام نہیں لیا۔ پہلوے ذم اس وقت ثابت ہوتا ہے جب دو شرطیں پوری ہوں (۱) لفظ کے واقعی کوئی قبیح معنی ہیں اور (۲) شعر زیر بحث جس زمانے میں لکھا گیا اس وقت پہلوے ذم کا تصور موجود تھا۔ دوسری بات کا جواب تو خود ان مثالوں سے مہیا ہو گیا جو بیخود موہانی نے ’زہراب‘ کے صرف کی ضمن میں جمع کی ہیں۔ اگر پہلوے ذم کا تصور قدیم زمانے میں ہوتا تو آنس و ناسخ، سودا اور میر، حتیٰ کہ میر درد کے یہاں بھی ایسے شعر کیوں ہوتے جن میں آج کے معیار سے پہلوے ذم ہے؟ پہلوے ذم کا تصور یعنی نقد شعر کے حوالے سے حسن یا قبح کے معیار کی حیثیت سے پہلوے ذم کا وجود کھنڈ میں انیسویں صدی کے اواخر میں ہوا۔ اس سے پہلے اس تصور کا کوئی ذکر کسی تذکرہ نگار کے یہاں نہیں ہے۔ لہذا غالب، ناسخ یا کسی بھی ایسے شاعر پر پہلوے ذم کا الزام رکھنا جس کے زمانے یا جس کی تہذیب میں یہ تصور تھا ہی نہیں، زیادتی ہوگی۔

دوسری بات یہ کہ اگر کسی لفظ کے معنی کسی شاعر کے زمانے میں قبیح نہ ہوں، لیکن بعد میں قبیح ہو جائیں یا اس لفظ کے اصل معنی میں کسی قبیح معنی کا اضافہ ہو جائے تو اس

شاعر کی حد تک اس لفظ کے استعمال میں پہلوے ذم نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کے محاورے میں ’رٹھی‘ کے معنی ’طوائف‘ ہیں۔ لیکن انیسویں صدی کے شروع تک ’رٹھی‘ کے معنی محض ’عورت‘ تھے۔ لہذا اس زمانے کے شاعر کی حد تک لفظ ’رٹھی‘ میں پہلوے ذم نہیں۔

اگر ’زہراب‘ بمعنی ’پیشاب‘ غالب کے زمانے میں بھی تھا، تو یقیناً اس میں ذم کا پہلو ہے، اگرچہ غالب کے زمانے میں پہلوے ذم بطور تنقیدی نوع کے موجود نہ تھا، لہذا جو سوال ہمیں طے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ غالب کے زمانے میں ’زہراب‘ بمعنی ’پیشاب‘ تھا کہ نہیں؟

اس سوال کا جواب حتمی طور پر نفی میں ہے۔ ’زہراب‘ بمعنی ’پیشاب‘ جدید فارسی ہے۔ قدیم یا کلاسیکی فارسی میں ’زہراب‘ بمعنی ’پیشاب‘ کا وجود نہیں۔ قدیم ترین لغات، مثلاً ’فرہنگ تو اس‘ اور ’صاح الفرس‘ سے لے کر سترہویں اور اٹھارہویں صدی کے لغات مثلاً ’برہان قاطع‘، ’بہارِ عجم‘، ’چراغِ ہدایت‘، ’مصطلحات شعراء‘، سب اس معنی سے خالی ہیں۔ انیسویں صدی کے شروع میں ’شمس اللغات‘ مرتب ہوا جو قدیم مستند لغات پر مبنی ہے، اس میں بھی یہ معنی نہیں۔ ’بہارِ عجم‘ اور ’چراغِ ہدایت‘ نے اہل زبان کے محاورے اور استعمال پر مبنی اندراجات کثرت سے کیے ہیں۔ خان آرزو نے ’چراغِ ہدایت‘ لکھی ہی اس لیے کہ اس میں وہ الفاظ اور محاورے درج ہوں جو لغات میں نہیں ملتے، لیکن اہل زبان میں رائج ہیں۔ اسٹانگاس نے اپنا لغت انیسویں صدی کے نصف دوم میں مرتب کیا تھا اور اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نئے الفاظ یا پرانے الفاظ کے معنی درج کیے تھے۔ ان تمام لغت نگاروں کا ’زہراب‘ بمعنی ’پیشاب‘ نہ درج کرنا اس بات کا تقریباً یقین ثبوت ہے کہ غالب کے زمانے میں اس لفظ کے یہ معنی تھے ہی نہیں۔

لغات میں ’زہراب‘ بمعنی ’پیشاب‘ کا سب سے پہلا اندراج جس سے میں واقف ہوں وہ عندلیب شادانی اور شاداں بلگرامی کی مرتب کردہ ’فرہنگ نقش بدیع‘ (مطبوعہ ۱۹۲۳ء) میں ہے۔ مرتبین نے اس لغت میں کوئی چھ ہزار لغات و محاورات ایسے جمع کیے ہیں جو ان کے بقول ”مروجہ کتب لغت میں نہیں ملتے مگر ایران میں عام طور پر مستعمل ہیں۔“ اس ’فرہنگ‘ میں ’زہراب‘ تو نہیں، لیکن ’زہراب‘ کردن درج ہے:

”زہراب کردن: پیشاب کرنا۔ عوام اس کو اچھا اور شائستہ لفظ سمجھ کر بولتے ہیں۔“

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ”زہراب کردن“ بمعنی ”شائیدن“ عوامی بولی ہے۔ حمیم کی فارسی انگریسی ڈکشنری، مطبوعہ تہران ۱۹۷۰ء جس میں آج روزمرہ بولی جانے والی فارسی کے الفاظ ہیں، اس میں ”زہراب“ بمعنی Urine درج ہے۔

اس بحث سے معلوم ہوا کہ ایران کے اہل زبان تو نہیں، عام لوگ اور وہ بھی صرف جدید زمانے کے لوگ ”زہراب“ کو ”پیشاب“ کے معنی میں بولتے ہیں۔ بے چارے غالب کے عہد میں یہ معنی ہی نہیں۔ (خیال رہے کہ یہ غزل ۱۸۱۶ء کی ہے) لہذا غالب پر اس لفظ کے حوالے سے پہلوے دم کے ارتکاب کا الزام رکھنا سخت ناانصافی ہے۔

(۱۴۲)

سیاہی جیسے گر جائے دم تحریر کاغذ پر  
مری قسمت میں یوں تصویر ہے شب ہائے ہجران کی  
(زمانہ تحریر: ۱۸۲۱ء)

بیخود مہمانی کہتے ہیں کہ شعر کا مطلب ہے ”میری قسمت میں صرف جدائی کی راتیں ہیں اور بس“۔ بیخود دہلوی کا قول ہے ”جدائی کی راتوں نے میرے نوشہہ تقدیر کو ایسا چھپا لیا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ آئندہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔“ ظاہر ہے کہ یہ دونوں معنی شعر کے الفاظ سے بالکل بعید ہیں۔ دونوں ہی شریحین مصرع اولیٰ کے انتہائی خوب صورت اور معنی خیز پیکر سے صرف نظر کرتی ہیں۔ دوسرے مصرعے کا لفظ ”تصویر“ اور مصرع اولیٰ میں کاغذ پر گری ہوئی روشنائی اس شعر کے کلیدی عناصر ہیں۔ بعض شراح نے ”تصویر“ سے وہ تحریر مراد لی ہے جس میں تصویروں کے ذریعے مطلب ادا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ نوشہہ تقدیر میں تصویری تحریر کی کیا ضرورت پڑی؟ یعنی اس بات کو کیوں کر ثابت کیا جائے کہ نوشہہ تقدیر کو الفاظ میں نہیں بلکہ تصویروں کے ذریعے لکھا گیا ہے؟ سہا مجددی نے ”تصویر“ کو ”نقش“ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ معنی ”تصویری تحریر“ سے یقیناً بہتر ہیں، لیکن اس سے نوشہہ تقدیر پوری طرح قائم نہیں ہوتا۔

پہلی بات تو یہ کہ نوشہہ تقدیر کو الفاظ پر مبنی عبارت فرض کرنا ضروری نہیں۔ یہ زائچے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جس میں ہندسے اور تصویریں ہوتی ہیں۔ لہذا تصویری عبارت کا تکلف پیدا کیے بغیر بھی ہم نوشہہ تقدیر میں تصویروں کی موجودگی فرض کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ممکن ہے نوشہہ تقدیر میں کچھ عبارتیں ہوں اور کچھ نقش یا

تصویریں ہوں۔ ممکن ہے جن باتوں کا بیان الفاظ میں ممکن نہ تھا ان کو تصویروں کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہو۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ ”تصویر“ سے مراد ”صورت کشی“ نہیں بلکہ محض ”محاکاتی بیان“ ہو سکتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں: ”فلاں صاحب نے واقعے کی اتنی عمدہ تصویر کھینچی کہ سارا سماں ہو بہو آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔“ پرانے لوگوں نے شاعری (یعنی الفاظ پر مبنی بیان) کو مصوری سے اکثر تشبیہ دی ہے۔ شاعروں کو مصور فطرت، عکاس فطرت وغیرہ قسم کے خطابات اب بھی دیے جاتے ہیں۔ طباطبائی نے اپنی شرح میں مصری حروف کا ذکر کیا ہے جو تصویری ہوتے تھے۔ لیکن خود طباطبائی نے اپنے تنقیدی مضامین میں جگہ جگہ شاعری اور مصوری میں مشابہت کا ذکر کیا ہے۔ لہذا ”تصویر“ سے شعر زیر بحث میں لفظی صورت گری مراد لینا بالکل مناسب ہے۔

اب معنوی پہلو پر غور کیجیے۔ لکھتے وقت اگر کاغذ پر روشنائی گر جائے تو بڑا سادہ بنا ہے۔ یہ دھبہ کسی خاص بیت کا بھی پابند نہیں ہوتا بلکہ ٹیڑھا میڑھا اور بے قاعدہ ہوتا ہے۔ مشکل کا نوشتہ ”تقدیر“ کچھ ایسا ہے کہ اس میں جہاں ہجری راتوں کا بیان ہوتا تھا وہاں ایک بڑا سادہ دھبہ ہے، گویا لکھتے وقت روشنائی گر گئی ہو۔ اس دھبے کے مندرجہ ذیل مفہوم ہو سکتے ہیں:

(۱) میرے حصے میں شب ہائے ہجران اتنی زیادہ، اتنی تاریک اور اتنی بے ڈھنگی ہیں کہ ان کو دھبے کے ہی ذریعے بیان کرنا مناسب تھا۔ یعنی کاتب ”تقدیر“ کے پاس الفاظ نہ تھے۔

(۲) میری شب ہائے ہجران اتنی ہلاکت انگیز اور درناک ہیں کہ کاتب ”تقدیر“ نے ان کی نوعیت چھپانا ہی مناسب سمجھا اور ایک بڑا سادہ دھبہ بنا دیا۔

(۳) میری شب ہائے ہجران کا بیان اس قدر درناک تھا کہ لکھنے والے کی ہمت چھوٹ گئی، اس کو اپنے قلم پر قابو نہ رہا اور روشنائی کا بڑا سا قطرہ اس کے قلم سے گر کر کاغذ پر پھیل گیا۔

(۴) کاتب ”تقدیر“ نے سوچا کہ اس شخص کی ”تقدیر“ کیا بیان کروں، اس میں تو زیادہ تر شب ہجران کی سیاہی ہے۔ لہذا اس نے بے پروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑا سا ایک دھبہ بنا دیا کہ یہی اس کی ”تقدیر“ ہے۔

(۱۴۳)

دل و دین نقد لا ساقی سے گرسودا کیا چاہے  
کہ اس بازار میں ساغر متاع دست گرداں ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

طباطبائی نے خوب لکھا ہے: ”یہاں ساغر کو دست گرداں کہنا ایسا لطف رکھتا ہے کہ دل و دین نیاز منصف کرنا چاہیے۔“ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ”دست گرداں“ کے معنی کیا ہیں؟

تمام شارحین نے اس لفظ کو کلیدی حیثیت دی ہے۔ لیکن استعارے کے حسن، رعایت کی تازگی اور مصرع اولیٰ میں لفظ ”نقد“ کی چمک نے ہم سب کو اس قدر چکا چوندھ کر دیا ہے کہ بہت سی بدیہی باتیں نظر انداز ہو گئی ہیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے ”دست گرداں“ کے معنی لکھے ہیں۔ ”وہ چیز جو نقد بکتی ہے۔“ تا کید کے تھوڑے سے تغیر کی بنا پر بعض شارحین کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ دست گرداں وہ چیز ہے جو صرف نقد ہی بکتی ہے، ادھار نہیں حاصل ہو سکتی۔ بعض شارحین کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ دست گرداں کسی بھی اس چیز کو کہتے ہیں جو نقد خریدی جائے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسے ادھار پر خریدنا ممکن ہی نہ ہو۔ جب وہ نقد خریدی جائے گی تو دست گرداں کہلائے گی۔

نیاز فتح پوری نے عجیب بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متاع دست گرداں وہ شے ہے جو عاریتاً حاصل کی جائے، لیکن غالب نے یہاں اسے نقد سودا کے مفہوم میں استعمال کیا ہے (یعنی بالکل اٹل مفہوم میں)۔ لیکن نیاز صاحب یہ نہیں بتاتے کہ غالب نے یہ ادھار چال چلی کیوں؟ کیا لغت یا محاورے کی رو سے اس ادھار چال کا کوئی جواز ہے؟ اگر جواز نہیں ہے تو یہ کیوں فرض کیجیے کہ شاعر نے بالکل اٹل معنی لیے ہیں؟ اس طرح تو

کسی لفظ کے کوئی معنی بیان کر دیجیے اور دعویٰ کیجیے کہ شاعر نے یہی معنی مراد لیے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ لفظ کے استعاراتی معنی ایسے ہو سکتے ہیں جن کی تائید لغت سے نہیں ہوتی۔ لیکن استعاراتی معنی کی اساس کسی اور طرح کی منطق پر ہوتی ہے۔ اگر وہ منطق بھی نظر نہ آئے تو استعاراتی معنی قائم نہ ہوں گے۔ مثلاً معشوق کو 'شع' کہہ سکتے ہیں، 'شع' رو کہہ سکتے ہیں، لیکن 'مرگھٹ کا چراغ' نہیں کہہ سکتے۔ ظاہر ہے کہ شعر زیر بحث میں کوئی ایسی منطق نہیں ہے جس کی رو سے ہم فرض کر سکیں کہ غالب نے 'دست گرداں' لائے معنی میں استعمال کیا ہے۔

ایسا لگتا ہے کہ اس شعر کے تمام شراح کو مصرع اولیٰ کے لفظ 'نقد' نے یہ گمان کرنے پر مجبور کر دیا کہ 'دست گرداں' کے معنی بھی نقد ہی ہوں گے۔ لہذا اس شعر کے بارے میں شارحین کے خیالات کو مختصر آویں بیان کیا جاسکتا ہے: اگر تم ساقی سے ساغرِ محبت یا ساغرِ شراب کا سودا کرنا چاہتے ہو تو دل و دین کا نقد پیش کرو، کیوں کہ اس بازار میں ساغر صرف نقد ہی قیمت پر ملتا ہے۔

اس شرح میں کئی قباحتیں ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ اس کی رو سے شعر کا دوسرا مصرع اپنی بے مثال خوب صورتی کے باوجود بالکل بے کار اور تکراری ہو جاتا ہے۔ دل و دین نقد لاؤ۔ کیوں کہ یہاں ساغر نقد ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی ایک مصرعے (خاص کر مصرع اولیٰ) میں مطلب پورا ہو جاتا ہے۔ اور شعر کا پورا ایک مصرع ناکام یا نسبتاً غیر ضروری ٹھہرتا ہے۔

دوسری مشکل یہ ہے کہ 'اس بازار' کی حیثیت واضح نہیں ہوتی۔ کیا یہ بازار وہی ہے جہاں ساقی سے سودا کیا جائے گا؟ اگر ہاں، تو ساقی کو بازار میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساقی کا تو کام شراب فروشی نہیں۔ یہ کام تو بیرمخاں یا بادہ فروش کا ہے۔ اگر ساقی ہی کو بادہ فروش فرض کر لیا جائے تو ساقی سے کس چیز کا سودا منظور ہے؟ فرض کیا کہ یہ بازار محبت ہے اور ساقی سے مے عشق کا سودا کرنا ہے۔ پھر مشکل یہ ہے کہ بازار میں تو چیزیں فروخت ہی ہوتی ہیں، خاص کر ساغر محبت جیسی بیش قیمت شے تو ادھار مل نہیں سکتی۔ تو پھر بات کیا بنی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہیرے کا ہار خریدنا ہے تو نقد لائیے کیوں کہ ہیرے کا ہار ادھار نہیں ملتا، تو آپ پوچھیں گے کہ یہ تم نے کون سی نئی بات کہی؟

سب جانتے ہیں کہ ہیرے کے ہار جیسی قیمتی شے ادھار نہیں مل سکتی۔ اگر نیاز صاحب کے پہلے معنی کو اختیار کر کے کہا جائے کہ 'دست گرداں' وہ شے ہے جو عاریتاً حاصل کی جائے تو بھی بات وہی رہتی ہے کہ اگر ساغر عشق جیسی گراں بہا چیز کو یہ کہا کہ وہ عاریتاً نہیں ملتی یا عارضی استعمال کے لیے اور بے قیمت نہیں ملتی، تو کیا خاص بات کہی؟

تو کیا ہم یہ فرض کریں کہ شعر بالکل معمولی ہے، بلکہ عیب دار ہے؟ معمولی یا عیب دار شعر سرزد ہونا غالب سے ناممکن نہیں۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے شعر پر مزید غور کر لیں تاکہ غالب کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔

سب سے پہلے 'دست گرداں' کو لیجیے۔ ہمارے شراح نے بنیادی غلطی یہیں کی ہے، انھوں نے اس لفظ کے معنی بالکل غلط بیان کیے ہیں۔ 'دست گرداں' جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ وہ شے ہرگز نہیں جسے نقد قیمت پر حاصل کیا جائے۔ بعض حالات میں 'دست گرداں' وہ چیز ضرور ہو سکتی ہے جسے بہت آسان رعایتی قیمت یا بہت آسان اقساط میں ادا ہونے والی قیمت پر حاصل کیا جائے۔

'بہارِ عجم' میں 'دست گرداں' کے معنی درج ہیں: "قرض بہ عاریت گرفتن"۔ اس انوکھے لہجے میں دین کی تفصیل اسٹارنگاس میں بیان ہوئی ہے۔ فرض کیجیے آپ کسی سے کوئی چیز دس روپے میں خریدنا طے کرتے ہیں، لیکن یہ بھی طے کرتے ہیں کہ قیمت باقساط ادا ہوگی۔ پہلی قسط کے طور پر دو روپے دے کر آپ وہ چیز لے لیتے ہیں۔ اب وہ چیز آپ کے پاس ہے، لیکن بیچنے والے کی ملکیت ہے۔ آپ وہ دو روپے بھی بائچ سے قرض لے لیتے ہیں۔ اس طرح آپ دو روپے کے مقروض ہیں، لیکن خریدی ہوئی چیز کے دام کی پہلی قسط کے دو روپے بھی آپ ادا کر چکے ہیں۔ چند دنوں بعد آپ دو روپے پھر ادا کرتے ہیں اور وہی دو روپے پھر قرض لے لیتے ہیں۔ اس طرح آپ اب اس چیز کی قیمت کی دو قسطیں ادا کر چکے ہیں اور چار روپے کے الگ مقروض ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آپ دس روپے ادا کر دیتے ہیں اور دس روپے کے مقروض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چیز اب آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔

مندرجہ بالا تفصیل سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اول تو یہ کہ دست گرداں سودا وہ بائچ کرنا ہے جسے اپنا مال بیچنے کی کوئی مجبوری ہو اور اسے وہی خریدنا ہے جو بہت غریب



ہو لیکن بائح کا دوست ہو یا پھر وہ بائح پر کسی قسم کا دباؤ رکھتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ دست گرداں سودا وہ بائح بھی کر سکتا ہے جو لین دین کا کاروبار بڑے پیمانے پر کرتا ہو۔ لیکن اس بیج و شرعی میں فوری فائدہ بہر حال مشتری کا ہی ہوتا ہے۔

پلیٹس نے دست گرداں کی تعریف یوں لکھی ہے: ”دست بدست جانے والا۔ وہ مال جو پکار پکار کر فروخت کیا جائے۔ روپیہ یا کوئی اور چیز جو کسی مختصر مدت کے لیے قرض پر حاصل کی جائے اور بے باقی کا وعدہ زبانی کیا جائے، لہذا پلیٹس کی رو سے دست گرداں وہ مال ہے جو آسانی سے نہیں بکتا، لہذا فروخت کرنے والا پکار پکار کر اسے فروخت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دست گرداں وہ مال بھی ہے جو بڑے آسان، زبانی قرض پر حاصل کیا جائے۔ لہذا پلیٹس کا دست گرداں نقد مول لینے والا مال تو نہیں ہے، اسٹانگس کا بیان کیا ہوا مال ضرور ہو سکتا ہے۔ اس کی تصدیق فرہنگ آصفیہ سے بھی ہوتی ہے، جہاں دست گرداں کو غرض مند کا بکاؤ مال اور ہاتھ ادھار قرض اور بازاروں، سرراہ بکنے والی شے بتایا گیا ہے۔

ان تشریحات کی روشنی میں شعر زیر بحث کا ساغر، جو متاع دست گرداں ہے، کوئی بہت قیمتی یا نادر چیز نہیں، بلکہ معمولی، غرض مند کا بکاؤ مال اور بائح کی مجبوری سے بکنے والا مال قرار پاتا ہے۔ اب شعر کا مطلب یہ ہوا کہ میاں اگر تم کو ساقی سے سودا کرنا ہے تو دل اور دین کا نقد لے کر آؤ۔ ہاں اگر محض ساغر کے متمنی ہو، ساقی سے کچھ معاملہ نہیں کرنا ہے تو اور بات ہے۔ ساغر تو یہاں بہ آسانی قرض مل جاتا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ اپنی گروہ سے کچھ دینا نہیں پڑتا۔ کھڑے کھڑے سودا طے کیا اور لے آئے۔

اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ساقی سے کس قسم کا سودا کرنا ہے اور یہ ساغر کیا ہے جو اتنی آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے اس معروضے کو ذہن میں لائیے جو میں نے شروع میں پیش کیا ہے۔ ساقی کا کام شراب بیچنا نہیں بلکہ شراب پلا کر مست کرنا ہے۔ بادہ فروشی تو کاروباری اور بازار کا کام ہے۔ بیچنے والا خود غرض مند ہے، تم کو ساغر دست گرداں دے دے گا۔ اب یہی شراب سے پیدا ہونے والی مستی کی بات، یعنی شراب سے حاصل ہونے والے اصل فائدے کی بات یا جام شراب کے ساتھ ساقی کی نگاہ مہر یا نگاہ گرم بھی حاصل ہونے کی بات، تو اس کے لیے دل و دین کی دولت

لا کر ساقی کی نذر کرو۔ پھر وہ شاید تمہیں شراب کے ساتھ مستی شراب، یعنی اپنی توجہ، یعنی شراب محبت کی ذرا سی چاشنی بھی دے دے۔ یہ چیز دولت سے نہیں ملتی۔ شراب تو دست گرداں مل جاتی ہے، بازار دنیا میں کوئی چیز مہنگی نہیں۔ لیکن ساقی کے ساتھ معاملے اور سودے وہ نہیں ہوتے جو عام دنیاوی بازار میں ہوتے ہیں۔

اس طرح شعر کی اصل مراد یہ ہے کہ ساغر، یعنی معمولی درجے کا علم اور اس کی لذت تو باسانی حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن ساقی سے جو دولت ملتی ہے، یعنی معرفت اور اس کی لذت وہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں لگتی۔

ہے۔ یعنی فارسی شاعری میں نگاہ کو اکثر 'سرمہ سا' کہا گیا ہے۔ یہ ترکیب غالب کی اختراع کردہ نہیں ہے۔ نیاز فتح پوری لکھتے ہیں کہ "تیری خاموشی گویا دل سے نکلی ہوئی نگاہ سرمہ سا ہے"۔ لیکن اس سے بات صاف نہیں ہوتی۔ نگاہ ازدل برخاستن کوئی محاورہ بھی نہیں، تو پھر نگاہ کا دل کا نکلنا کس معنی میں ہے؟

(۱۳۴)

خوشیوں میں تماشا ادا نکلتی ہے  
نگاہ دل سے ترے سرمہ سا نکلتی ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

میرے پاس شرح طباطبائی کے دو نسخے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو علامہ شاداں بگرامی کے مطالعے میں رہا کرتا تھا۔ شاداں نے اس پر جگہ جگہ بڑے عمدہ حاشیے بھی لکھے ہیں۔ اس شعر پر وہ لکھتے ہیں: "نگاہ کا دل سے نکلنا کچھ سمجھ میں نہ آیا"۔ بات بالکل صحیح ہے اور طباطبائی کی شرح کچھ اتنی گجھلک ہے کہ اس کے پس منظر میں یہ استدراک اور بھی بر محل معلوم ہوتا ہے۔

بہت سے لوگوں نے مصرع ثانی میں 'ترے' کی جگہ 'تری' پڑھا ہے۔ طباطبائی، بیخود موبہانی اور سہا مجددی ان میں شامل ہیں۔ مولانا عرشی نے 'ترے' پڑھا ہے۔ میں انھیں کا متوجہ ہوں۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ شعر کچھ اس قدر مبہم ہے کہ 'تری' پڑھیں یا 'ترے' بات بہت زیادہ کھلتی نہیں۔ شاداں کے علاوہ کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا ہے کہ نگاہ کا دل سے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر 'تری' فرض کیا جائے تو بات ایک حد تک حل ہو جاتی ہے کہ معشوق کی نگاہ عاشق کے دل سے سرمہ سا نکلتی ہے۔ علامہ سہا نے یہی معنی لکھے ہیں۔ لیکن شاداں، علامہ طباطبائی اور بیخود موبہانی کا خیال ہے کہ یہ معشوق کی نگاہ ہے اور معشوق ہی کے دل سے نکل رہی ہے۔ اگر 'ترے' دل پڑھیں تو سہا کا بتایا ہوا مفہوم غلط ہو جاتا ہے۔ اور شاداں کا سوال بہر طور برقرار رہتا ہے کہ نگاہ کا دل سے نکلنا کچھ سمجھ میں نہ آیا۔

لہذا نئے سرمے سے غور کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 'سرمہ سا' نگاہ کی صفت

اس مسئلے کا حل اس بات میں ہے کہ یونانی حکما اور ان کے اتباع میں اکثر قدیم حکما کا خیال تھا کہ روشنی کی لکیر آنکھ سے نکل کر اشیاء پر پڑتی ہے تو اشیاء نظر آتی ہیں۔ یعنی آنکھ منبع اور مخرج ہے روشنی کا، اور اگر روشنی آنکھ سے نکل کر خارج کی شے پر پڑتی ہے تو تاریک نگاہ وغیرہ قسم کے استعاروں کا جواز بن جاتا ہے۔ اور آگے چلیے۔ مسلمان صوفیائے قلب کو اکثر پینا اور صاحب بصر کہا ہے۔ اگرچہ صوفیا کی اصطلاح میں 'قلب' کے معنی محض 'دل' نہیں ہیں، لیکن عام زبان میں 'دل' اور 'قلب' تقریباً مرادف ہیں۔ اس لیے صوفیانہ اصطلاح کے بموجب قلب کی جو صفات ہیں، ان میں سے اکثر دل پر بھی منطبق کر دی گئیں۔ چنانچہ 'دل کی آنکھ کھل جانا'، 'دیدہ دل'، 'چشم دل'، 'دیدہ باطنی' وغیرہ محاورے اور استعارے وجود میں آئے۔

اس تجزیے کی روشنی میں یہ دیکھنا مشکل نہیں کہ شعر زیر بحث میں غالب اپنے معشوق کو بصیرت قلب کی صفت سے متصف کر رہے ہیں۔ لہذا وہ اس کی نگاہ کو دل سے نکلتا ہوا فرض کر رہے ہیں۔ معشوق کو صاحب بصیرت فرض کرنا عام ہے۔ اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں کہ یہ شعر معشوق کے بارے میں ہو، کسی عارف یا مرشد کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، ممدوح کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ ممدوح کو صاحب معرفت و بصیرت فرض کرنا بھی عام ہے۔

لہذا مفہوم یہ بنا کہ نگاہ تو خاموش ہوتی ہی ہے، معشوق یا ممدوح جب خاموش رہتا ہے اور دیدہ دل سے ہم لوگوں پر توجہ کرتا ہے تو وہ محض اس بات پر بس نہیں کرتا کہ حرف و صوت سے پرہیز کرے بلکہ اس کی ہر نگاہ سرمہ سا نکلتی ہے۔ سرمہ کھانے سے آواز بیٹھ جاتی ہے اور انسان تکلم سے محذور ہو جاتا ہے۔ لہذا نگاہ سرمہ سا کا سکوت عام نگاہ کے سکوت کے مقابلے میں زیادہ شدید و عمیق ہوگا۔ شوکت میرٹھی نے عمدہ نکتہ بیان کیا ہے کہ "چشم کو بہ اعتبار غمزے اور اشارے کے سخن گو کہتے ہیں"۔ لیکن اگر اس کو

درست مان لیا جائے تو ایک اور لطف پیدا ہو جاتا ہے کہ آنکھ تو سخن گو ہوتی ہے، لیکن معشوق یا معشوقہ اپنی خاموشی کا اتنا پاس و لحاظ رکھتا ہے کہ اپنی نگاہ کو بھی سرمہ سائنا کر نکالتا ہے۔

چوں کہ سرمہ لگانا اداؤں میں داخل ہے، اس لیے نگاہ سرمہ سا کو تماشا ادا (یعنی دید کے قابل) کہنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگر 'تماشا' کو ادا کی صفت قرار دیں تو معنی ہوں گے 'بڑی دل چسپ ادا'۔ یعنی تیری خاموشی میں یہ دل چسپ ادا ہے کہ تیری نگاہ بھی دل سے سرمہ سائکتی ہے۔ چشم سخن گو کے لیے ملاحظہ ہو میر:

آہو کو اس کی چشم سخن گو سے مت ملا  
شہری سے کر سکے ہے کہیں بھی گنوار بات

(۱۳۵)

کس کا سراغ جلوہ ہے حیرت کو اسے خدا  
آئینہ فرش شش جہت انتظار ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اکثر شرح نے حیرت کو تلاش کنندہ فرض کیا ہے۔ یعنی حیرت کس کے جلوے کا سراغ لگانا چاہتی ہے؟ بقول بیخود موہانی "حیرت نے آئینے کا فرش کیا ہے کہ کہیں تو اس کا جلوہ نظر آئے"۔ طباطبائی نے بھی تقریباً یہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سہا مجددی کہتے ہیں: "حیرت کو کس کے جلوے کی تلاش اور کس کا انتظار و سراغ ہے"۔ یعنی ان تمام حضرات نے 'سراغ' کو تلاش کے معنی میں لیا ہے اور حیرت کو تلاش جلوہ میں مصروف رکھا ہے۔

اس شرح میں قباحت یہ ہے کہ حیرت تو سکون اور بے حرکتی سے عبارت ہوتی ہے۔ یعنی حیرت میں جتلا ہونے والا تو بالکل کم سم ہو جاتا ہے اور اپنی جگہ پر چپ بیٹھ جاتا ہے۔ آئینے کو متحیر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بالکل خاموش ہوتا ہے۔ بیدل کا مصرعہ ہے:

آئینہ ز خودی رود و جلوہ مقیم است

لہذا اگر حیرت عبارت ہے سکون و سکوت سے، تو پھر مصروف تلاش نہیں فرض کر سکتے۔ یعنی حیرت کا کام تلاش کرنا نہیں۔ حیرت تو تلاش کے مکمل ہو جانے، یعنی جلوے کو حاصل کر لینے یا جلوہ دیکھ لینے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ حیرت کو کسی جلوے کی تلاش ہے، بے معنی سی بات ہے۔

اس مشکل کو دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 'سراغ' بمعنی 'تلاش' نہیں بلکہ

سراغ، بمعنی نشان، پتا اور نقش پا، قرار دیا جائے۔ اب معنی یہ نکلیں گے کہ حیرت کو کس کے جلوے کا یا کس جلوے کا سراغ (پتا، نشان، نقش پا) مل گیا (یعنی کس کے جلوے یا کس جلوے کے باعث ایسی حیرت پیدا ہوئی) کہ شش جہت عالم انتظار میں آئینے ہی آئینے نظر آرہے ہیں۔

یہاں سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر حیرت کو جلوے کا سراغ مل ہی چکا ہے تو انتظار کے کیا معنی؟ اس کے تین جواب ہیں (۱) ابھی سراغ ہی ملا ہے، اس پر حیرت کا یہ عالم ہے۔ سارا جہاں اس لیے آئینہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے جلوے کا انتظار ہے کہ کہیں تو جلوہ مجسم نظر آئے۔ (۲) جلوہ محض ایک بار دیکھا تھا، دوبارہ دیکھنے کی ہوس اور انتظار ہے۔ (۳) حیرت کی صفت دو اشیا میں مشترک ہے، آئینے میں اور متحیر شخص میں۔ انتظار کے عالم میں بھی وہی بے حرکتی اور سکوت ہوتا ہے جو حیرت میں ہوتا ہے۔ جس کو انتظار ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ عبدالباقی برتری کا نہایت عمدہ شعر ہے:

اضطرابم نہ گذارد کہ نشینم جاے

انتظارت نہ گذارد کہ ز جا برنخیزم

لہذا جو شخص متحیر ہے اسے بھی منتظر کہہ سکتے ہیں، کیوں کہ دونوں ہی اپنی جگہ سے ہلتے نہیں۔ اس طرح جو شخص سراپا متحیر ہے، اس کو منتظر اور منتظر کو آئینہ کہہ سکتے ہیں۔

دوسرے مصرعے میں 'فرش شش جہت انتظار' کو مبتدا اور 'آئینہ' کو خبر قرار دے کر مصرعے کی نثر یوں فرض کی جاتی ہے: "فرش شش جہت انتظار، آئینہ (بن گیا) ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ 'آئینہ' کو مبتدا قرار دیں اور بقیہ حصے کو خبر ٹھہرائیں۔ اب نثر یوں ہوگی: "آئینہ، فرش شش جہت انتظار بن گیا ہے"۔ یہ نثر اس معنی کی پشت پناہی کرتی ہے جو میں نے نمبر تین میں فرض کیے ہیں، یعنی 'انتظار'، 'متحیر' اور 'آئینہ' کو باہم منسلک قرار دیا ہے۔ اس سے مراد یہ بنتی ہے کہ سارا آئینہ انتظار مجسم بن گیا ہے، اس حد تک کہ اگر انتظار کو ایک عالم (شش جہت) فرض کریں تو آئینہ اس کا فرش معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آئینے میں ایک بار جلوہ منعکس ہوا تھا، آئینہ اس قدر از خود رفتہ ہوا کہ سراسر حیرت بن گیا یا کسی شخص نے جلوہ ایک بار دیکھا اور اس قدر متحیر ہوا کہ سراپا حیرت یعنی سراپا آئینہ بن گیا۔

پھر جلوہ آئینے سے (یا نظر سے) غائب ہو گیا۔ اب آئینے کو ہر دم اسی جلوے کا اس قدر شدید انتظار ہے یا حیرت اب بھی اس قدر ہے کہ وہ متحیر شخص سراپا حیرت (= سراپا آئینہ) ہے۔ گویا وہ شش جہت انتظار کا فرش بن گیا ہے۔ شعر نہایت پیچیدہ ہے، لیکن مضمون سامنے کا ہے۔ یہ بھی معنی آفرینی کی ایک شکل ہے۔

(۱۳۶)

دل مت گنوا خبر نہ سہی سیر ہی سہی  
اے بے دماغ آئینہ شمال دار ہے

(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

بعض شارحین نے اس شعر کا مخاطب خود متکلم کو فرض کیا ہے یا پھر ایسے شخص کو جو بقول بیخود موبانی معرفت حاصل نہ کر سکنے کے باعث اپنے دل سے بیزار ہو گیا ہے۔ یعنی متکلم خود کو یا کسی سالک راہ معرفت کو سمجھا رہا ہے کہ اگر دل کے ذریعے خبر معرفت نہیں مل سکتی تو بھی وہ ایسا آئینہ ہے جس میں طرح طرح کی سیریں نظر آتی ہیں۔ اس شرح میں دو قباحتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ دل کو گنوانے سے کیا مراد ہے؟ اگر اس محاورے کا عام مفہوم لیا جائے تو معنی ہوں گے 'دل کو ضائع کرنا' یا 'دل کو ہاتھ سے جانے دینا'۔ تو پھر دل کو ضائع کرنے یا ہاتھ سے جانے دینے سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص اپنے دل کو کس طرح گنوا سکتا ہے یا ضائع کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا صرف ایک طریقہ ممکن ہے کہ دل کسی کو دے دیا جائے۔ لیکن کسی کو دل دینا تو اچھی بات ہے، اس سے کسی کو منع کرنا بے معنی ہے۔ اور اگر دل کو گنوانے سے دل کو قتل کرنا یا مار ڈالنا مراد ہے، تو بات اور بھی نہیں بنتی، کیوں کہ دل کو مارنا کے معنی ہیں اپنی کسی خواہش کو پورا نہ ہونے دینا۔ یہ مفہوم یہاں بے کار ہے، کیوں کہ شعر میں کسی خواہش یا تمنا کا ذکر نہیں۔

دوسری قباحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود اپنے سے مخاطب ہے تو وہ اپنے آپ کو 'بے دماغ' (یعنی مغرور، چڑچڑا) نہ کہے گا اور اگر متکلم کسی دوسرے سے مخاطب ہے تو بھی اپنے مخاطب کو مغرور یا چڑچڑا کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے دل سے

مایوس ہو گیا ہے، اسے امید نہیں رہ گئی کہ دل کے ذریعے معرفت حاصل ہو سکے گی، لہذا وہ اپنے دل کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پھر اس میں غرور یا چڑچڑے پن کی کیا بات ہے؟ اگر دل کو ضائع کرنے والا خود اپنے سے بھی مخاطب ہے تو بھی یہ کہنے کا جواز نہیں کہ چوں کہ میں اپنے دل کو ضائع کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں مغرور یا چڑچڑا ہوں۔ لہذا مخاطب خود متکلم ہو یا اس کا کوئی ساتھی، 'بے دماغ' کہنے کا کوئی جواز نہیں۔

جوشِ ملسیانی نے 'بے دماغ' کے معنی لکھے ہیں ایسا شخص جسے سیر و تفریح کا شوق نہ ہو۔ ان معنی کی کوئی بنیاد نہیں۔ ممکن ہے ان کے ذہن میں غالب کا حسبِ ذیل شعر رہا ہو:

غم فراق میں تکلیف سیر باغ نہ دو

مجھے دماغ نہیں خندہ ہاے بے جا کا

حالاں کہ اس شعر کے ذریعے تو 'بے دماغ' کے معنی یہی متکلم ہوتے ہیں کہ ایسا شخص جو پھولوں کے کھلنے کو خندہ ہاے بے جا سمجھتا ہو، یعنی چڑچڑا اور مغرور شخص۔

بہر حال، یہ بات ظاہر ہے کہ شعر زیر بحث میں مخاطب نہ متکلم ہے اور نہ اس کا کوئی ساتھی، بلکہ معشوق ہے۔ معشوق کے لیے بے دماغ کی صفت مناسب بلکہ عام ہے۔ اور دل لے کر ضائع کر دینا، یا جب ہر یہ دل پیش کیا جائے تو اس کو قبول نہ کرنا بلکہ پھینک دینا، معشوق کی عام ادا بھی ہے۔ عاشق نے معشوق کو اپنا دل پیش کیا ہے۔ لیکن معشوق غرور حسن کی بنا پر اس کو قبول نہیں کرتا بلکہ پھینک دینا چاہتا ہے۔ اس موقع پر شعر کہا گیا کہ اے مغرور شخص، دل کو گنواتے کیوں ہو؟ یہ تو آئینہ شمال دار ہے۔ مانا کہ اس کے ذریعے تمہیں 'خبر' نہیں مل سکتی، لیکن اس میں 'سیر' کا سامان تو ہے۔

اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 'خبر' سے کیا مراد ہے اور 'سیر' سے اس کا کیا تعلق ہے؟ عام طور پر شارحین نے 'خبر' کو آگہی اور معرفت کے معنی میں لیا ہے۔ لیکن اس کا کوئی جواز نہیں۔ شوکت میرٹھی 'خبر' سے اطلاع مراد لیتے ہیں کہ معشوق کو ابھی اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ دل دراصل آئینہ شمال دار ہے جس میں خود معشوق کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مفہوم کا کوئی عمل نہیں، کیوں کہ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ تم کو دل سے خبر نہ سہی، سیر تو حاصل ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس مفہوم کی رو سے آئینہ شمال دار کے

معنی بالکل غلط نکلتے ہیں۔

’آئینہ تمثال دار‘ یا ’آئینہ تصویر‘ کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہیں کہ آئینہ (یعنی شیشہ) جس کے آرا پر نظر آتا ہو اور جس کی پشت پر تصویریں اس طرح لگائی جائیں یا پشت پر سے گزاری جائیں کہ دیکھنے والے کو گمان ہو کہ یہ تصویریں شیشے ہی پر لگی ہیں۔ بقول صاحب ’بہارِ نجم‘ یہ فرنگیوں کا عمل ہے۔ یعنی آئینہ تمثال دار کسی طرح کے فلمی پروے کا کام کرتا ہے۔ لہذا اس سے طرح طرح کی سیر ہو سکتی ہے۔ دوسرے معنی ہیں ایسا آئینہ جس کے چاروں طرف تصویریں لگی ہوں، یعنی ایسا آئینہ جس کی خوب زیبائش کی گئی ہو۔ غالب نے دونوں معنی کا لحاظ رکھا ہے اور ’تمثال دار‘ کے لغوی معنی بھی قائم کر دیے، یعنی ایسا آئینہ جس میں تمثال ہو، یا نظر آتی ہو۔ اس طرح ’سیر‘ بمعنی ’تفریح‘ اور ’سیر‘ بمعنی ’گھومنا پھرنا‘ دونوں مستحکم ہو گئے کہ یہ آئینہ اور کچھ ہونہ ہو، بڑی تفریحی چیز ضرور ہے۔

پھر ’خبر‘ کے کیا معنی ہیں؟ ’سیر‘ اور ’خبر‘ کو ایک دوسرے کا متقابل قرار دینا ضروری ہے کیوں کہ شعر میں صاف کہا گیا ہے کہ ’خبر نہیں تو سیر ضرور ہے‘۔ ’سیر‘ کے معنی تو ظاہر ہیں: تفریح، گھومنا پھرنا۔ یعنی وہ چیز جو وقتی ہو۔ لہذا سیر کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوں گی وہ بھی وقتی یا غیر یقینی ہوں گی، کہ ایک بار دیکھا، پھر نہ دیکھا۔ ایسی صورت میں جو معلومات حاصل ہوں ان کا معتبر ہونا ضروری نہیں۔ مثلاً آپ کسی جگہ سے ایک بار گزرے، وہاں آپ نے بارش ہوتے ہوئے دیکھی، لیکن آپ کے اس ایک بار دیکھنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہاں ہر وقت یا اکثر یا کثرت سے بارش ہوتی ہے۔ ممکن ہے اس دن بارش برسوں بعد ہوئی ہو اور یہ محض اتفاق تھا کہ آپ اسی دن وہاں پہنچے جس دن بارش ہو رہی تھی۔ لہذا ’سیر‘ کے ذریعے حاصل کردہ معلومات کا مبنی بر حقیقت ہونا واصلیت ہونا ضروری نہیں۔ حالانکہ وہ معلومات آپ نے پچھم خود حاصل کی تھیں۔

مسلمان اہل منطق نے ’خبر‘ کی دو قسمیں قرار دی تھیں۔ ایک تو خبر صادق اور دوسری خبر غیر صادق۔ پھر خبر صادق کی دو قسمیں کیں: ایک تو وحی الہی یا وہ خبر جو کسی معصوم سے حاصل ہو (اسی لیے وحی اور حدیث کو ’خبر‘ بھی کہتے ہیں)۔ دوسری ’خبر متواتر‘ یعنی ایسی اطلاع جو آپ نے براہ راست نہ حاصل کی ہو لیکن وہ اتنے کثیر ذرائع اور اتنے کثیر

طریقے سے آپ تک پہنچے کہ اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ مثلاً یہ اطلاع کہ دہلی نام کا ایک شہر ہندوستان میں ہے، ہمارے پاس اس کثرت اور تواتر سے پہنچی ہے کہ دہلی کو خود دیکھے بغیر بھی ہم اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ دہلی نام کا ایک شہر واقعی ہے۔ لہذا خبر متواتر کے ذریعے وہ علم حاصل ہوتا ہے جو براہ راست اور پچھم خود نہ حاصل کیا گیا ہو، لیکن جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔

مندرجہ بالا بحث سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ غالب نے ’سیر‘ کو عینی مشاہدہ لیکن نامعتبر مشاہدہ کے معنی میں استعمال کیا ہے اور ’خبر‘ کو ’خبر متواتر‘ یا ’خبر صادق‘ کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ یعنی دل کے ذریعے یا دل کے اندر تصویریں نظر آتی ہیں جو خبر متواتر یا خبر صادق کا درجہ تو نہیں رکھتیں، لیکن وہ ’سیر‘ تو یقیناً کہی جاسکتی ہیں یا ان کے ذریعے ’سیر‘ (تفریح) ضرور حاصل ہو سکتی ہے۔

آخری سوال یہ کہ عاشق نے اپنے دل کو تمثال دار آئینہ کیوں کہا؟ طباطبائی کا خیال درست ہے کہ دل میں حسرتیں اور آرزوئیں بھری ہوتی ہیں۔ لیکن تمثال داری کی صفت کو صرف حسرت و آرزو تک محدود کرنا ضروری نہیں۔ عاشق کا دل ہے، اس میں طرح طرح کی آرائش و زیبائش بھی ہوگی (مثلاً شعر و سخن، افسانہ و حکایت) تاکہ معشوق کو لبھاسکے اور ہزار طرح کے خیال اور خواب ہوں گے، تمثیل اور تصور بھی ہوگا۔ میر کا زبردست شعر ہے:

کچھ گل سے ہیں شکفتہ کچھ سرو سے ہیں قد کش

تیرے خیال میں ہم دیکھیں ہیں خواب کیا کیا

معنی کی اس قدر کثرت اور الفاظ کی بظاہر سادگی کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ غالب کے لیے ہر طرح کا شعر آسان تھا۔ وہ جب چاہتے تھے نہایت مشکل الفاظ اور بندش پر مبنی شعر کہہ دیتے تھے اور جب چاہتے تھے بظاہر سادہ اور باطن نہایت پر معنی شعر بھی کہہ دیتے تھے اور یہ غزل نو جوانی کی ہے۔ غضب کی غزل ہے اور غضب کا شعر۔

(۱۳۸)

دل خوں شدہ نککش حسرت دیدار  
آئینہ بہ دست بت بدست حتا ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر کا آہنگ تو انتہائی خوب صورت ہے ہی، اس کے دونوں پیکر بھی غیر معمولی ہیں، خاص کر مصرع ثانی میں تو پیکر بہت ہی بدیع ہے۔  
شارحین میں جھگڑا رہا ہے کہ 'بت بدست' اور 'حتا' کے درمیان اضافت ہے کہ نہیں۔ مولانا عرشی نے بے اضافت لکھا ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اضافت کے ساتھ بھی شعر کے معنی نکلتے ہیں اور اچھے نکلتے ہیں۔ دونوں مصرعوں میں نشست الفاظ ایسی ہے اور 'بدست' اور 'حتا' کے درمیان اضافت کا معاملہ ایسا ہے کہ شعر میں معنی کی کثرت پیدا ہوگئی ہے۔ بعض شارحین نے کوئی معنی لکھے ہیں، بعض نے کوئی اور معنی درج کیے ہیں۔ بعض نے ایک سے زیادہ معنی لکھے ہیں۔ میں نے کوئی شرح ایسی نہیں دیکھی جس میں تمام ممکن معنی درج ہوں لہذا میں یہاں ہر وہ معنی لکھتا ہوں جو میرے ذہن میں آئے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کسی شرح میں نہیں ملتے۔ ممکن ہے غور کرنے پر اور معنی بھی نکلیں لیکن میری نظر ان تک نہ پہنچی ہو۔

(۱) معشوق کا جلوہ دیکھنے کی تمنا آئینے کو بھی ہے۔ آئینے کو موقع بھی زیادہ ہیں کیوں کہ وہ اکثر معشوق کے سامنے رہتا ہے، لیکن معشوق کا جلوہ اس قدر روشن ہے کہ اس پر آئینے کی بھی نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ معشوق کا چہرہ شراب کے اثر سے سرخ ہو رہا ہے۔ آئینہ اس کے سامنے ہے۔ آئینے میں معشوق کا سرخ چہرہ ایسا لگتا ہے گویا حسرت دیدار

(۱۳۷)

عالمِ بُرا نہ مان جو واعظ بُرا کہے  
ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

اس شعر میں ایک خفیف سا نکتہ ایسا ہے جو شاید تمام ہی شارحین سے نظر انداز ہو گیا ہے۔ ایک مطلب تو ظاہر ہے کہ اے عالمِ بُرا اگر واعظ تم کو بُرا کہے تو بُرا نہ مانو۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے سب اچھا کہتے ہوں۔ بیخود موبانی نے عمدہ بات کہی ہے کہ لفظ 'سب' میں یہ کنایہ ہے کہ عالمِ بُرا کو زیادہ تر لوگ اچھا کہتے ہیں۔  
دوسرا نکتہ یہ ہے کہ چون کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے سب اچھا کہتے ہوں، اس لیے واعظ کو بھی سب لوگ اچھا نہیں کہتے۔ کچھ لوگ واعظ کو بھی بُرا کہتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ جس شخص کو ہر آدمی اچھا نہ کہتا ہو وہ اگر کسی دوسرے کو بُرا بھی کہے تو اس کی بات کی حقیقت کیا؟

کی کشش میں آئینے کا دل خون ہو گیا ہو۔ شراب کے نشے میں مست معشوق کے ہاتھ میں آئینہ مہندی کی طرح سرخ نظر آتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آئینے کا دل تناسے دیدار میں خون ہو گیا ہے۔ معنی کی لطافت یہ ہے کہ عام طور پر تو آئینے کی نگاہ معشوق پر ٹھہرتی نہیں، کیوں کہ وہ سراپا نور ہے۔ لیکن جب شراب کے اثر سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تو اس سرخی کے باعث معشوق کا عکس آئینے میں آجاتا ہے۔ (بت بدست اور حنا بے اضافت)۔

(۲) ہمارا دل تو کشش حسرت دیدار میں خون ہوا جا رہا ہے، ادھر معشوق نے اپنے ہاتھوں میں آئینہ یوں لے رکھا ہے جیسے ہاتھ میں مہندی لگی ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح مہندی کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹی اسی طرح آئینہ بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ لہذا آئینہ اس کے اور میرے بیچ حائل ہے۔ آئینہ بٹے تو میں اسے دیکھوں۔ میں اسے دیکھ نہیں پاتا، اس لیے میرا دل کشش حسرت دیدار میں خون ہو رہا ہے۔ معشوق غرور حسن کے نشے میں ہے اس لیے اسے بدست کہا ہے۔ (بت بدست اور حنا بے اضافت)۔

(۳) میرا دل جو کشش حسرت دیدار میں خون ہو گیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بدست معشوق کے ہاتھ میں آئینہ۔ یعنی شراب کے اثر سے معشوق کا چہرہ سرخ ہو جائے تو آئینے میں اس کا عکس سرخ نظر آئے گا، گویا آئینہ سرخ ہو کر مہندی بن جائے گا۔ میرا دل بھی اسی کشش میں خون ہو کر مہندی کا رنگ اختیار کر گیا ہے۔ آئینہ اور دل کی مناسبت ظاہر ہے۔ (بت بدست اور حنا بے اضافت)۔

(۴) ایک طرف ہمارا دل ہے جو کشش حسرت دیدار میں خون ہو گیا ہے۔ دوسری طرف آئینہ ہے، جس کی خوش نصیبی کا یہ عالم ہے کہ وہ بدست کے ہاتھوں میں ہے۔ آئینے کو حنا اس لیے کہا کہ وہ خوشی سے سرخ ہو رہا ہے کہ معشوق کے ہاتھوں میں ہے اور آئینے کی سرخی کی دلیل یہ ہے کہ معشوق کا چہرہ فروغ شراب سے سرخ ہے اور اس کا چہرہ آئینے میں منعکس ہے۔ (بت بدست اور حنا بے اضافت)۔

(۵) معشوق حنا کی وجہ سے، یا حنا کی محبت میں بدست ہے۔ یعنی وہ اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ کر اس قدر وجد کرتا ہے کہ گویا بدست ہو گیا ہے یا اسے حنا

لگانے کا اس قدر شوق ہے کہ اس کو شوق حنا میں بدست کہا جاسکتا ہے۔ معشوق کے ہاتھ میں آئینہ ہے۔ اس کے ہاتھ حنا سے سرخ ہیں اور ہمارا آئینہ دل کشش حسرت دیدار کی وجہ سے خون ہو کر سرخ ہو گیا ہے۔ ایک آئینہ وہ ہے جو بت بدست حنا کے ہاتھوں میں ہے اور ایک آئینہ ہمارا دل ہے۔ (بت بدست اور حنا بے اضافت)۔

(۶) معشوق بدست حنا ہے (اس کے معنی اوپر بیان ہوئے)۔ یہ اس بات کا آئینہ ہے کہ ہمارا دل کشش حسرت دیدار کی وجہ سے خون ہو گیا ہے۔ (بت بدست حنا بے اضافت)۔

(۷) حنا ایک آئینہ ہے جو بدست کے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی معشوق جو شراب کے نشے میں بدست ہے، اپنے حنائی ہاتھوں کو خوش ہو ہو کر یوں دیکھتا ہے گویا آئینہ دیکھ رہا ہو۔ ادھر ہمارا دل ہے جو کشش حسرت دیدار میں خون ہو گیا ہے۔ (بت بدست اور حنا بے اضافت)۔

(۸) معشوق کا چہرہ شراب کے اثر سے سرخ ہے۔ اس پر نشے کا اثر اس قدر ہے کہ جب وہ اپنے حنائی ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ لہذا مہندی معشوق کے لیے آئینے کا کام کر رہی ہے اور میرا دل کشش حسرت دیدار میں خون ہے۔ اس لیے بھی کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا اور اس لیے بھی کہ میرا دل بھی تو اس کے ہاتھوں کی طرح سرخ ہے، کاش وہ اپنے کف دست کو نہیں بلکہ میرے دل کو آئینہ سمجھ لیتا۔ (بت بدست اور حنا بے اضافت)۔

(۹) دل کچھ نہیں ہے، بس ایک شے ہے جو کشش حسرت دیدار میں خون ہو گئی ہے۔ اور آئینہ کچھ نہیں ہے، بس بت بدست کے ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی ہے۔ آئینے میں معشوق کا چہرہ منعکس ہے، اس لیے وہ مہندی کی طرح سرخ ہو گیا ہے۔ چوں کہ اس کا رنگ سرخ ہے، اور وہ جلوہ محبوب کے باعث متحیر ہو کر بے حس و حرکت ہو گیا ہے اور وہ معشوق کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے اس کو حنا سے تشبیہ دینا مناسب ہے۔ (بت بدست اور حنا بے اضافت)۔

(۱۰) دل کچھ نہیں، بس ایک شے ہے جو کشش حسرت دیدار میں خون ہو گئی ہے اور آئینہ کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب وہ بدست کے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو شرم



یا خوشی کے باعث مہندی کی طرح سرخ ہو جاتا ہے۔ (بدست اور حنا بے اضافت)۔  
ذرا غور کیجیے کہ تخیل کتابے لگام اور بلند پرواز ہے، لیکن نوجوان شاعر کی گرفت  
اس پر کس قدر مستحکم ہے۔  
اس شعر میں بھی تو الی اضافات ہے۔ اس موضوع پر کچھ بحث شعر نمبر ۳۲ کے تحت  
ملاحظہ ہو۔

(۱۳۹)

خونے تری افسردہ کیا وحشت دل کو  
معتوقی و بے حوصلگی طرفہ بلا ہے  
(زمانہ تحریر: ۱۸۱۶ء)

طباطبائی کو لفظ 'وحشت' پر اعتراض ہے کہ یہاں 'خواہش' کا محل تھا، نہ کہ 'وحشت' کا۔ بات دل کو لگتی ہوئی ہے۔ شاداں بلکرامی نے اپنے قلمی حاشیے میں 'وحشت دل' کی جگہ 'جوش جنوں' اور 'جذبہ دل' تجویز کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ لفظ 'وحشت' کے معنی پر غور کیا جائے تو طباطبائی کا اعتراض اتنا باوزن نہیں ثابت ہوتا جتنا وہ بظاہر لگتا ہے۔ 'وحشت' صفت ہے 'دیوانگی' کی اور 'دیوانگی' تقابل ہے 'عشق' کا۔ لہذا 'وحشت دل' کے وہی معنی ہیں جو 'جذبہ دل' یا 'جوش جنوں' کے ہیں۔ 'خواہش دل' کے مقابلے میں 'وحشت دل' زیادہ پُر زور ہے۔ سہا مجددی نے خوب کہا ہے کہ "وحشت دل سے دیوانہ پن کی امنگ مراد ہے..... اور سچ ہے معشوق شوخ و عاشق دیوانہ چاہیے۔"

معشوق کے بے حوصلگی سے علامہ سہانے 'بدخونی' اور 'برہمی مزاج' مراد لی ہے۔ ظاہر ہے کہ بے حوصلگی کو 'بدخونی' وغیرہ نہیں کہہ سکتے۔ بے حوصلہ شخص میں اتنا دم خم کہاں کہ وہ بدخونی کرے یا برہمی کا اظہار کرے؟ وہ تو خاموش رہنے کو گفتگو پر اور چپ چاپ پڑے رہنے کو چلت پھرت پر ترجیح دے گا، نہ کہ بدخوا اور برہم ہوگا۔ مولانا طباطبائی نے 'بے حوصلگی' کو "ٹھنڈی طبیعت، نہ ناز و ادا کا حوصلہ، نہ چھیڑ چھاڑ کا مزہ" سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بہت خوب اور مناسب ہے، لیکن طباطبائی کی یہ بات نہیں بنتی کہ "خوسے بددماغی اور بد مزاجی مراد ہے" اور "طرفہ بلا ہے" کے معنی ہیں، "قابل نفرت ہے"۔ بیخود موہانی نے اس پر اچھی گرفت کی ہے، لیکن وہ بھی 'خوسے' بدخونی وغیرہ مراد لیتے ہیں،

حالاں کہ اس مفہوم کا کوئی عمل نہیں، جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں۔

’خو‘ بمعنی محض ’عادت‘، ’اقا و طبع‘ لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ ’بے حوصلگی‘ کے وہ معنی بھی ٹھیک ہیں جو طباطبائی نے لکھے ہیں۔ لیکن ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ معشوق کو ظلم و ستم کرنے کا شوق نہیں۔ وہ سرد مزاج ہے۔ اس کو جدید زبان میں Sexually cold کہہ سکتے ہیں۔ اس کی اس سرد مزاجی اور بے کیفیتی نے دل کی امتگوں کو سرد کر دیا۔ معشوق ہو کر بے حوصلہ ہوتا، یعنی ستم کا ولولہ نہ رکھنا عاشق کے لیے عجب مصیبت (طرفہ بلا) ہے۔ معشوق کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر وہ کام کرے جس سے عاشق کو آزار پہنچتا ہو۔ حتیٰ کہ اگر وہ عاشق کو ستم کا حریص دیکھے تو ستم سے ہی ہاتھ کھینچ لے۔ غالب:

وا حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ

ہم کو حریص لذت آزار دیکھ کر

معشوق تو محض اوقات گزاری کے لیے ظلم کرتا ہے۔ یعنی عاشق کو ستانا، اس سے چھیڑ چھاڑ کرنا اس کے لیے خالی وقت کو کام میں لانے کا ذریعہ ہے۔ محسن بیک رنگی نے خوب کہا ہے:

رستم از کوئے تو اے خو بہ جفا کردہ بگو

صرف اوقات بہ آزار کہ خواہی کردن

تو کہاں وہ معشوق جو ’خو بہ جفا کردہ‘ ہے اور کہاں یہ معشوق جس کی خو میں سردی اور بے تمکلی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا انوکھا معشوق طرفہ بلا ہی ہوگا۔

’بے حوصلگی‘ کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ معشوق کو بناؤ سنگار کا شوق نہیں، وہ بالکل روکھا پھیکا ہے۔ اس میں وہ شے نہیں جس کو غالب نے ایک خط میں ڈومنی پن سے تعبیر کیا ہے، یعنی معشوق اپنی Sex appeal کو بروئے کار نہیں لاتا۔ خوب شعر کہا ہے۔

(۱۵۰)

آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج  
اڑتی سی اک خبر ہے زبانی طیور کی  
(زمانہ تحریر: ۱۸۵۱ء)

اڑتی خبر کا مضمون ذوق نے بھی خوب بانہا ہے:

قفس کو لے اڑیں اس پر اسیر مضطرب تیرے  
خبر گل کی سنیں اڑتی سی گرباد بہاری سے

لیکن یہ بات بھی ظاہر ہے کہ شعر میں معنی بہت کم ہیں۔ صرف لفظ ’مضطرب‘ معنی خیر ہے، کیوں کہ اس سے قفس کو لے اڑنے کا استدلال قائم ہوتا ہے۔ ’باد بہاری‘ کی مناسبت سے ’اڑتی خبر‘ اور اس کی مناسبت سے قفس کو لے اڑنا بہت عمدہ ہے، مگر معنی آفرینی کا پتا نہیں۔ جو کچھ ہے وہ سامنے ہے۔ لہذا اس شعر کو مضمون آفرینی کی مثال میں پیش کر سکتے ہیں، اور غالب و ذوق کا بنیادی فرق معلوم کرنا ہو تو ذوق کے شعر اور غالب کے زیر بحث شعر کا موازنہ بہت کار آمد ہوگا، کیوں کہ غالب کا شعر معنی آفرینی کی عمدہ مثال ہے۔

طباطبائی نے عمدہ بات کہی ہے کہ ”یہ تشبیہ نہایت بدلیج ہے اور انصاف یہ ہے کہ نئی ہے۔“ یعنی نغمہ بلبل کیا ہے، بہار کی اڑتی ہوئی خبر ہے۔ نغمے کو چوں کہ ’قفس‘ بھی کہتے ہیں اور خود ’قفس‘ کے معنی ’سانس‘، یعنی ’ہوا‘ کے ہیں، اس لیے نغمے کو اڑتی ہوئی خبر کہنا اور بھی لطیف بات ہے۔ لیکن ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ پورے مصرع اولیٰ کو اڑتی سی خبر فرض کیا جائے۔ یعنی بعض چڑیاں یہ خبر لاتی ہیں کہ اب بہار آنے والی ہے اور اسی وجہ سے بلبل نغمہ سنج ہے۔ پورے شعر میں مناسبتوں کے موتی جگمگا رہے ہیں۔ آمد، بلبل، اڑتی، خبر، زبانی، طیور۔ اس باعث شعر اور بھی حسین معلوم ہوتا ہے۔ تشبیہ کی جدت خود

## تمت

تمام شد بجومہ تعالیٰ اس کتاب مستطاب مشتمل بر انتخاب و شرح اشعار  
آبدار رشک عرفی و طالب میرزا اسد اللہ خاں غالب من تصنیفات بندۂ  
درگاہ الہی رقبہ دربار رسالت پناہی شارح صدوقی الموسوم بہ شمس الرحمن  
فاروقی در بلدہ عظیم آباد بتاریخ سیوم نومبر ۱۹۸۸ء مطابق ۲۲ ربیع الاول  
۱۴۰۹ ہجرت خاتم النبوت علیہ السلام بہ پایاں رسید و بہ اہتمام غالب انشی  
ٹیوٹ واقع شہر فرخندہ بنیاد جہان آباد الشتر بہ دہلی حلیہ طبع پوشیدہ ۱۲

محمد فاروق امینی تحریر نمود

سال اشاعت ۱۹۸۹ء

الحمد للہ المستعان کہ اس کتاب موسوم بہ 'تفہیم غالب' من تصنیفات بندۂ بیچ  
میر شمس الرحمن فاروقی زیر اہتمام غالب انشی ٹیوٹ، نئی دہلی، بار دوم در  
سنہ ۲۰۰۵ء حلیہ طبع پوشیدہ و مقبول خلاق شد۔ لاموتر الا اللہ۔ درود و سلام صد  
ہزار بار برسید الموجودات فخر کائنات صاحب لولاک تا ابد باد۔

ایک طرح کی معنی آفرینی ہے، کیوں کہ اس طرح مشبہ کو نئے معنی عطا ہوتے ہیں۔ پھر  
شعر میں دو معنی ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور مناسبتوں کے باعث شعر کے تمام الفاظ  
ایک دوسرے کے معنی کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح یہ شعر معنی آفرینی کی عمدہ مثال  
ہے۔ ہو سکتا ہے اڑتی خبر کا مضمون غالب نے ذوق سے لیا ہو، لیکن ندرت تشبیہ اور  
کثرت معنی کے باعث غالب کا شعر گوہر شاہوار بن گیا ہے۔

انگریزی میں ایک محاورہ ہے A Little bird یا A Little bird tells us سے اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی افواہ، خاص کر کسی خوش گوار  
whispers سے واقف رہے ہوں۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری (کلاس) یعنی O.E.D. کا  
بیان ہے کہ یہ فقرہ سب سے پہلے ۱۸۳۳ء میں استعمال ہوا تھا اور اس وقت اس کی شکل  
یہ تھی:

A Little bird has whispered its secret to me

اس کو محاورہ بنتے بنتے خاصی دیر لگی ہوگی۔ غالب کا شعر ۱۸۵۱ء کا ہے، اس لیے اس بات  
کا امکان نہیں کے برابر ہے کہ غالب تک یہ فقرہ یا محاورہ کسی انگریز کے توسط سے پہنچا  
ہو۔ لہذا یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ غالب کی تشبیہ سراسر طبع زاد ہے اور یہ ان کی  
طبعی کے کمال کا نمونہ ہے۔ شعر کے لہجے میں بھی طبعی، یعنی شگفتہ تازہ خیالی بہت  
نمایاں ہے۔ یہ انداز ہند ایرانی شعرا کے یہاں بہت مقبول رہا ہے۔ اردو والوں میں  
غالب اور ان کے پہلے میر کے یہاں اس کے کرشمے اکثر نظر آتے ہیں۔

سودا کا مندرجہ ذیل شعر شاید غالب کے ذہن میں رہا ہو، لیکن غالب کی تشبیہ پھر  
بھی اچھوتی ٹھہرتی ہے:

سنے ہے مرغ چمن کا تو نالہ اے ساقی  
بہار آتی ہے بلبل خبر لگا کہنے

## اشاریہ

اس اشاریے میں اسمائے رجال کے علاوہ کتاب کے پیش تراجم مطالب بھی درج ہیں۔ اشاریے کی تیاری میں قیمتی امداد کے لیے میں خلیل الرحمن دہلوی سلمہ کا شکر گزار ہوں۔

اسمائے رجال میں تخلص عام طور پر پہلے رکھا گیا ہے۔ جہاں تخلص نہیں ہے، وہاں عام طور پر اندراج نام کے پہلے حصے کے اعتبار سے ہے۔ مثلاً محمد حسن عسکری کا اندراج 'م' کی تقطیع میں ہے۔ جہاں کنیت زیادہ مشہور ہے، وہاں کنیت پہلے درج ہے۔ چنانچہ مولانا جلال الدین رومی کا اندراج 'رومی' کے تحت ہے۔

آتش، خواجہ حیدر علی ۱۷۱، ۳۰۵، ۳۳۶	ادیب، پروفیسر مسعود حسن رضوی ۱۳
آرزو، سراج الدین علی خاں، دیکھیے چراغ ہدایت	اولغت (ترقی اردو بورڈ، کراچی) ۲۳۳
آسی لکھنوی، مولانا عبدالباری ۲۹، ۱۳۱	استعارہ اور تمثیل کا فرق ۲۰۹، ۲۱۰
۱۲۸، ۱۶۷، ۱۷۰، ۲۳۲، ۲۳۳	استعارہ معکوس ۲۸، ۲۳۱، ۲۹۸، ۳۱۷
آغا محمد باقر ۱۲، ۱۳، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۹	اشعار گاس، الف ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۲۸، ۲۵۲
۳۳، ۲۸، ۱۷۲، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۲۷	۲۷۵، ۲۹۳، ۲۹۷، ۳۱۳، ۳۲۰
۲۵۲، ۲۸۶، ۲۹۵	۳۲۹، ۳۳۲، ۳۳۷، ۳۳۵
آندراج، فرہنگ ۱۲۸، ۲۹۳	اضافتوں کی کثرت ۳۲۸، ۳۲۹
اثر لکھنوی، نواب جعفر علی خاں ۱۲، ۹۰	اعلان نون ۲۵۵
ادعائے شاعر اور ادعائے شاعرانہ ۲۰۸	اقبال، علامہ ڈاکٹر محمد ۳۱۲
۲۹۳، ۲۹۳، ۲۰۹	الجبلی، حضرت شیخ عبدالکریم ۱۲۹
	امان، خواجہ ۱۱

انشائیہ انداز بیان ۱۸، ۱۹، ۷۷، ۱۵۳

۱۵۹، ۱۶۱، ۱۷۱، ۱۷۱، ۲۸۰

انوار الدولہ شفق، نواب ۱۳۹

انیس، میر میر علی ۲۵۵

او قاف کی علامت کا شعر جمعی سے تعلق ۸۱

۸۲

ایمپسن، ولیم ۸۱

ایوب تاپاں، ڈاکٹر ۱۵

ایہام ۱۹۲، ۳۰۳

بودیہ، شارل ۱۳۳، ۱۳۵

برکلی، بشپ جارج ۱۲۰

برہان قاطع ۱۶۲، ۱۹۸، ۲۶۵، ۲۹۷

۳۰۱، ۳۲۹، ۳۳۷

بہارِ عجم ۱۶۲، ۱۶۵، ۱۷۳، ۱۹۶، ۲۰۱، ۲۳۱

۲۶۵، ۲۷۰، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۹۷

۳۱۳، ۳۳۲، ۳۳۷، ۳۵۵

بیخود دہلوی، سید وحید الدین احمد ۱۲، ۱۳

۲۵، ۲۶، ۳۳، ۳۸، ۵۵، ۵۶، ۱۳۱

۱۶۷، ۱۷۷، ۱۸۳، ۱۹۸، ۱۹۹

۲۶۷، ۲۸۳، ۲۸۶، ۳۰۱، ۳۰۷

۳۱۳، ۳۳۳، ۳۳۹

بیخود موہانی، علامہ محمد احمد ۱۳، ۱۴، ۱۴، ۲۰

۲۱، ۳۸، ۵۶، ۶۶، ۷۲، ۱۳۱، ۱۳۷

۱۳۹، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۷، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۷

۱۹۱، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۱۶، ۲۱۹

۲۲۱، ۲۲۳، ۲۲۶، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۷، ۲۳۷

۲۵۲، ۲۶۰، ۲۶۳، ۲۶۶، ۲۷۵

۲۸۰، ۲۸۳، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۹۲

۲۹۵، ۲۹۶، ۳۰۳، ۳۰۷، ۳۰۸

۳۱۳، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۱

۳۲۵، ۳۲۹، ۳۳۱، ۳۳۳، ۳۳۶

۳۳۹، ۳۴۷، ۳۵۰، ۳۵۳، ۳۶۲

۳۶۳

بیدل، میرزا عبدالقادر ۵۲، ۱۰۱، ۱۰۳

۲۱۱، ۳۵۰

پلیٹس، جان ۲۵۱، ۳۲۵

پہلوے دم ۳۳۶، ۳۳۸

ترصیح ۹۰، ۱۰۷، ۱۱۰، ۲۳۳، ۳۱۲

ٹیک چند بہار (صاحب بہارِ عجم) دیکھیے بہارِ عجم۔

جاہ، محمد حسین ۲۹۸

جوش ملیحانی، پٹنٹ لکھورام ۱۲، ۱۳

۱۷۰، ۱۷۲، ۱۸۳، ۲۱۲، ۳۱۳، ۳۱۸

۳۵۳

جوش ملیح آبادی ۱۹۱

جینس، سر جیمز ۱۵۰

چراغ ہدایت ۳۳۷

حافظ شیرازی، خواجہ شمس الدین ۲۱۱، ۳۲۸

حالی، خواجہ الطاف حسین ۱۱، ۱۲، ۷۱، ۱۲۶

۱۳۱، ۱۷۷، ۱۹۵



- فرہنگ قواس ۳۳۷  
 فضل حق خیر آبادی، مولانا ۱۶۵  
 فیضی فیاضی ۲۹۳  
 قاسم کاشی ۱۳۵  
 قول بحال ۱۸، ۲۳، ۳۷، ۸۶، ۱۲۸، ۱۷۷  
 ۱۷۷، ۱۹۰، ۲۲۰، ۲۲۲  
 کامل قریشی، ڈاکٹر ۱۵  
 کمال اسٹیل ۱۷  
 کولرج، سیمونل ٹیلر ۵  
 لغت دیکھنے کی اہمیت ۱۴، ۱۵  
 مجنوں گورکھپوری، پروفیسر ۲۷۵  
 محمد پادشاہ (صاحب فرہنگ آندراج)  
 دیکھیے آندراج، فرہنگ  
 محمد حسن عسکری ۱۳۹  
 محمد حسین تبریزی (صاحب برہان قاطع)  
 دیکھیے برہان قاطع  
 محمد فاروق امینی ۳۶۶، ۴  
 محی الدین ابن عربی، حضرت شیخ اکبر  
 ۱۳۳، ۱۳۳  
 مراعات النظر دیکھیے رعایت، دیکھیے  
 مناسبت الفاظ  
 مسعود سعد سلمان ۲۹۳  
 مسکین شاہ صاحب حیدرآبادی ۲۶  
 مسلمات شعر ۲۰۸، ۲۰۹  
 مصحفی، شیخ غلام ہمدانی ۳۰۵
- مضمون آفرینی ۱۱۲، ۱۷۱، ۱۷۵، ۱۷۶  
 ۲۱۷، ۲۵۳، ۲۵۸، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۶۴  
 معاملہ بندی ۱۱۲، ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳  
 معنی آفرینی ۱۱۲، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۴۵، ۱۷۱  
 ۲۱۷، ۲۶۹، ۲۸۵، ۳۵۲، ۳۶۴  
 مناسبت الفاظ ۲۹، ۳۳، ۳۸، ۴۲، ۴۷  
 ۶۷، ۷۹، ۱۶۶، ۱۷۳  
 منتخب اللغات ۵۰، ۱۲۴، ۱۶۲، ۲۰۶، ۲۷۳  
 ۲۷۵، ۳۱۹  
 منظور احسن عباسی ۱۳  
 موارد المصادر ۲۷  
 مومن، حکیم مومن خاں ۱۳۶، ۲۰۲، ۲۰۳  
 ۲۲۳، ۲۲۹، ۲۷۳، ۳۰۵، ۳۳۶  
 مہر، مولانا غلام رسول ۱۳، ۷۲، ۱۶۷  
 ۲۶۰، ۲۷۵، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۶  
 ۲۹۷، ۳۰۱، ۳۱۸، ۳۲۱، ۳۳۳  
 میرزا ولی (ولی اصفہانی) ۱۳۶  
 میر، میر محمد تقی ۱۸، ۴۰، ۴۳، ۵۲، ۸۶  
 ۸۷، ۹۵، ۹۶، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۱  
 ۱۳۲، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۷۱، ۱۹۲  
 ۲۲۹، ۲۳۸، ۲۵۱، ۲۶۸، ۲۸۰  
 ۲۹۸، ۳۰۸، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۲۶  
 ۳۳۷، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۹، ۳۵۶  
 نادر، درگا پرشاد ۱۱، ۲۵۶  
 ناخ، شیخ امام بخش ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۹، ۱۸۱

- ۲۹۷، ۳۰۵، ۳۳۶  
 ناصر علی سرہندی ۱۶  
 نثار احمد فاروقی ۱۱  
 نظام الدین اولیا، حضرت شیخ ۲۰۵  
 نظم طباطبائی، علامہ سید علی حیدر علی ۱۲، ۱۳، ۱۴  
 ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۷، ۳۳، ۳۷، ۵۶  
 ۶۲، ۱۰۸، ۱۲۸، ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۷۲  
 ۱۷۵، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۹۱، ۱۹۸، ۲۰۱  
 ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳، ۲۵۱، ۲۶۰، ۲۶۲  
 ۲۶۳، ۲۷۰، ۲۸۶، ۲۹۲، ۲۹۵  
 ۲۹۶، ۳۰۲، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۰  
 ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸  
 ۳۲۱، ۳۲۵، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۱  
 ۳۳۳، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸  
 ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۵۰، ۳۶۴  
 نعمت خاں عالی ۱۶۸
- نیاز بریلوی، حضرت شاہ ۴۰  
 نیاز فتح پوری، علامہ ۱۲، ۲۹۶، ۳۰۰، ۳۰۱  
 ۳۳۲، ۳۳۸  
 نیر مسعود ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۳  
 وارث حسن، حضرت شاہ ۷۳، ۱۳۹  
 وارثہ، سیالکوٹی مل (صاحب مصطلحات  
 شعر) ۳۳۷  
 وجدانی علم (غالب کا) ۴۳، ۵۵، ۶۶  
 ۱۵۰  
 وحشی یزدی ۷۶، ۷۷  
 وقوع گوئی، دیکھیے معاملہ بندی  
 ولی دکنی ۲۵۱، ۲۵۵  
 یوسف سلیم چشتی، پروفیسر ۱۲، ۷۷، ۲۱۹  
 ۳۰۷